

لعنی

رسال و ملطف آدم و سعادت

Ketabton.com

مرتبه

زند فارود و تصحیح نعمت

١٥١-

عن سبع مائة حديث فانه ذكر في نفسه الخ كذا طلب صدر

٨٤

١١ - اول المئتين تسبح في الدليل فهم غيري .

الله انت

صلوات الله علی

الباقم
وصویع
البعدهم

اصح
دعا

اکم حادیع

دعا

کلیات بابی بالله

یعنی

مجموعہ کلام و رسائل و ملفوظات و مکہمات

مولانا ابو الحسن زید فاروقی حب نسبتیندی محدثی
مرتبہ

ڈاکٹر رہان احمد فاروقی ایم اے پی یونیورسٹی (علیگ)

پاکستانی اوقاف مغربی پاکستان

ناشران

ملک دین محمد زید سر اشاعت نہریں بیوی و دلہور

مکہ محمد عارف طابع

ناشران ملک دین محمد ایڈنسن
با اعانت
محکمه اوقاف مغربی پاکستان

مقام اشاعت اشاعت منزل، بُل روڈ، لاہور

مطبوعی دین محمدی پریس، لاہور

قیمت دس روپے ستر پیسے بلا جلد
قیمت مجلد دس روپے ۱۰۰

مہر س

| | |
|-----|--|
| ۱ | دیباچہ |
| | مقدمہ |
| ۷ | عبدالجبار نزدان محضراحوال |
| ۱۷ | ابوالحسن فاروق دہلوی طفوٹات |
| ۴۹ | مکتوبات |
| ۱۲۵ | رسائل |
| ۱۲۶ | ا۔ در بیان حقیقت نماز |
| ۱۲۹ | ب۔ صورت نماز |
| ۱۵۰ | ج۔ محضرا بیان توحید |
| ۱۵۱ | د۔ معنی آمودہ |
| ۱۵۵ | ک۔ معنی اسم اللہ و سورۃ فاتحہ |
| ۱۵۹ | ل۔ بیان سورۃ والشمس |
| ۱۶۲ | م۔ بیان سورۃ اخلاص |
| ۱۶۵ | ن۔ بیان سورۃ المفلق |
| ۱۶۶ | ط۔ بیان سورۃ النّاس |
| ۱۶۹ | ی۔ توجہ دعائے قبولت |
| ۱۶۹ | ک۔ بیان آیۃ و هُوَ مَعْلُومٌ آیۃ ائمّا توْلُوفِ شَمَ وِجْهُ اللّٰہ |

- ۱۷۴ - رساله در شرح ریاضیات موسومه سلسلة الاحراء
- ۱۹۱ - مجموعه کلام
- ۱۹۲ - مشنوی قبل از زمان درویشی
- ۲۰۱ - مشنوی گنج فقر
- ۲۳۷ - ساقی نامه
- ۲۴۲ - سلسله پیران طریقت
- ۲۴۸ - تاریخ تولد هر و پیران مبارک
- ۲۴۸ - تاریخ تولد خواجہ محمد عبدالله
- ۲۵۵ - ریاضیات، فردیها

ہفتہِ در میں

(محمد عبدالجبار ریزی وائی پریس رچ سکالا شعبہ تعلیم و مطبوعات مکملہ اوفاق حکومتی خری پاکستان لیور)

یوں تو کسی بھی مصنف کی نشری پاکشیری تخلیقات کا جائزہ لینا کچھ آسان نہیں ہے تو مالیکین مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے جب صاحب تخلیق ایک آگاہ راز سالک، ایک پاک عمل صنوفی اور ایک صاحب مقام ولی و بزرگ دین بھی ہو۔ اور پھر پیداوی سراپا خارج اربن جاتی ہے جب تبصرہ نگار سمجھداں ہونے کے علاوہ تروامن رو سیاہ بھی ہو اور تردا منی بھی وہ نہیں کہ یعنی دامن پھوڑ دیں تو فرشتے و صنوکریں بلکہ دوہ کے ذوقِ عصیاں ہی سرمایہ زیست اور متاعِ حیات ہو۔

دریائے معاصری تنک آبی سے ہوا خشک

میرا سردار من بھی ابھی تم نہ ہو اکھت
پس خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت کی تخلیقات کے بارے میں سچاری خامہ فرمائی گویا جگت ہے اسی کا اہتمام ہے۔ اہل جرح کی ناؤک اندازیاں ہو مگر اور ہمارا دل واغدار کہ زخم کھانا اور لذت اٹھانے ہی جس کا مفہوم مقصود ہے۔ کیوں نہ ہوں پردت ناؤک بیداد کہ ہم آپ اٹھا لاتے ہیں گرتیز خطا ہوتا ہے۔
حق تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ کی تمام شعری و نثری تحریروں کا نچوڑا ایک سچلے میں بھی پشت کیا جاسکتا ہے کہ بیانِ توحید باری تعالیٰ ہی ان کے کلام میں چاری و ساری ہے۔ اسی ایک گل خوش رنگ کا مضمون ہے جسے انہوں نے مونہیں نہ را ڈھنگ سے باندھا ہے یعنی ہر خطہ ہے مومن کی نبی آن نبی شان

لیکن میں نے ذوقِ حضوری کی خاطر اس حکامت لذیذ کو ایک حد تک طول دے دیا ہے۔
حضرت خواجہ کے نگارشات کا جائزہ تنقید و تبصرہ کے عام اصولوں کے تحت یعنی کوشش سوادب ہے۔ چنان مصنف کا مقصد تحریر ہے ہو کہ فصاحت و بلاغت کے دریابہائیں، انسان پردازی کے حجج

دکھاتے چاہیں، نازک جیالیوں اور رنگیں پیانیوں سے فہنوں کو مخطوط و پوچھنخونہ کیا جائے۔ بلکہ اس کے برغلشہماں تشرکے نامہ شترکو بھی قصد آوندیعہ ابلاغ خپڑا جاتے۔ اور جہاں تحریر ایک خاص اور واضح مقصد کی حامل ہوا اور مقصد بھی خالص دینی و نہیں ہو وہاں نظم و نشر کو جانچنے کے فنی اصول اور تنقیدی پیمانے کماں ساختہ دے سکتے ہیں۔ جہاں صریح خامدہ تو ائے سروش اور نداۓ غیب کا درجہ رکھتی ہو وہاں تبصرہ و جسح کا کیا کام ہے جہاں ہر لفظ پر ایک بھروسہ شخصیت کی جھلک اٹھکھوں کو بخرا کر رہی ہو وہاں حسن تحریر اور حسن بیان کی حیثیت تو ناؤں بھی نہیں رہ جاتی۔ وہاں تو ملکا ہیں اسی عکسِ روح پور کے خدوخال متعین کرتی رہ جاتی ہیں اور نظراءَ جمال کی فرصت بھی عیسیٰ نہیں آنے پاتی۔

نظراءَ جمال کی فرصت کماں ملی۔ محفل کا اُن کی جاہ و حشم دیکھتے رہے۔

پس حضرت خواجہ کی نظم و نثر کا ذکر آپ کی حیاتِ باپر کات سے علیحدہ طور پر نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کثرت اسی وحدت میں جلوہ فگن ہے (اور شاید بھی جدید تنقید کا بنیادی تقاضا بھی ہے) بہرحال کیسے کماں کے بجا تے کیا کماں ہمارا اصل موضوع ہے۔

حضرت خواجہ کے حالات و سوانح پیشتعل کوئی مکمل یا یاقاude کتاب ہماری نظر سے نہیں گز رہی ہیں بہت سی کتابوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے لیکن ایک آو وہ صفحہ یا زیادہ سے زیادہ ایک باب کی صورت میں مثلًا خواجگار نسبندیدہ کوئی مذکور ہے تو اس میں خواجہ کا ذکر جزوًا آجاتا ہے، اولیاۓ کرام پر کوئی تصنیف ہے تو وہاں آپ کا نام مل جائے گا۔ زیادہ تو آپ کا ذکر ان مقالوں، رسالوں یا کتابوں میں ہے جو حضرت امام ربانی تجدد والفت ننانی کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ مرتب کلیات نے زید ابوالغیر کی سوانح باقی باللہ کا حوالہ دیا ہے لیکن لاہور کی کسی لائبریری میں کم سے کم وہ مجھے دستیاب نہ ہو سکی ممکن ہے اس میں سوانح نگاری کا حقن ادا کر دیا گیا ہو لیکن اس میں سے جس قدر حوالے مرتب نے دیتے ہیں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر مواد تو شاید شیخ اکرام کی تصنیف روز کوئی بھی موجود ہے حالانکہ وہاں بھی خواجہ کا ذکر صرف ایک باب میں ہی کیا گیا ہے۔ بہرحال دو ہشتے کے اندر اندر جس قدر معلومات حاصل ہو سکی ہیں انہی کی روشنی میں یہ مقدمہ ترتیب دیا گیا ہے اگرچہ میری بہالت دنادانی کی تاریکی میں یہ روشنی مدد ضرور پڑھنی ہوگی۔

نام و ولد تیب آپ کا اسم گوامی محمد الباقی خنا۔ والد ماجد کا نام قاضی عبد السلام مفرندي بتایا

گیا ہے اور بعض جگہ قریبی کا لفظ بھی آخر میں لکھا ہوا ہے۔ اکثر وقت آہ و بکامیں گزرتا تھا جس سے خود ان کا صاحب حال ہونا بالکل عیاں ہے۔

نسب | مکال کا مذکورہ اس کے نسب و نسل کے بغیر نامکمل کیوں تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی علمت و فضیلت، کسب مکال کی مرثیوں مقتضی ہوتی ہے ذکر نسب کی؟ یہ عنوان مجبوراً اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ مرتب کلیات نے اس پر خاص طور پر بحث کی ہے اور لطف یہ ہے کہ آخر میں خود ہی جامی کا یہ شعر ہی نقل کر دیا ہے۔

بندہ عشق شدی ترکِ نسب کوں جامی

کہ دیں رہا فلاں ابین فلاں چڑیے نیت

بہ حال ثابت یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ خواجہ صاحب سید نہیں تھے بلکہ توک تھے کیونکہ آپ کے والد قوم خلخ سے تھے جو ایک تحقیق کے مطابق ترک قوم کی ایک شاخ ہے اور وسرے دعوے کی رو سے افغان قوم کی ایک شاخ ہے اور علیحدی اسی سے مشتق ہے۔ یوں لفظ خلخ خود ہی خلجان میں لٹا گیا تو پھر توک و افغان کا فیصلہ کیونکر کیا جاتے؟ اس ضمن میں خواجہ کے وہ اشعار بطور سند پیش کئے گئے ہیں، جو آپ نے اپنے فرزند کی ولادت پر کہے ہیں۔

گل شکرے بو الحبے دست داد شکرہ ہندی و گل توک زاد

بلکہ ز کشمیر گل ز عفران شد شکر آلوہ ہند دستاں

در اصل یہ جو ایضاً تعارف و تشبیہ کی نیاز میں باقی ہو رہی ہیں، ولادت فرزند پر اظہارِ میراث کے طور پر ہیں، ورنہ خواجہ کا مقصد اپنے حسبِ نسب کی نشاندہی کو نہیں ہے۔ کہ یوں تو پھر مادریت سے گزر کو حقیقت تک رسائی اور نفس سے خالی ہو کر حق میں زندہ و باقی رہنے کے تمام دعوے باطل ہو کرہ جاتے ہیں۔ یہ تو عجیب تضاد ہو گا کہ ایک طرف تو اس فرمان کو شرعِ راہ بنائے کی تلقین کی جلتے کہ تم میں ہی بزرگ نہ ہے جس کے اہمیت اپنے ہیں۔ اور دوسری طرف علیحدی و توک زاد ہونے پر اظہارِ فخر کیا جاتے؟ اگر کہیں ان کا سب سادہ ایضاً ہونا نہیں ہے تو وہاں یہ بحث چھیر دی گئی ہے کہ سب سطائقری میں نواسے کو کہتے ہیں پوتے کو نہیں کہتے۔ یہ نہ تصور کیا جائے کہ راقم کو خواجہ کے سید ہونے پر اصرار ہے بلکہ مقصود یہ جعلناک ہے کہ چار سے زد بیک یہ بحث اسی سر سے سے بیکار اور غیر مفید ہے اور خود ان صوفیا کی تعلیمات کے منافی ہے۔

جن کی زندگیاں انہی بُتاں رنگ و خون کو توڑنے میں صرف ہو گئیں۔

لقب [ب] اباقی باللہ حضرت خواجہ کا لقب ہی کہنا چاہیے۔ اور یہ اس لئے ہوا کہ آپ کو اتباعِ کامل کی بذلت بیرونگ کہی کہا جاتا ہے معلوم نہیں کیوں ممکن ہے اس کی وجہ وہ عاجزی اور انکساری ہو جو آپ کی ذات میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔

ولادت و وفات [ح] حضرت خواجہ کا سال ولادت ۱۷۹ ہجری ۴۵۵ھ مطابق ۱۷۶۴ء ہے۔ اور یہی سال ولادت آپ کے عظیم المرتب مرید و خلیفہ امام ربانی حضرت احمد رشیدی مجدد والغت ثانی کا بھنی ہے۔ اللہ اللہ کیا اتصال روحانی ہے ہے تیر سے جلوں کو بکھیں اور مرے دل کی طرف بکھیں

کہاں ہیں اتصالِ موج و ساحل و بیکھنے والے
سال وفات ۱۴۰۱ھ یعنی ۱۹۸۰ء ہے گویا کل مدتِ حیات کم و بیش چالیس برس اولیں ایک رباعی میں بڑے لطیف پیرتے میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے
صحر انشیں نسیلِ حد رکن کہ آستین تو می کنم پا گریہ و افسروہ می روم
آل گلبغم بہ بارع تو کریک نشیم لطف نشگفتہ ام ہنوز کہ پڑ مردہ می روم
تعلیم و تربیت [خ] خواجہ کو ابتداء سے حصولِ علم کا شوق بحدِ جنون تھا چنانچہ حصولِ علم کی منزیلیں بڑی تیزی سے طے کرنے لگے۔ لیکن ایک مجزوب نے ایک دن بڑے معنی خیز اندازیں یہ کہہ کر کہہ دو کتر و ہدایہ نتوان وید خدا را آئینہ دل میں کہ کتابے پہ ایں غیبت

آپ کی وُنیا ہی بدل ڈالی۔ اب آئینہ دل کو دیکھنے کی وصیں سوار ہو گئی، اور بجانے کہاں کہاں لئے پھرتی رہی، ایک بیقراری بختی کہ چین نہ لینے دیتی تھی ہے

پار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالتِ اب اضطراب کی سی ہے
کتنے ہی بزرگوں کے آستانوں پہ حاضری وی۔ اور کتنی ہی بشارتوں سے سرفراز ہوتے۔ اور آئینہ لے روکوڑ

ول کو اتنی جلا دی کہ حقیقت کا صحیح عکس اس میں نظر آنے لگا۔ خود لکھتے ہیں۔ "ہرگاہ ملائتے می رسد در خود می تیریم و یک بد صفتے در خود می یا پیم و ایں اشارت راموغظہ غبی میدے انیم" — اللہ اللہ کیا مقام ہے اور کیا آگاہی! اسی خیال کو ظفر نے یوں شعر کا جامہ پہنا دیا ہے ہے

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے نہ بڑھتے دیکھتے اور ول کے عجائب نہ بڑھتے
پڑی اپنی برا بیوں پر جو نظر تونگاہ میں کوئی بڑا نہ رہا
نزیریت کے سلسلے میں منعقدہ نزدیکوں سے فیض حاصل کیا۔ ممکتو بات میں فرد اُفراد اُسکے نام گزارے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں ان کی یہ تحریر ملا حظہ ہو :

"..... پیر سہ است، پیر خرقہ، پیر تعلیم، پیر صحبت
اگر کسے از پیر صحبت بہ راہِ صحبت بکمال رسیدہ باشد اُور اب پیر تعلیم کہ تلقین ذکر
از و بکیر و حاجت نبود، مثلاً شخص کہ منزل رسید بعد ازاں اور ابا سپ
خریدن حاجت نباشد۔"

اسی لمحن میں سفر و سیاحت کے دوران کہا جاتا ہے کہ خواجہ بہا الدین نقشبند عالم از خود رفتگی میں سامنے آئے اور خواجہ صاحب نے ان سے فیضِ روحانی حاصل کیا۔ یوں بظاہر اگرچہ تعلیم اور صوری رسمی لیکن بہادر صوری سے تو پھر کوپڑی کسے کہتے ہیں!

ما در الشہر کے صوفی درویش خواجہ امکنگی نے عالمِ خواب میں کہا :

خلافت

"ہماری آنکھ تھماری راہ پر لگی ہے۔"

اور مخفون نے خلیفہ بن کر اپ کو ہندوستان بھیجا۔ اسی خرقہ خلافت کو حاصل کرنے کے لیے بعض مریدوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور ایک دو ہوتے ہیں کہ خود پیر و مرشد ان کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ بعضیہ یہ صورت خود خواجہ باتی باللہ اور حضرت مجدد کی پیری دمریدی اور عطاۓ خرقہ خلافت کی تھی کہ خلافت عادت خواجہ نے حضرت مجدد کو اپنے ہاں قیام کی دخوت دی، اور پھر اور بھی نیپارہ خلافت مکمل استخارہ یکے بغیر ان کو مرید کیا۔ اور سلوک کی منزلیں دو اڑھائی ماہ میں طے کر دیں۔ اور اس کا اعتراف بکمال عقبہ نے حضرت مجدد نے خود بھی کیا ہے۔

و روہنہ حضرت خواجہ کی چھپیں سالہ حیات بارگفت کا نتیجہ باشان واقعہ ان کا سر زمین ہند میں تشریف لانا ہے۔ اور سچ توبہ ہے کہ انہیں

بہاں خاص طور پر بھیجا گیا تھا۔ ہماری مراد اس بشارت و اشارت سے ہے جو حضرت خواجہ کو ہندوستان آئے کے سلسلہ میں ہوئی تھی۔ ہمارے جدید نظام و محقق اپنی تحریروں کو زیادہ سائیٹیک بنانے کی وجہ میں اس پیلو سے ذرا گزین کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ تویں تو ایمان بالغیب کی ساری عمارت ہی دھرم سے نیچے آ رہے گی۔ جب ہم ان دیکھے خدا، نادبادہ فرشتوں اور وحی دالہام پر عقیدہ رکھتے ہیں تو کشف و کرامت اور اشارت و بشارت کے ذکر سے کبھی شرعاً میں ہی تحقیقی نائبان رسول سے دُنیا کب خالی رہی ہے، مصلحین کے زندہ نہیں ہی تو سُذْتِ الْهَی کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ پس اس نظام ظاہری کے علاوہ کوئی تو نظام اور بھی ضرور ہے کہ انسانیت قدر مذکوت ہیں گر کہ پھر سے کھوئے ہوئے راستوں کو پالیا کرنے ہے۔ اور سیاہ خانہ پھر سے منور ہو جاتے ہیں۔ ثبوت و ویل اور برهان و استدلال کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے دجدان کہتے ہیں اور یہی وہ طاقت ہے کہ عقل جسیں کے آگے پیڑاں دیتی ہے، ہم اس موصوع پر خواجہ کی شاعری کے باب میں اظہار کریں گے تا ہم یہاں خود خواجہ کی تحریروں میں سے، دو ایک اقتباسات ایسے پیش کرنے ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں بشارت و اشارت کو کتنا دخل تھا۔ شیخ تاج کو ایک مکتوب ہیں لکھتے ہیں:

”دیگر سید نجای کہ اور ترقی دار د چوں در خدمت شما است چہ حاجت
کہ ایں جا بیا پید۔ اگر از غیب اشارت نے بر سر دنا چار باید آمد آں چیزے و گارت
عمر من کریم میلی و میلی اکیست من“

ایک شخص کو تحریر فرماتے ہیں:

”پیش از بیک روز بیک نوع اشارت شد با نکہ اہمال در توجہ بجانب
شما نکیم دا زہمیں جا غائبانہ نیز بہت بر ترقی شما بر بندیم، بتوفیق اللہ تعالیٰ
لقصیر نخواہیم کرد۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں:

— اشارت خواجہ بزرگ برائیں است کہ شمارا دریں وقت تہما نگزاریم، ہر

چند کہ ازیں جانباز خافل نہیں، چہ تو ان کر دکہ مارحت دھم شما ساختہ اند۔

ان شالوں سے جہاں ہمارے نقطہ نظر کی وضاحت ہو جاتی ہے تو ہمار حضرت خواجہ کی (متقاوماً بلند پر فائز ہونے کے باوصفت) میکنی طبع کتنی روح پر و مگر وقت انگریز سے بسحان اللہ کرہے ہیں اس کی روحاںی تربیت لیکن کہتے ہیں خود کو اس کا خادم — !

مزید وضاحت کے لیے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت کا ہر سوال میں استخارہ کرتا تو ہر تذکرہ و تاریخ کی روشنی سے ثابت ہے۔ وہ بھی تو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پھر غائب انکساری کے علاوہ ان کی ایک خاص بات "سنراحوال" ہے یعنی چھپاتے تھے ان بالوں کو — آخر کچھ تو تھا چھپاتے تھے! اور راز کو راز رکھنے کے لیے مخفیات کو ہمیشہ خوب سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ طلب نہیں کہ دین و ایمان کی بُنیاد ہی سجنیات و خوارق پر ہے بلکہ امور ایام کے مدد و معاون ہیں ہیں — اگرچہ صرف انہی پردار و مدار کرنا بھی ضروری و مناسب نہیں لیکن یہ کہ ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا — ورنہ خود خواجہ نے مولانا روم کا پر شعر اس ضمن میں نقل کیا ہے —

موجب ایمان نسب شد بحجزات

بوئے جنسیت کند جذب صفات

ہر حال خواجہ کو حضرت امکنگی نے خلافت کا خلعت خاص اسی لیے بخشان تھا کہ وہ ہندوستان جا کر اصلاح حال پر توجہ دیں۔ اور وہ خاص مشن حضرت احمد سرہندری کی تربیت کرنا تھا جن کے فیض سے آگے چل کر کتنے فتوؤں کا سرباب ہونا تھا۔ اچھا پنج حضرت خواجہ وفات سے چند سال قبل ہندوستان میں آئے، کچھ عرصہ کی شہر اور ایک سال کے قریب لاہور میں رہے اور بالآخر دہلی پہنچ کر قلعہ فیروز شاہ میں نادم اخراجیم ہے۔ اس قلعہ کی فیروز بھٹی کا اس سے بڑھ کر کیا بہوت سوگا کریں وہ مرکز تجلیات خواجہ حضرت امام ربانی کے لیے تخلیٰ گاہ ایمان وہ راستہ نہ۔

مکمل و مفصل سوانح کی کمیابی ।

حضرت خواجہ کے مکمل سوانح حیات اور مفصل حالات زندگی اس بیانے پر نہیں کہ مہندوست ان میں ان کی آمد زندگی کے آخری حصے میں ہے۔ اور وہ بھی اس وقت جب عہدِ اکبری کے مشهور مؤرخ دفات پاپ کر کے تھے۔ خود افضل نے اپنے حالات تحریر کرنے کے بعد تبلیغ و اشاعت دین پر زیادہ زور دیا ہے۔ پھر یہ کہ ان کی مدت حیات بھی بہت مختصر ہے اور نہ شاید یہ پہلو اس قدر شدید نہ رہتا اور مدد سے بڑھ کر یہ کہ ان کے مرید و خلیفہ کی شہرت، اس درجہ ہوئی کہ لکھنے والوں کی زیادہ توجہ ادھر سی ہی اور خواجہ کا ذکر ان کے ساتھ ہی محض جزو ایسا ضمانت کیا جائے لگا۔ اور پھر اکب ایسے صفوٰتی باعث کے حالات زندگی کا سراغ لگانا آسان بھی تو نہیں کہ جس نے ظاہری سے زیادہ بالطفی نزدیں طے کی ہوں جن کا علم سولتے اس کی ذات کے سی کو مشکل ہی سے ہو سکتا ہے۔ درویشانہ زندگی تھی۔ دربار سے غسلک ہونا درکنار، اس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے اور شان استغنا کا یہ عالم کہ خان خانوں نے اکب لاکھ کی رقم حج کے لیے بھیجی تو خفا ہوئے اور فرمایا کہ یہ فقیر کی شان کے خلاف ہے۔ نواب مرتضیٰ خاں جو عموماً شیخ فرمید کے نام سے مشہور ہیں اُمراءٰ و وقت میں خاص درجہ کے مالک تھے لیکن خواجہ کے غلام بیے دام تھے اور تحفظِ دین کے لیے جو کچھ اُنہوں نے کیا خواجہ ہی کے فیضِ درکوت کے طفیل تھا۔ جس طرح ان امراءٰ سے بے نیاز تھے ویسے ہی بادشاہ کی اخوبی کوئی پردازہ تھی۔ اکب مکتبہ میں لکھتے ہیں:

"ایں جماعت کو صاحبِ مائیں۔ اپیشان را نیز در صحبت و بگرا فرستیم و خود
بھروسہ پاشیم، مرضی ہستے یا نہ اندیشہ بادشاہ را در حض طربیار نہ۔"

بپا الفاظ در حقیقت بڑے معنی نہیں ہیں اور ممکن ہے اکب نا زادہ ترین بحث کے سلسلے میں کچھ کام سمجھیں۔ سہم اس کا فحش نہ کریں کہ نامناسب سمجھتے ہیں۔

اکبری فرشتمہ کفر و الحاد ।

حضرت خواجہ جب دہلی پہنچی تو اکبری کفر و الحاد کا فتنہ زور دیں پڑھا اور دین الہی کا دربار اکبری میں طوطی بول لے۔

لے روکوڑ تھے اندکر داولیسے نقشبند

لے تو پھر محمد دالعت ثانی کی گرد

لے جیات مجدد

جذبگیر کے سامنے کیونکر جھک سکتی تھی؟

نخا۔ یہاں ذہن میں یہ سوال اپھر آتا ہے کہ حضرت خواجہ نے اس فتنہ کے قلع قمع کے لیے کیا کیا؟ مجدد الف ثانی نے جو کچھ کیا نام بخشی طور پر اس کا تعلق عہدِ جہاں بھری سے ہے تو کیا خود اکبر کے عہد میں یہ بزرگ خاموش نمائشائی ہی تھے۔ اس سلسلے میں ابوالحلاصم آزاد نے اپنے ناکرہ میں لکھا کہ اکبری کفر والحاد کا قلع قمع انہی بزرگوں نے کیا۔ لیکن شیخ اکرام نے روڈ کوڑ میں اس نظر یہ کی صحت سے انکار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اکبری فتنہ کا خاتمه خود اکبری عہد کے امراء ہی نے کر دیا تھا۔ کیونکہ عوام میں یہ دینِ تقبیل تھا ہی نہیں اصرفت خواصن تک محدود تھا اور ان سے حضرت خواجہ کے اور ان کے بعد حضرت مجدد کے خاصے تعلقات تھے اور وہ لوگ ان کی تعلیم وہابیت سے بہت متاثر تھے اور جو کچھ کیا انہی کی وہابیت پر کیا۔ اور یہی وجہ محتی کہ اکبر کے مرنے کے ساتھ ہی دینِ الٹی کی بھی موت واقع ہو گئی، حال ہی میں پروفیسر فرمان صاحب نے جیاتِ مجدد میں اکرام صاحب کے بیان کی تحریز زدہ کی ہے اور ایک طویل مبحث اس سلسلے میں کی ہے جس میں تھی دبرِ ہمی عہتدال سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ خصوصاً جہاں بھر کا ذکر بہت جذباتی انداز میں کیا گیا ہے۔ بہر حال فرمان صاحب کا یہ کہنا بجا ہے کہ :

”اکبر کے مرنے کے ساتھ دینِ الٹی کا خاتمه ہو گیا تھا لیکن اکبر کی حکمتِ عملی سے ملک کے اندر جو بے دینی اور بدعت کی ہوا چلی تھی وہ آندھی سے طوفان اور طوفان سے سیل بے ہنگام بن چکی تھی اور اکبر کے مرتے ہی اس نے اپنی نندی کو تذکر کے سکون نہیں اختیار کر دیا تھا۔“

یہ بیان جہاں بالکل درست ہے وہاں غیر شعوری طور پر صنعت روڈ کوڑ کے جہاں کی تائید تصدیق مکملی کرتا نظر آ رہا ہے کہ یہی بات تو وہاں کہی گئی ہے کہ حضرت مجدد نے ”آگے پہل کر“ اکبر کی بھیلا فی ہموئی بدعنوں کا قلع قمع کیا اور عہدِ جہاں بھری کے رافضی صححانات کا سید باب کیا۔ اکبر کی زندگی میں اگر کوئی بات ہوئی ہوتی تو تاریخیں بالکل خاموش نہ رہیں، شیخ عبدالحق محدث اور شاہ ولی اللہ جیسے علمیں بزرگ سکوت اختیار نہ کرتے اور خود جہاں بھر حضرت کی ذات سے یوں بے نہیں ہوتا جیسا کہ تو زکر کے اندر اجات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس ضمن میں کچھ عقیدتیں دو

نے یہ واقعہ ضرور بیان کیا ہے کہ اکیر نے دربار سجا�ا، اس میں دین الہی کی رتی خاہ بر کرنے کے لیے مقابل میں دربار محمدی بنایا، جو بالکل دریان ساد کھایا گیا تھا لیکن حضرت مجدد وہاں گئے اور پھر ایسی آندھی چلی کہ دین الہی والا دربار نہ و بالا ہو گیا اور ہر چیز حضرت سے اکھڑ گئی، خود اکبر زخمی ہوا اور انہی زخمیوں سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اور دربار محمدی بالکل صحیح سلامت رہا۔ اگر یوں ہوا ہوتا تو یہاں پھر حضرت مجدد کی شان میں یوں گستاخی کام نکب نہ ہو سکتا تھا۔ اکبر جیسے طاقتور مسلمان اعلیٰ اعلیٰ باشا سے بزرگ نشیر نیڈا بہر حال صوبہ کے کام کا کام نہ تھا جس کا اطمینان بلا نکلفت حضرت مجدد نے اپنے مکتبات میں کیا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے اہل ہو سکتے تھے وہ امراء دربار ہی تو تھے اور ان لوگوں پر یقیناً حضرت مجدد کا ہی نہیں بلکہ خواجہ کا بھی اثر تھا۔ اور آپ ہی بزرگوں کی صحبت کا فیض تھا کہ وہ لوگ کفر والحاد کے سیل بے پناہ کو روکنے میں کام باب رہتے۔ اور پھر خواص و امراء کے علاوہ حضرت مجدد نے عوام سے رالبط فائم کر کے وسیع پیمانے پر رد بدععت کا اہتمام کیا اور اسی تجدید و احیا مدد ہبکے باعث وہ مجدد الف ثانی کے جلیل الافت در تبلہ پر فائز ہیں۔

ہم اصل موضوع سے مخنوٹ اسادور ہو چکے ہیں۔ (اس موضوع پر ہم کسی علیحدہ مستقل تفصیف میں بحث کریں گے) ہم بہتر ہے تھے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا وردہ ہند ہی ان کی جیان مقدس کا مختتم باشان واقع ہے۔ اس کے نہیں ہم یوں ہیں۔ سب سے پہلا تو یہی جس پر ہم مختصراً تحریر کر چکے ہیں کہ قضا و قدر نے ابھی جس کام پر مامور کیا تھا وہ تھا حضرت احمد سرہندی کی تربیت کرنا۔ دوسری یہ کہ حضرت سرہندی کے مشن کی بنیادی خشت خود رکھتا یعنی امراء خواص سے تعلقات فائم کے اکبری الحاد و کفر کی بیخ کرنی کرنا اور تیسرا یہ کہ سلسلہ نقشبندیہ کا سر زمین ہند میں رائج کرنا کہ آپ کی تشریف آدمی سے قبل بہاں صرف اس کا نام ہی ٹھانجا تھا۔ باقاعدہ اس کی تزویج و زوجی حضرت ہی کا کارنامہ ہے۔

کارنامہ عظیم مندرجہ بالا نیوں کا ناموں میں سے عظیم ترین کارنامہ حضرت مجدد الف
ثانی کی تربیت ہی ہے۔ حضرت خواجہ کو اس کا زیر ہر کی انجام دہی سے

قبل ہی معلوم تھا کہ احمد سرہندی آگے چل کر کیا ہونے والے میں ایک مکتوب کے وہ مشہور الفاظ جو مجدد سے متعلق ہر مقالہ و تصنیف میں درج ہیں ملاحظہ ہوں :

..... پہ آں می ماند کہ چراغے شود کہ عالم ہا از روشن گردند۔

اور پہلی گفتگی کے اب اسے پیشیں گئی کہنا چاہیے سے حرف احرفاً درست ثابت ہوئی کہ اس دور الحادث صداقت میں حضرت مجدد اور ان کے خلفاء و فقائی کے باعث شیعہ ایمان دہدایت پھر سے روشن ہوئی۔ اور پھر اس ایک شیعہ سے کتنی ہی شعیعہ روشن ہوئی چلی گئیں۔

یک چراغ است در بیان خانہ کہ از پرتو آں

ہر کب می بگری انجمنے ساختہ اند

اور خود اس شیعہ نے کسب نور خود حضرت خواجہ ہی سے کیا۔ رسمی طریقہ سے یعنی محض کتابی و درسی سلسلہ تعلیم و تعلم کی صورت میں تو رسول کی مدت در کار ہوتی ہے لیکن بہاں کل مدت دو دھانیاں سے زیادہ نہیں تھیں کہ تمام منزلیں مرشد کامل نے طے کر دیں ہے

یہ فیضانِ نظر نہ تھا یا کہ ملکت کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی

کیا کیا بار موز تھے جو اشاروں اور کتابوں ہی میں سمجھا دیے کہ راہِ سلوک و معرفت کا کوئی گوشہ مرید پا صفا کی نظروں سے نہیں نہ رہا۔ اور رشتہ کی استواری کا کیا کہنا کہ خواجہ نے خود اپنے فرزندانِ ارجمند کی تربیت کا کام حضرت مجدد کے سپرد کیا اور حضرت خواجہ نے مرشد کی طرح اس حقیقت کے اعزاف سے بھی گریز نہ فرمایا کہ مخصوص نے جو کچھ حاصل کیا مرشدزادوں کے والد بزرگوار سے ہی کیا۔ ایک مکتوب ہیں کہ دونوں شاگردوں کے نام ہے تحریر فرماتے ہیں : (ترجمہ)

یہ فقیر سے پانچ تک آپ کے والد بزرگوار کے احسانوں میں غرق ہے فقیر نے

اس طریقے میں لاف بے کا سبق اخنی سے لیا ہے اور ان کی توجہ

شریف نے اس ناقابل کو دو اڑھائی ماہ میں نسبت نقشبندیہ تک پہنچایا ہے۔

فرمذنی اور انحصاری کا یہ ہری اندازہ سے جو اس سلسلہ طریقت کا طرہ اقبال نے حضرت خواجہ کے

لئے جیانت مجدد پروفیسر فرمائی۔

انکسار کی چند مشاہیں ہم اور پڑے چکے ہیں اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم زرگ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار بھی مولانا جامی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے نام اپنے خطوط کو "عوضداشت" سے ہو سوم کرتے تھے بلکہ بارہ فرمایا کرتے تھے کہ "خراسان میں تو آفتاب موجود ہے (یعنی جامی) لوگ اسے چھوڑ کر ما درا النہر کے چراغ کے (یعنی میرے) پاس کیوں آتے ہیں؟"

لیکن پچھے مرشد و رہبر کی طرح جہاں ضرورت ہوتی وہاں مرید کو سختی سے بھی منع فرمانے کی مشاہیں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت مجدد نے جب منزلِ راہِ سلوک میں ایک مرتبہ ایک رہنمائی حضرت خواجہ کو لکھ کر بھیجی تو خواجہ نے ان الفاظ میں اظہارِ ناخوشی کیا:

..... دیگر آں رہائی محدثانہ کہ نو شذوذ بودند در غایبت سفاہت است
حاشا کہ فائل آں مقبولے باشد، زنهار، ادبِ محمد اربد کہ کارخانہ الہی محلِ ہتشنا
و بغیرت است۔

دُه رہائی پہنچی سے

| | |
|--|--|
| اے دریغا کیں شریعتِ علتِ اخیانی است | ملتِ ما کافری و ملتِ ترسائی است |
| کفر و ایماہر و زلف و فتنے آں بیانی است | کفر و ایماہر و واندر راہِ ما بیکھائی است |

ظاہر ہے کہ اس میں وحدتِ الوجود کا راستے را ہر دی کی حد تک غالب ہے اور یہ خواجہ کے خلافِ مسکن تھا۔ (جس پر ہم ابھی بحث کریں گے)

نظریہ و وحدت الشہود] بہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آگے چل کر مجدد نے راجح کیا وہ درہ مل خواجہ سی کی رہنمائی و تعلیم کا توجہ تھا۔ تصوف کی تاریخ پر بحث ہمارے موضوع سے خارج ہر سے لیکن موضوع عوچنگہ بہر حال متعلق اسی بیان سے ہے لہذا بعرضِ کراپڑوی ہے کہ لفظ صوفی بعض کے نزدیک "صفا" سے مشتق ہے کہ در آں صورتِ اس کے معنی صفائی قلب کے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ لفظ صوفی ہی کثرتِ انتہال سے صوفی بن گیا، کوئی کہتا ہے کہ اصحابِ صوفی سے محبت کرنے والے با صفتِ اقبال میں رہنے والے صوفی کہلاتے، کسی کا جمال ہے کہ صوف (پسمند)

پہنچنے والے صوفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وجہِ تسمیہ کچھ ہی ہوا کرے یہ بہر حال مسلم ہے کہ تصوف

اسلامی کا وجود ابتدائی اسلامی ہی سے تھا۔ اور اس پر عربی میں قدیم ترین کتاب اللمع ہے جو ابوالنصر سراج کی تصنیف ہے، فارسی میں دستیاب ہونے والی سب سے پرانی کتاب حضرت علی بھجوبری کی کشف المحبوب ہے۔ مولانا عبدالماجد دربیابادی نے ایک باقاعدہ تصنیف کی صورت میں مختلف کتب تصوف کا حال قلمبند کیا ہے۔ اور جامی کی مشہور تصنیف لواحی کا ذکر اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر کیا ہے۔

پس تصوف کا وجود تو شروع سے ہے لیکن ہم اب یہ کہ آہستہ آہستہ اس پر صحی خیالات ویدا تصوّرات اور بیانی انکاریوں اثر انداز ہوتے گئے کہ بات کہیں سے کہیں جا پہنچی اور وحدۃ الوجود کی دہ تفسیریں اور تاویلیں کی گئیں کہ "شریعت" کی پابندی غیر ضروری قرار دی جانے لگی اور جب یہ چیز شاعروں کے سخنے چڑھی تو شریعت کا مذاق اڑایا جانے لگا، حالانکہ :

"قدما صوفیہ طریقت اور شریعت کو الگ الگ جبال نہ کرتے مختہ بلکہ شریعت کی تکمیل ہی کا دوسرا نام طریقت تھا۔"

حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ "ہمارا یہ علم (یعنی تصوف) احادیث نبوی کا نجٹھ ہے" لیکن مدعاوں وحدۃ الوجود نے معاملہ کچھ کچھ کر دیا۔ شریعت سے بے نیازی پہاں تک طریقی کہ کلمہ طبیبی بھی پورا پڑھنے کی توفیق یا ضرورت نہ رہی۔ کوئی جزوِ اقل پر اکتفا کر رہا ہے تو کوئی جزوِ اول کے بھی صفتِ اقل یعنی لا الہ ہی کو کافی سمجھتا ہے، اور کوئی لا ہی کہنے پر صر ہے — اور دلیل ہر صورت میں ہی کہ وجود واحد ہے لہذا باقی سب کچھ ڈھونگ ہے لیکن یہ بات بچسری پیش ٹال دی گئی کہ آخر وجود واحد نے یہ کائنات تو تخلیق کی تو اس کا بھی تو کوئی سبب ہو گا — کوئی مقصد ہو گا، اگر کچھ بھی نہیں تو پھر جزا و سزا، جنت و دوزخ نیکی و بدی، فرقِ جن و انس و ملک، اور خود صوفیا کے مراتب قطبیے ابدال و ولی، سب باطل ہو کر رہ جاتے ہیں، یہ تو خالقِ حقیقی (وجود واحد) کی ضراغتی و تخلیق پر چوتھوئی نکھل لیتیں دایکیں! دراصل راہِ سلوک و طلب میں ایک تنقیم ایسا آئمہ ہے کہ اسے مقامِ حیرت سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں سالک پر کچھ ایسی بے خودی و جبراںی طاری ہو جاتی ہے کہ داہم صبر و ضبط ہانخست سے چھوٹ

چھوٹ جاتا ہے لیکن بھی وہ بھٹی ہے کہ اس میں خاشاک غیرِ اللہ کو مچونک کر خود آگامی کا ندن تیار ہوا کرتا ہے۔

لیکن اگر جیت و تجیر بدستور غالب ہے تو مجد و بیت ہی حد فاصل میں جاتی ہے۔ تاہم بہاں بھی وہ لوگ صاحب مقام ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے لیے کم سے کم ریاضت تو کی اگرچہ منزل پر نہ پہنچ سکے۔ گرصل بندی وہ ہے کہ جب یہ چیز تجربہ کی بحث میں فلسفہ بن کر جاہل و بے عمل صوفیوں تک پہنچی تو انہوں نے دین برحق کو بالکل مضمضہ خیز بنایا اور تجربہ کے گمراہی خلافت کے کیا ہوسکتا تھا؟ اور یہ بات بھی ابتداء ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ ابوالنصر سراج نے صوفیوں کی خلاف اقسام شمار کرائی ہیں:

۱۔ صوفی و جمادیت سے گزر کر حقیقت تک رسائی حاصل کر چکا ہو اور اپنے نفس سے خالی ہو کر حق میں زندہ و باتی ہو۔

۲۔ منتصو : جو مجاہدہ کر کے یہ نزلیں طے کر رہا ہو اور کوشش کر رہا ہو۔

۳۔ مستصو : جو محض جاہ و جلال اور مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یہ دھونگ رچا ہوئے ہو۔

اور پھر کہتے ہیں (ترجمہ) "صوفی صاحب وصول پو و منتصو صاحب اصول و مستصو صاحب فضول"۔

اور پھر کیا خوب فرمایا کہ:

"صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی چیز کا مالک ہو اور نہ کوئی اس کا مالک ہو۔" لہ

یہ دو ہی ضمنوں ہے جسے اقبال نے یوں بیان کیا ہے ہر نے غلام اور ائمہ اوس راغلام۔
بات پھر کچھ دوڑکل گئی۔ مقصود بیان یہ ہے کہ صحیادی طور پر ہر چند کہ دونوں نظریات اثاثت توجیہ سے مشتعل ہیں لیکن خالق و مخلوق خصوص اللہ اور بندیے کے رشتہ دلعلیٰ کے بارے میں دونوں میں بعد المشرقین ہے۔ پہلی صورت (وحدت الوجود) میں عذر عشرت قطراہ ہے نے دریا میں فشا ہو جا یا بہت ترقی کی تو قطراہ "اما بحر" پکارنے لگتا ہے اور خالق و مخلوق کا انتیاز ہی سرے سے بدھت

لہ تصورت عبد الماجد دریا بادی۔

جا تھے اور عملی مตھجہ رہبانیت یا فرار کے سوا کچھ بہادر نہیں ہوتا۔ اور تخلیق کائنات کا نہ کوئی مقصد باقی رہ جاتھے نہ معانی! بس بھی کہ "رام نیری ہے لیلا ہے" ۔۔۔ لیکن بصورت دیگر (و حدت الشہود میں) اللہ اور بندے کا خاص رشتہ ہے اور پابندیٰ مشریعیت اس رشتہ کی آنواری کا ذریعہ ہے۔ بہاں "ہمہ اوست" کہ کرسکون بے عملی اور کسے را با کسے کارے نباشد" کی فضائی پیدا کرنے کی خواہش نہیں ہوتی بلکہ "ہمہ ازا اوست" کافرہ لگا کر جوش، حرکت و عمل اور "رد نی ہنگامہ احراز" بننے کی دعوت دی جاتی ہے۔ بہاں ذکل سے مرادی دکا دش سے گریز نہیں بلکہ ٹرکشہ کن پس تکبیر بر جبار کی، کی تلقین کا نام ہے۔ بہاں "عالم حلقة دام جیاں" نہیں ہے بلکہ سعی سیم کے ذریعے جیات جاداں کی تلاش کا نام ہے ۔۔۔ بہہ گیری مسلک نقشبندیہ ہی میں دکھائی دیتی ہے اور ہندوستان میں اس کی وسیع پہانے پر زدیں اگرچہ حضرت مجدد الف ثانی کا کارنامہ ہے، لیکن اس کی تحریر بیڑی کا فرض خواجه باقی باللہ ہی نے انعام دیا۔۔۔ اور اگرچہ آپ خود تادری وحدت الوجود کے حیرت خانے میں بھی رہے لیکن اس وقت بھی آپ "وحدت الشہود" کی طرف مائل ضرور تھے۔ اور "اما الحنف" کافرہ آپ کے زدیک تب بھی "نابینا فی" کی دلیل تھا۔ چنانچہ شیخ نوحؒ کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں :

"اما از اغلاط الصور فیان جاہل اخراز نمائی ۔۔۔ ۔۔۔ ہرگاہ کلمہ لا الہ الا اللہ

را بگوئی در دل بیندیشی کہ نیست معبد غیر او، بدآنکہ ہرچہ محظوظ و مقصود

تست ہماں معبد نیست و ہرچہ ہوئے تست خدا نے تست ۔۔۔

پس بر توباد کہ سعی کئی کہ او لا حضرت خود را در توبے تو ظاہر ساز دن چوں دراں

مقام استغامت بیانی، ہم تفصیل او در ہم بے ہمہ ہمہ اور ایاں وحق را از

باطل ابینا ز وہی نہ آنکھ چوں نابینا یاں ہمہ را خدا دانی و خدا گوئی ۔۔۔

ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں :

"وصیت دیگر آنکہ باہر کہ در باطن او طلبِ معرفت الہی نیست صحبتِ نداری

و از علماء دنیا کہ علم را وسیله جاہ دیعت اخرون زبان آور بی ساختہ انہ چنان اجتناب

نمائی کہ آدمی از شبیر"۔

طریقہ نقشبندیہ نقش بندی سلسلے کی تاریخ مرتب کناہ مارا موصوع نہیں۔ یہاں صرف اشارۃ پہلا مقصود ہے کہ صوفیاً کے اس سلسلے اور دوسرے مسلسلوں میں فرق کیا ہے؟ چنانچہ اس کا انتہائی مختصر ذکر ہم یوں کریں گے:

۱. سلسلہ نقشبندیہ میں کون سی باتیں نہیں ہیں؟

ب۔ کون سی باتیں اس میں ہیں؟

ج۔ چوتابنیں ہیں انھیں خواجہ باقی باشندے کیس طرح بیان کیا ہے؟

(۱) مدد چلہ کشی نہیں (۲) سماں عزیزی (۳) قبور پر روشی، غلاف یا چادر اندازی کا مسلسلہ نہیں (۴) سجدہ تعظیمی جس میں قدم بھی وغیرہ شامل ہے یہاں مندرجہ سے (۵) مرید خوابین کو بے پروگ کی اجازت نہیں (۶) "اما الحنفی" کی کجا لش نہیں (۷) رہباشت اور حجگ یا سنبیاس کی حاجت نہیں (۸) نمود نمائش کی ضرورت نہیں۔

(ب) (۱) پابندی شرعیت کو اولین درجہ حاصل ہے (۲) "اما عبدہ" کے مقام تک پہنچنے کی تلقین ہے (۳) آداب زیادہ اور ریاضت کم ہے (۴) کالاتِ ثبوت کو مشعل راہ بناؤ کر زندگی گزارنے کی تعلیم ہے (۵) وحدت الشہود کے مقام تک برآء شرعیت پہنچنے کی تلقین ہے (۶) جذب دستی کی بجائے حرکت عمل پر زور دیا گیا ہے۔

(ج) خواجہ باقی باشندے نے مندرجہ بالا تعلیمات پر عمل پردازی کی کیس طرح تلقین کی ہے۔ یہی ہمارا اہل موضوع ہے۔ اس ضمن میں کچھ عبارتیں آپ کے مکتوبات سے اقتباسات کی صورت میں اور پردی جا چکی ہیں۔ یہاں کچھ اور اقتباسات مختصر عنوانات کے تحت درج کیے جائے ہیں جن سے خواجہ صاحب کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کے انداز لکھارش کا بھی اندازہ ہوتا جائے گا (اگرچہ اسے انشا پروازی یا انشنگاری کے نام نہاد اصولوں کے تحت چانچا سو را دب اور صریح گستاخی ہے ہمارا اشارہ صرف ان کے لب والجہ کی گھلادٹ دشیر سینی گفتار کی طرف ہے)۔

اس ضمن میں مختصرًا اور عرض کیا جا چکا ہے اور خود خواجہ کی تحریفوں سے کچھ عبارتیں مثال میں نقل بھی کی جا چکی ہیں۔ ہر حال مزید وضاحت کے

تصوف

یہے حضرت خواجہ کے کچھ اور ارشادات درج ذیل ہیں:

انفاس کے حال

راہ سلوک میں "ستراحوال" یا "انفاس کے راز" ایک ضروری شرط ہے لیکن خواجہ صاحب اس کے فائل ہونے کے باوصفت بیہقی ہے جس قدر حالات دوسروں تک بغیر خطرہ پہنچا جائے سکیں ان تسلسلے سے گزینہ کرنا چاہیے کہ ہم مقصد توزیعادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید کرنے ہے۔
یخ نماج کو لکھتے ہیں:

"خبر بسیار است کہ نوشتیں آں ہنالی از خللے نیشت التہاس آں است کہ
پہ بہر تقدیر پر تقدیر کے تو ان نوشت بنویںند"

لا الہ الا اللہ

اس سلسلے میں تین مختلف تفسیرات و توصیحات کا پھوڑ بیوں پیش کرتے ہیں:

۱- لا موثر فی الوجود لا اللہ

۲- لا معبود لا اللہ

۳- لا موجود لا اللہ

"اما مذہب اصح ہمانست کہ لا موثر فی الوجود الا اللہ"

آگے چل کر فرماتے ہیں:

"محبوبت را اقسام و مراتب بیمار است حمل کا رب نہ رعیت بودن ا-

محبوبت وجود

جب آپ سے پوچھا گیا کہ کائنات کو ہر صفات ترار دیا گیا ہے تو پھر عکس تو وجود ہی کا ہوتا ہے لہذا حق تعالیٰ کی ذات کا بھی گویا محبوبت وجود لازمی ہوا۔ آپ سے جواب دیا:

"حمل آنصور ذات نیشت که محبوبت لازم آئد بلکہ محل آں وہم است چنانہ
صورت منتش در آئیسمہ نہ در دن اون اون اوست اما وہم حکم فی کند

لہ بقول مولانا نے ردم ہے

سر نہیں اس است اندر زیر و بم فاش اگر کوئم جہاں برہم زنم

کر رہے ایک دست است۔"

محبت ذات

"محبت ذات از اهل شہود کسی راست کے غرضِ خودش درمیان نباشد چنانچہ
بعضی از ایں جوست و سوت دارند کہ از مشاهدہ اولنگی و سریعی را بیشتر پیدا نہ کروند

روزہ

"روزہ دشمنِ صفتِ حق بسحانه آدمان است، چوں ا تعالیٰ و تقدس از اکل و شرب
منزہ است۔"

پیامبر مصطفیٰ

"پیامبر مصطفیٰ نیز صفتِ حق بسحانه در آدمان است چوں ا تعالیٰ و تقدس منزہ از نوم است۔"

مقام فنا

ایک بُجگہ "فنا" کے معنیِ نہایتِ عمدگی و دوضاحت سے بیان فرمائے ہیں کہ اس سے مراد
بینہیں کہ اپنے جسم کو مٹا دیا جائے یا آزار پسندی و اذیت طلبی کو شعار بنالیا جائے اور اپنے
آپ کو دونوں جہان سے فارغِ تصور کر لیا جائے وغیرہ۔ بلکہ پہ کہ:

..... از فنا فنا کے صفات بشیریت می خواہند .. . از ایشان نہ نام

ماند نہ نشان، ہرچہ بہ ایشان نہ سو ب پوڈنام پہاڑی خود رسید، ایں مقامِ مقام
باندرا است۔" گویا حصلِ مقام "فنا فی اللہ" نہیں بلکہ "بعا با اللہ" ہے۔

حاصلِ سلوک

فرماتے ہیں: "حاصلِ سلوک تنفصیل آئست کہ تہذیب اخلاق حاصل
نہ کرو، چوں ایں معنیِ حاصل نہ کرو، سلوک تنفصیل کر دن حصیل حاصل است۔"

گویا اگرچہ راہِ در راہِ محبت کا حاشدہ حافظہ ہے

اس میں دوچار بہت سخت مقام آتے ہیں

لہ خواجہ بہر در سہ سلطہ جاہیں ایک آن میں کثرتِ نہایاں + ہم آپنے کے سامنے جبکہ کے ٹھوکریں
لہ۔ یہی دو تعلیم و فلسفہ ہے جسے اقبال فی تفصیل کے ساتھ اپنے کلام میں بیش کیا ہے۔

تائیم را اس سلوک سے مراد کرتے ہیں "ٹلے کرنا" یہ سے نہ کہ اس میں "کھو جانا" دہان سے کچھ حاصل کرنے کے لئے ہر چیز کی نفی کر دینا۔ اور نفی کا تصور ہے بھی تو کچھ اس طرح ہے:

نفی

"سخن خواجہ احرار است کہ ہر چیز دیدہ شد و دلستہ شد ہمہ خبر است بلکہ لا آزا نفی می باشد کرد۔ بد انکہ باہم تشریع و تقدیس ہر کجا موجود است۔"

دحدوت شہودی

چنانچہ آگے چل کر حضرت مجدد الف ثانی نے جو "دحدوت الشہود" کا باقاعدہ نظریہ پیش کیا ہے اس کی تعلیم بھی درحقیقت مرشد ہی نے دی تھی کبیر نکہ خود ان کے ہاں بہ بحث کئی بچھے نظر آتی ہے خصوصاً آپ کے مکتوب علیٰ میں کافی وضاحت سے اس پر اطمینان حاصل فرمایا ہے:

"مشرب شیخ علاء الدولہ سمنانی وحدت وجود نسبت آرے شہود ایشان شہود اکمل است، فرق آنست کہ جماعتے از علام اشیار امداد و مدد خالی ہے می دانند و ظہور ایشان را در خارج چوں ظہور صور در مرأت می گویند و می وجود جزوی کیے رانی دانند و حضرت شیخ با وجود قوت شہود و ارتفاع آں اشیار اما موجود خارجی می گویند..."

اور آگے چل کر مکتوب علیٰ میں کہ علیٰ سے تھی طویل نزد ہے پوری طرح کھول کر مسئلے کو بیان کیا ہے اور یہ وضاحت کی ہے کہ وہ جو منازل سلوک میں سالک کے ممکنہ سے "دحدوت الوجود" وغیرہ کے الفاظ انکل جاتے ہیں وہ در حمل عالم چیرت میں ایسا ہو تو اس سے جو مختلف منازل میں سے صرف ایک "در بیانی منزل ہے" آخری "منزل" نہیں ہے۔ اس کی توجیہہ بیوں فرماتے ہیں:

"غالب بڑیں سالک چیرت است نہ آنکہ صور عالم را وہم ونجیال گوید۔"

انہی الفاظ کو آگے چل کر مجدد نے بیوں بیان کیا ہے کہ:

"مقام وحدت الوجود سالک کو ابتدائی سلوک میں پیش آتی ہے..... اس کے بعد مقام وحدت الشہود نکشیت ہوتا ہے جو شرع کے عین مطابق ہے"

پابندی شریعت

تو گویا اہل چیز پابندی شریعت ہے جس کا مطلب یہ ہے
سادے الفاظ میں یہ ہے کہ احکام باری تعالیٰ کی تعمیل و
بیرونی کو مقصد زیست قرار دیا جائے کہ یہی راہ راست اڑاونجات اور صراطِ مستقیم ہے۔ اور
سلسلہ نقشبندیہ کا یہی کازناہ ہے کہ اسی ضالطہ جیات پر کاربند رہنے کی تعلیم مسلمانوں کو دی
— بلکہ یہ کہ اس کی باد دہانی کرامی گیونکہ بات نئی نہ مخفی۔ صرف یہ کہ عاصم لوگوں کو مجبول گئی مخفی وہ
کسی اور راستے پر جانکرے مخفی انجیس اس راستے پر لانا مقصود تھا پوری حقیقت پیغمبر پاک صلی اللہ
علیہ وسلم نے دکھایا اور بتایا تھا۔ اسی تجدید یہ پیشان و فکر کے باعث حضرت احمد سرہندی کو
مجدد کہا گیا اور خود مجدد کو فوری حقیقت حضرت خواجہ باقی باشہ کی معرفت حاصل ہوا چنانچہ
ملاحظہ ہوا ایک مکتوب میں خواجہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”ابن طیفہ در غایت بغیرت و نازک انہ شما کتب محقیقین بر طالعہ نکردا ایڈ طریقہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پیچ تفاوتے طریقہ ایشان است اخفا و عدم
ابیاز از خلق، شکستگی و متواضع بودن و خود را در دارہ عوام انداختن، اکتفا
بستن بعتراده نوون و با سباب ظاہر تو سل نوون طریقہ مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم ا۔“

پس حضرت خواجہ کے نزدیک اہلِ تصوف و سلوک یہی ہے کہ اپنے ہر فعل کو اسی سلسلے میں قرار
جائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اس مقام پر پیچ کریں گے موسیٰ کا یا تھد
اہل کا ہاندہ بن جائے۔ اور پھر دنیا کی کوئی محبوبیت میں بیست نہیں رہنی اور کوئی قدرت خوف و خطر
کا موجب نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں:

اربابِ رضا

”اربابِ رضا را بلا بیت در بلانی ماند کراہست در نظر ایشان نیست ازاں
جهت کہ فعل حق سچانہ است۔“

لیکن دیوانگی و جنون کی گنجائش بہاء بھی نہیں ہے کہ خود بقولِ خواجہ:

”نکالیفہ نشر عقیبہ مر بوط العقول است“

ناہم عقل کا غلام ہو جانا بھی درست نہیں کہ چل مقام بقولِ خواجہ یہی ہے کہ ٹھر

”از علم گذشتیم و معلوم رسیدیم“

اہل سنت والجماعت

بپ الفاظ خواجہ کی تحریر دل میں کئی جگہ نظر آتے ہیں بھی ان کا مسئلہ ہے اور اسی پر کار بند رہنے کی تعلیم ائمہ نے ہر جگہ دی ہے۔ اسی کو باعث فخر جانہ ہے اور اسی کو سب سے بڑی نعمت گردانہ ہے۔ ایک جگہ خواجہ عبید اللہ احرار کا قول نقل کیا ہے کہ :

”اتباع حضرت رسول اللہ من الصلوات اطهار و احتفاظ اہل سنت والجماعت
و نسبت باطنی خواجگان ہستراز نعیم عالم است۔“

اسی طرح سورہ فاتحہ کے معانی بیان کرتے ہوئے صراط مستقیم کی تشریح میں فرماتے ہیں :

”اجماع صادقان و محققان است کہ صراط مستقیم صراط اہل سنت و جماعت
است.....“

اور اہل سنت سے ان کی مراد وہ لوگ ہیں جو سنت رسول پر کار بند ہیں نہ کہ قبروں اور پردوں کی پرستش کرنے والے! خلاف شرع تو کسی فعل کی بہائی سر سے سے گنجائش ہی نہیں شرعاً بعیت کے بارے میں خواجہ نے حضرت جنید بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے —

”پیش من شراب خوردن پر از حائل که مانع رکنے از ارکان شرعاً بشد“

مسلمانی

بعض جگہ خواجہ نے چند لفظوں میں طلب بیان کیا ہے کہ بس کو زے ہے میں دریا بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ الفاظ بیوں معلوم ہونے لگتے ہیں گویا جملہ نہیں کوئی ضرب المثل ہے۔ مسلمانی کیا ہے؟ اس پر کہاں بھی جا سکتی ہیں، لکھی گئی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی لیکن اس سے نبادہ ان میں کیا ہوگا جو خواجہ نے چند لفظوں میں کہہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں :

”مسلمانی گردن نہادن است احکام الہی را۔“

نوبہ

اسی طرح نوبہ کے بارے میں قول جنید نقل کیا ہے کہ بیسوں تنماں پر بھاری ہے،
”نوبہ آں است کہ گناہ را فراموش کئی۔“

رزق حلال

اس بات پر خاص نہ دیا ہے کہ لفظِ حرام حلق سے بیچے نہ آز نے پائے۔ اب اگر غود کیا جائے تو یہی کوشش انسان کو انسان کامل بناسکتی ہے۔ جب حرام نہیں کھانا تو حرام کرنا کہاں باقی رہے گا۔ سارا وجود ہی حرام کے تصور سے پاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں :

“... آن نخند کہ ہر چہہ از حلال و حرام یا بند بخورد و یعنی پاک بدارند۔”

دوسرا جگہ لکھتے ہیں :

“سچی دکوشش نمائند کہ لفظِ حرام و مشتبہ خوردہ نشوو۔”

رشته امید

چونکہ خواجہ کا توکل کامل ہے لہذا مابوسی دن امیدی کا ان کے ہاں گزٹک مہیں ہے اور ہمیشہ پُر امید رہنے کی نقیبیں کرتے ہیں۔ نواب مرتضیٰ خاں کو ایک خط میں لکھتے ہیں :

“... الغرض رشته امید را یعنی وقتی از دست نہی باید داد۔

یک چشم زدن غافل ازان ماہ نباشی شاید کہ نگاہتے کسی را گاہ نباشی”

کردندانی

اسلام میں رہبانیت یا تجدید کی تو گنجائش ہی مہیں۔ لیکن ہر چیز کے وہ پہلو ہوتے ہیں کہ خدا اُجہا ضروری ہے وہاں اس کے کچھ نارکیب پہلو بھی ہیں۔ اس سے بہر حال یہ مراد مہیں کہ اگر کچھ ایسے پہلو بھی ہیں تو اسے نزک ہی کرو بات جائے۔ خواجہ نے اس ضمن میں عام اذہان کی آگاہی کے لیے اس کے ضرر بھی گنوائے ہیں لیکن ساختہ ہی ان کا نہ اذکر بھی بیان فرمادیا ہے یعنی یہ تعلیم نہیں دی کہ شادی کی ہی نہ جائے۔ (آپ کی خود دو بیویاں تھیں) بلکہ مریدوں کی اس سفر ہمیشہ اُجھمن کو دُور کر دیا ہے کہ تمہال زندگی کی محکمہ خرابیوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔

فرماتے ہیں :

“کردندانی سے ضرر دارد... . صر اقل نفس عالم شود چہ نفس را باعثِ شہادت

پسپا اند — علا جشن سامنہ در شہزادت کامرانی نگردو دعوانِ اخْبَارِ کشیدہ

زدارد۔

ضرر ثانی بدل راجح گرد و آں بر طرف شد لیکن است
علاج چش آنکه نجم روزی نسباً پیدا خورد که رزانی علی الاطلاق صناسن عباد شدند" ہے۔

لیکن اس علاج کے ساتھ ہی یہ تشریع بھی فرمادی کہ توکل کرنے کے لیے یہی، یعنی ایسا زیست کو کہ
”غم روزی نباشد خود“ سے لوگ یوں مطمئن ہو جائیں کہ ہاں پاؤں توڑ کر ہی بیٹھ جانے کو توکل نہیں
کرنے لگیں۔ پچانچہ فرماتے ہیں :

”توکل نہ آنست کہ ترک اسباب کند، بنشینند، چہر ایں سورا دی است بلکہ اقا
بسیب مشروع مثل کتابت وغیرہ می باشد کرد و لظر بستب می باشد انداخت“

لیکن عمدہ شرح ہے مولانا رودھم کے اس شعر کی ہے
گر توکل می کنی در کار کن کشت کن پس تجیہ رجہت ار کن
اس کے بعد لکھتے ہیں :

”ضرر مالکت بر روح راہ باید د علاج چش آنکھ میں مفرط بھو
جمیلہ پیدا نکند پچہ کیکہ درین نشانہ بعضی صورت مبتلا ماندتا ابد در جا ب
عظیم است“

اور پھر جامی کا یہ شعر کہ حسب حال ہے نقل کیا ہے
اہنگ جمال حب اودانی دارم حسنے کہ نہ جاد داں اذ و بیزارم

خارج

اگرچہ عقیدہ مندوں نے بہت سی کرامات خواجہ سے منسوب کی ہیں لیکن آپ خداوس کو
کوئی اہمیت نہ دیتے تھے مقصود تو آدمی کو انسان بنانہ ہے نہ کہ کچھ اور خواجہ کی بھی شان
ہے کہ وہ آدمی ہوتے تھے سنت رسول و احکام الہی کے اتنے پابند تھے کہ عمر بھرا سی راہ پر
گامز نہیں ہے۔ اس سے ٹھہر کر اور کیا کیا کارت ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی ایک جگہ مذکور ہے کہ
ایک نانبائی نے رولی کے دام لینے کی بجائے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بانی باشد نبادیں ”پچانچہ
آپ سے مجری ہیں لے گئے اور باہر لائے تو وہ نانبائی سوچو تو خواجہ ہی معلوم ہوا تھا لیکن ”لے
پناہ روحانی تصریف سے نہ نہ رہ سکا۔ لہ“ مذکورہ اولیاء کے نقشبند

وائے علم بالصواب۔ لیکن ”ستراحوال“ میں اس کا شمار کیوں نہ ہوگا؟
بھیں تو اس سلسلے میں سرستیدا محمد خاں کا وہ جملہ البستہ عینی پر صداقت علوم ہوتا ہے جو
امثال الصنادید میں صحفوں نے خواجہ کے مزار کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ :
”ابی فیض و برکت آپ کے مزار سے ہے کہ جیں کا کچھ بیان نہیں۔ باوصفت تابش
آناب کے آپ کا مزار ہمیشہ سرد رہتا ہے۔“

سفر میں خراسان

خواجہ کے تعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بعض خاص مقامات کے
وجہ پیش کی ہیں۔ اس سے ان کی قوت مشاهدہ اور تجزیاتی شعور کے علاوہ اس وقت کے معابر
نماں درسوم خام کا پتہ بھی چلتا ہے اور انسانی فطرت و نفیات سے آگاہی کی دلچسپی خیقت بھی
 واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کا ذکر یہی روایت کے مطابق یوں ہے —

”واز و سفر منع می کر دند، از سفر خراسان چہ او فاف سنجا اکثر بے اختیاط بوده
لا جرم بمریان ضرر می کر دا ز مقصود باز میداشت، از سفر میں چہ انجام
بیار است نانا گاہ گرفتار حسن نشوند وا ز راہ باز نماند۔“

سماع

ایک مرتبہ دیدن حُسن و سماع نغمہ کے بارے میں جب سعدی کے اس مصیحے
پر خواجہ کی رائے معلوم کی گئی ہے کہ ایں خط نفس است و آں قوت روح۔
”تو فرمایا“ ہر دواز کب عالم است“ اس کی تشریح (لکھنے والے نے) کیا خوب کی ہے:
”یعنی گرفتار نفس را از ہر دو خط نفس حاصل است و رہائی بافتہ از تیہ نفس را از
ہر دو قوت روح۔“

ان اشاروں کے علاوہ آپ نے تفصیل سے بھی اس موضوع پر وضی ڈالی ہے اور مکتب قشینہ پر
کے مطابق اسے ”نامناسب طریق“ فرمایا ہے۔ مکتب ۱۸۶۰ میں طویل بحث اسی ضمن میں کی گئی
ہے۔ فرماتے ہیں :

”سماع مقبول سماع روحانی است کہ سماع معافی باشد اما سماع طبعی کہ سماع

نہ راست محل اختلاف است. عالمہ علام حرامش می دانند، و جمع مشائخ و مقام علماً نجیز کردہ اند نہ آنکھ اور از فربات داشت زد المی گویند....
لیکن بتدی را اہل آں نبی دانست بدچہ ہنوز ارار باپ قلوب دا اہل محبت نشدہ طبیعتش برہمہ نغمہ می اندازد و از معانی کلمات د ذوق آں بے بہرہ می ماند۔ ”
..... ” دبھے دیگر ہر چند کہ مباحث می دانند اولی ترکش رامی گویند۔ ”

پھر اس سلسلے میں کچھ آفوال پیش کیے ہیں :

قول خواجه بہا الحق — ” نہ ابیں کارمی کُنم و نہ انکار می کنم۔ ”

ابو بزید بسطامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ” ہر دوہمی داشت استماع نغمہ را ”

اسی طرح بیشتر اولیاً اقطاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ” ایشان قائل سماع نغمہ نہیں دو و سماع منقب نغمہ را دین خالص نمی گویند و ذکر اونمودہ اند ”

اور آخر یہیں فرماتے ہیں :

” حاصل آنکہ سماع نغمہ قطعاً مناسب طریق مانیست۔ ”

بہاں خواجہ نے صاف صاف اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور کسی تاویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ سماع روحانی، سماع معانی اور معانی کلمات سے خواجه کی جو مراد ہے وہ بالکل واضح ہے یعنی بعض اشعار بآفوال کے الفاظ ہی نغمے کا کام کر جاتے ہیں اور منزل میں رسائی تکھ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

ایک جگہ یہ شعر نقل کیا ہے

ہماں شکستہ دل در دست د میکنیم ہماں جھاکش در در کندر د پیشیم

اور لکھا ہے :

” ایں بیت مجھلا مار از اظہارِ نجز وفات خاطر فارغ ساخت ”

کس طرح سے اس شعر کا ہر ہر لفظ اگر دیپے میں سرایت کر گیا پہنچنے والا اشعار ہو گا جو آپ نے مندرجہ بالا الفاظ میں اس کا رد عمل نحر کر فرمایا ہے انشا پر یہی ہے سماع روحانی و سماع معانی، کہ اسی قسم کی ” فراغت خاطر ” خواجہ کو بعض اور

اشعار سے بھی حاصل ہوئی ہے کہ یونکدان کی نشر میں ان کے پسندیدہ اشعار جا بجا نظر آتے ہیں اور موقع و محل پر یوں صادق آتے ہیں کہ خود پڑھنے والا بھی جھومنا ممکن ہے۔ شیخ تاج کو ایک مکتب میں "سلام مشتا قانز" کے بعد لکھتے ہیں۔

صد ملک دل پر نیم نگاہ می تو ان حسید

خوبیں دریں معاملہ تقسیر می کسند

ایک جگہ اپنی پسندیدہ رہباعی تحریر کی ہے ہے

عشقی آمد و شد پو خونم اندر گد پوت تاکہ درما نتی د پر کرد ذ دوست

اجزاً وجود من سہمہ دوست گرفت نامی است ز من بیش باقی سہمہ دوست

عمدہ دشستہ مذاق شعری کی ایک مثال یہ شعر بھی ہے جو خواجہ کے ہاں درج ہے ہے

در عشق تو محروم فرم از دصلی تو محروم گرگ د من آلو دہ یوسف ندریدہ

نشر میں جہاں بھی خواجہ اس قسم کے عمدہ شعر استعمال کرتے ہیں وہاں ان کا **طریقہ خاص** [عام طریقہ تحریر بھی بدل سا جاتا ہے۔ بعض جگہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابوالکلام آزاد نے اپنا شخصی انداز بیان ہبھی سے لیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکتب کے یہ نچلے مکا حلہ ہوں:]

"میں بے سعادت بے دولت نہ صرخائی کر دہ راشم می آئد کہ نام عزیزان خود

برم"

"حاصل آنکہ دل بایار و تن در کار می باہد پو، تصوف یکسو نگریتن و یکسان زیستن

است

اسی مکتب میں ایک جگہ یہ شعر بھی کام میں لائے ہیں ہے

من از تو بیچ مرادے گرنی خواہم بھیں متدر بجنی کز خود مجبذ لکھنی

آپ کا ایک اور پسندیدہ شعرو ملا حلہ ہو ہے

ما گرفتاریم و بر مانا وک بسید اوریز

سنبل و گل بر کنار مردم آزاد ریز

کلام منظوم

اب ہم حضرت خواجہ بانی باہم کے ان ارشادات کا ذکر کرتے ہیں جو آپ نے زبان شعر سے ہم تک پہنچائے ہیں، وہی مئے معرفت ہے جو انگور کے محل سے نکل کر شیشہ خانہ میں آگئی ہے۔ دار دات قلبی کا بیان جب شعر کے قلب میں داخل جاتا ہے تو اور بھی زیادہ پڑتا ہے، رہروان راہ سلوک کو خارذ از نشر میں آبلہ ہائے پا کے ٹوٹنے سے جو لذت حال ہوتی ہے وہ مسلم، لیکن چین زار شعر کی بوسے عطر بیز سے مشام جاں کو جو فرحت ملتی ہے اور بہرحی پیزے دگر ہے۔ حضرت خواجہ نے جن بانوں کا اظہار نشری تحریر دیں ہیں کیا ہے، کم و بیش وہی مصنایف کلام منظوم میں بھی ادا ہوتے ہیں۔ ہر دو کا ذکر بجا بھی عین گھنی تھا، مثلاً نشر میں جہاں ہم نے تصوف کا عنوان فائم کیا ہے وہیں پر خواجہ کے رہ اشعار بھی درج کیے جا سکتے تھے جو اس ضمن میں صحفوں نے ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن ہم نے دستہ بیباب اس سے علیحدہ رکھا ہے کیونکہ کہنے والے نے اُنھیں کیا نہیں کیا تو ہم یہ جبارت کیوں کریں کہ ہمارے زادیک بھی سوادب ہے۔

خواجہ کا بیشتر کلام مثنوی کی صورت میں ہے۔ اور یہی وہ صنعت سخن ہے جو صوریاً مثنوی میں خاص طور پر مقبول ہے۔ ردیف و فافیہ کی مسلسل پابندی رموز سلوک کے بیان میں برداشت ہو بھی کہا سکتی ہے؟ مختلف مثنویاں مختلف موضوعات پر ہیں لیکن سچ پوچھیئے تو صرف عنوانات ہی مختلف ہیں در نہ مرکزی موضوع تو وہی ایک ہے۔ عموماً بھر بھی اکیب ہی ہے صرف ایک دو مثنویاں دوسری بھر میں ہیں۔

اَللّٰهُ كَيْا آغا نہ سے شعر اول ہی سخن گو کے انداز نکل کاغذاں ہے۔
خاہِ کلید بیت در لکھت میں گنج دو عالم ہمہ درست میں

وہ مضمون ہے ایک غزل گو شاعر نے یوں بامدھا ہے۔

دیواری بھی عشق

از سر بالین میں خبیث نہ اسے ناداں طبیب
در دست دعشق را درود بجز دیدار نہیں ت

خواجہ کے ہاں یوں بیان ہو گا ہے ہے

بے خبیری از من و کدار من روکہ نہیں مسلم اسرار میں
شعلہ دیگر بہ پیر انغم رسید بادیں جا به دام غم رسید
صوفیانہ لب و لجد اور رمز و کنایہ نے مضمون کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔

عنوانی حقیقی | شنوی گنج فقر میں عشقی حقیقی کی مختلف یکیفیات و داردات کا ذکر
رموز رہیں ہے تسلی سے کیا ہے اور ہر جگہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیتی ہے
کہبیں بھی جگ بیتی بار دار بخت مغضن کا احساس نہیں ہونے پاتا اور ہو بھی کیسے
یہی تو ساکب باخبر کا طڑہ انبیا ز ہے، مغضن ہر سائل تصوف کا بیان تو کسی کو ولی نہیں بنادیتا، بہادر
شاہ ظفر نے غالب کے اس شعر پر

پرسائل تصوف پہ ترا بیان غالب تجھے ہم دل سمجھتے جونہ بادہ خوار ہوتا
کیا حوب کہا تھا کہ "ہم تو جب بھی یوں نہ سمجھتے" بڑی سے بڑی تعلقی بھی کارگر نہیں ہو سکتی جبکہ
کہ ممتاز سلوك واقعی طے نہ کی گئی ہوں۔ چنانچہ خواجہ کا بیان بلا خطہ ہو کہ دار دامت واقعی کی نشاندہی
کر رہا ہے ہے

شوم در قصر دریاۓ اللہی امانت دار دیاۓ اللہی
ذائنہ شوب داعشہ رُنچیتہ
گھے خود را صدقہ بنیم گھے در
گھے زین ہر د بالا تر گز نیم صفات بحد را در خود بنیم

نقزو عشق | اسی شنوی میں آگے چل کر کس خوبی سے فرقہ عشق کے ختم لاط والصال کا
ذکر کیا ہے اور کس طرح ناکامی و نامرادی کو ایک پسندیدہ چیز بنادیا ہے کہ
ہزاروں کا مرانیوں کو اس پر فرماں کرنے کو جویں چاہتا ہے ہے

کہ طغیاں را در پیں کشور گزر نہیں ت در خفت عشق را جگ فقر بر نیست
چو عشقی از نامرادی آب کیسید

دوسرا بے شعر میں دعویٰ کا تضمن دلیل ہونا بھی ملاحظہ ہو۔ اور پھر یہ نہیں کہ پرمادی کو کا عدم ہی قرار دیا ہو۔ دہ سے اور ضرورت سے لیکن وہ نہیں جس کے لیے عاشقانِ خامہ کا تذکرہ کرتے ہیں بلکہ ہے

دریں بستان بود خل بر مند دل آگاہ و حبان آرزو مند
ولیکن برجست خون بجگر نیست گلے جز خنا رحسرت و رفاقت

یہ تبائے کی ضرورت نہیں کہ عشقِ حقیقی سے صوفیا کی مراد کیا ہے۔ عشق

عشقِ رسول | رسول اور عشقِ خدا ہی ان کی معراج ہے۔ اسی لیے وہ بیانِ عشق میں بہت سی سیطرِ حباب چڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور ایک مختصر سی تمہید لطیف کے بعد ذکرِ حبیب شروع کر دیتے ہیں۔ مثنوی "استفادہ و تربیت معنوی" میں لکھتے ہیں ہے
زبانم زین ملقط گرچہ بند است سرم بخواست صبد ایں کمند است
دل اندر شرم و جان سرگرم ایں است کہ جانماں رحمت العالمین است
اور اپنی خام کاری کو کس انداز سے "نام" کے باہر قرار دینے کی درخواست حضور سرورِ کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ہے

مرا گرچہ سراسر کارخانام است

نامم دال کہ ایں سودا مسام است

عقل اور عشق | "ساتی نامہ" میں ساتی سے خطاب کرتے ہوئے عشق کی فضیلت تفصیل کے ساتھ آگے چل کر پیش کیا ہے۔ لیکن خواجه نے اشارہ و کتابیہ ہی میں سینکڑوں باب بیان کر دیے ہیں ہے

عقل ایں سخنم نہ می پذیرد کروز شبے حبہ بھرہ گبرد

سن بستے تو در دماغ دارم از عقل کنوں دماغ دارم

اور پھر بھول بھلیاں میں کھو جانے سے گز کرتے ہوئے جلد ہی بعد شراب بطلوبہ کی قسم بھی بیان کر دی۔

نه ہزار بار بشوٹم دہن زمشک د گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

ساقی مے نقشبند پیش آر من صید قوام کمند پیش آر
شاید بہت بات کی ضرورت نہیں کہ پیش نقشبند وہی مئے عشق رسول ہی ہے۔
اسی بیان میں آپ کا دہ شعر بھی آتا ہے کہ جہاں استعارہ نے عجیب کیفیت پیدا
کر دی ہے۔

ساقی برساں شراب نابے من حبلہ شبم تو آفتا بے
مصرعہ ثانی میں جو لطف ہے وہ شاید اقبال کے اس شعر میں بھی نہیں ہے
تومری رات کو نتایتے محروم نہ رکھ۔ پیرے پیمانے میں ہے اونا مام اساقی
حکایاتِ عشق خواجہ باقی بالش نے مولانا روم کے شیع میں روزِ عشق کی وضاحت کے
لیے حکایات سے بھی کام بیا ہے۔ لیکن پیرِ روم کے ہاں جو لطافت
و شکفتگی بیان ہے وہ خواجہ صاحب کے ہاں نہیں اور بیان بالعموم خشک و بے رنگ سا ہے
ناہم کہیں کہیں بہ خوبی بھی نظر آری جاتی ہے۔ مجاز سے حقیقت تک پہنچنے کے لیے جن راہوں سے
گزرنا پڑتا ہے اور جن باتوں کو ترک کرنا پڑتا ہے ان کا بیان وہ خوبی سے کرتے ہیں۔ زیخا کا ذکر بار بار
مثال کے لیے نظر آتا ہے اور بعض جگہ روانی اور بے ساختگی نے معانی میں بلندی کے علاوہ بیان
ہیں بھی جوش پیدا کر دیا ہے۔

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| نخت از بیقراری پر دہ برداشت | زیخا چوں لوائے پوسفت افزاشت |
| تمدنے حبڑاں درس نبودش | زخاب و خورد فارغ شد و جوش |
| زند در جتو پیش دست دیا تے | کہ از کس شینودن مے د جائے |
| ہر پوسفت دست ددا غوش می گشت | چواز نور لیفیں بے ہوش می گشت |
| چھ حاصل شد از بیں سبیر تھی دست | عروں غیب می گفتیں کے می مسٹ |
| تبور لمحظہ خود را عی نبودم | ہماں در گام اول با تر بودم |
| اور پھر اس جیں گریز کے بعد کہے | |
| بلے ہر ذرہ مشائق جمال است | |
| | فرماتے ہیں ہے |

بنگہ جذب عشقش کارگر شد۔ زکنعاں ماہ کنعاں بدر شد
مصرعہ ثانی میں ماہ اور بدر اور بدر میں رعایت لفظی کا بلے ساختہ پن لطف سے
خالی نہیں۔ حافظ توپوست کے حسن ردزادوں "کے بارے میں جانتے تھے کہ طر

عشق از پرده خلوت بر دی آرد ز لخوارا

لیکن خواجه صاحب کا "زکنعاں ماہ کنعاں بدر شد" اس سے کہیں زیادہ کاشف
الحقائق ہے۔ اس کے بعد خود بینی و خود آرائی کے مبتوی کو توڑ کر خدا بینی کی تلقین کا انداز ملاحظہ
ہو، کہ از خود تمام حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ زنجانے ابھی اپنے آپ کو فنا فی المحبوب تو
نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو خود بینی و خود آرائی کا سماں ابیلے ٹھوٹے تھی۔ لیکن جب تک بہت نہ
لڑتے مشوق پہنچتا تک رسائی کیونکر فکن ہو سکتی تھی چنانچہ کہتے ہیں۔

سبب می دید پشم حنام کارش۔ بناز و عشوہ می بردا اختیار شش
حسر امال گردی دا سبستہ بینی۔ خود آرائی درسم ناز بینی
خلل می داد آئین طلب را۔ زیان می کر عشق بو العجب را
نمودندش کر سنگ راہست اینست۔ نظر بند بدل آگاہست اینست
تو بند سبیر و یوسف بند سیار۔ ازیں ناجنیت سرد است بازار
عشض تعلیم غیبیش کر دنا پید
بپاہ پاہیہ تا ایوان توجیہ

متفرقات

درستی فقیر سے سواداوجہ فتنہ مر ناگزیر است
شکست دل درستی فقیر است

خلوت دا نجیب

سہ ہماں درا نجیب من خلوت گزیدن ز آسیب نشان مندی رہیدن
در کاں خلوت که جسم د جاں نگخند ب جس نظارہ جاناں نگخشد

لے غائب واکر دیئے ہیں عشق نے بند نعاب ہُن غیر از نگاہ اب کوئی حس ائل نہیں رہا

تسلیم درضا

سر تسلیم بنہم نیک دبڑا
بر اندازم ز خود بنسیا ز خود را

مرگ خاتمیاری

ز مردن پیشتر خود را سپردم
ه ب مرگ خاتمیاری راه بردم

امید

حضرت خواجہ نے یاس و فرمیدی کی تعلیم ہرگز نہیں دی۔ بلکہ ہمیشہ پر امید رہنے کی تلقین کی ہے اور یہیں سے ان کا راستہ اہل فرار سے الگ ہو جاتا ہے۔ وہ امید کو عکسِ جمال یارا در شمع سپرخانہ قرار دیتے ہیں اور زندگی و زندہ ولی پر زور دیتے ہیں ۔

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| شرط طلب است امید بستن | لومید نمی توں نشستن |
| امید سر بر کار دارد | عکسے ز جمال یار دارد |
| امروز درین رباط ف نی | دارم پر امید زندگانی |
| شمع کرد ورین سیاہ خانہ است | امید وصال آں بیگانہ است |

وجدان

علم ایقین، عین ایقین اور حق ایقین کے معنی بیان فرماتے ہوئے وجدان پر زور دیا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جسے فہیل نے پنچہ زنگ میں سمجھا نے کی کوشش اپنے کلام میں کی ہے۔ خواجہ کہتے ہیں ۔

حقیقت دا زین عالم مسلم کو وجدان بر طلب آمد مقدم
اور اقبال نے جو ”خوبیں راویدن“ (ذ زنور خوبیشن) (ذ زنور دیگرے اور
(ذ زنور ذات حق) کی تدیجی منازل جاوید نامہ میں شمار کرائی ہیں اچھیں خواجہ نے بھی الگ الگ
بیان کیا ہے شلاً اپک مقام کا ذکر یوں کیا ہے ۔

لے خواجہ دردے

موت کیا اک فقیروں سے بیچھے یہیں ہے
منے سے گئے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں

وجودش جسلگی مذکور گیرد
بِ تَحْقِيقِ اِنْتَهَا در ابتداء یافت

دل از خود شید و حدت فور گیرد
درین راه هر که افوار خدا یافت

و حدت الشہود

منزل اول حجات

ہوا کے وصل ہر بے حاصل است
گرفتار پھر خاک کے د آبلے

شہود و دست پہاں ہر لئے است
لے انگند بجا نشش جوابے

منزل ثانی حیوق

شدہ بنیاد ایں دیوانہ گشتمن

پئے ہر رنگ دبو طفلانہ گشتمن

اور یہی وہ منزل ہے جو دحدت الوجود کمالتی ہے کہ مستی و قلندری و مجندری ویسیت اسی کے مقامات ہیں اور عارف کا بھی درجہ بھی یہیں سے شروع ہونا ہے لیکن دحدت الشہود کی منزل بھر حال اس کے بعد ہی آتی ہے ۔

منزل آخر ۳. و حدت الشہود

چود فور شہود از خود برآید سعادت را درے و بگر کشا پید
بگرد حاصل پار اماست

بیار داں اماستہ بے خیانت

اصل کام تو اس بار اماست کا اٹھانہ ہے کہ چسے آسمان، پہاڑ اور زمین کوئی بھی نہ اٹھاسکا او
قرعہ فال اس شست خاک کے نام پڑا مگر یوں کوئی اسے اشرف المخلوقات بنا دیا اور عذر
در آں مشہد پیشہ شد آرام یا بد

ب: نگاپو

اس کے بعد نگاپو کے دامہی او اس کے فرض کی بہترین صورت ہے خواہ سہ
فرماتے ہیں ہے

نیپیں آں دید داں شورش ازان سوت
دین مسکن نمودے از نگاپو سوت

ج : رازِ لی مع اللہ

اور اس کے بعد ہی وہ منزلِ نافذ آئی ہے جسے نبیِ اللہ کے بھائے خواجہ نے فرمایا۔
کامِ دیا ہے کہ وہاں پہنچ کر اسے حضوری حاصل ہو جاتی ہے اور رمز "لی سعی اللہ" سے
آگاہی حاصل ہے۔

چُول گرد خستہ متفیل درگاہ
شود در خود رازِ لی مع اللہ

د : ابوالوقت

اور یہ وہ مقام ہے جہاں مالک یا صوفی "ابن الوقف" کی بجائے "ابوالوقت" بن
جاہم ہے۔ خواجہ نے خاچہ بہا الدین نقشبند کو اسی نقاب سے باد کیا ہے
ابوال وقت دو عالم قطب ارشاد
بہا الدین کہ دیں شد از دے آباد

اہل سنت و الجماعت

حضرت خواجہ نے مکتوبات و رسائل میں اس کا بیانِ فضیل سے کیا ہے کہ اہل سنت
وہی ہیں جو سنت رسول پر دل و جاہی سے عمل پیرا ہوں۔ اور شرکِ بدعت کو قریب نہ آئے
ویں جھنڈہ تشریفیں اسی عنوان کے تحت ہم سلسلے میں لکھ پکھے ہیں تاہم چونکہ حضرت خواجہ کے کلام
منظوم میں بھی اس کا ذکر بار بار آتا ہے اس پلے یہ عنوان دوبارہ فائم کرنا پڑا۔ مثلًاً ایک مشنوی
میں "غطاء مداریں و شرائط سلوک دراہ یقین پر روشنی ڈالتے ہوئے اسی حقیقت کی نقاۃ ثانی
کی ہے، اور تینا دارِ فضل الہی" کے پلے چار شرطوں پر پورا اکثر نازمی قرار دیا ہے لیکن جہاں
چونچنی شرط کو کوئی اہمیت حاصل نہیں وہاں نقیبی شرط کو مرکزی اور کلیدی ہی جلیلیت حاصل ہے۔
فرماتے ہیں۔

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| نستادارِ فضلیں با و شاہی | بل اخواہ سندہ جذب الہی |
| دو مسراۃ ایں سو دو دین است | نخنیں شرط ایں سو والیقین است |
| ریقیق سنت دراہ جماعت | سوم کاکڑہ خشنل ایں زراعت |

پیچھی سلف تقلید دیدن
فتدم از جاده بعثت کشیدن
چهارم خدمت سلطان دینی
قبول حنا طرسند فشنی

ولیکن نشر طریق ارم لازمی نیست
بفقدش سد باب محرومی نیست

کیونکہ صهل خوش نصیبی و خوش بختی تو یہ ہے کہ صهل معدن سے گوہر حاصل کیا جائے اور لطف باطن
سے کسی پیض کیا جائے یعنی سلطان دو عالم خواجہ کو نین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی خدمت
کا شرف حاصل ہو جائے اور جو لوگ یہ را اختیار کرتے ہیں یقیناً بلند مراتب کے حامل ہیں ہے
بس امر غار کہ علوی آشیانہ
ایسی مشرب و عیسیٰ زبانہ
زخم طائع داز لطف باطن
گرفته گوہرا ز حسل معادن
رہ سُنت بچپا لا کی شتابند
نصیب از خواجہ کو نین یا بند

شریعت کی پابندی اس قدر ضروری ہے کہ دیواری عشق کا ذکر اشعار میں کرتے ہوئے بھی
شاعرانہ ہے باکی سے فلم کو آلوہ نہیں ہو نہ دیتے کیونکہ شرع میں دیواری عشق و جنوں کی گنجائش
نہیں اور جیسا کہ حصہ نظر میں شمال دی جا چکی ہے کہ خواجہ کے فردیک شرع بے عقلی و بے
راہ روی کی متحلل نہیں ہو سکتی اسی طرح اخنوں نے اشعار میں بھی اس امر کی وضاحت کر دی ہے
کہ خدا
طریق شرع حبیذ فرزانگی نیست

طریق شرع

فرماتے ہیں ہے

ہنوز مرضیت دیواریگی نیست
طریق شرع جزر فرزانگی نیست

نمیں انہم جنہیں کے اندر میں راہ
بروی از شرع دشیکی حاشا اللہ

پنا مشروع اگر انک جمال است
در وضمر میں ترو جلال است

عدم شوکندران مرآت نور است

جمال دوست را آنچا طور است

نمایاں خصوصیات کلام

حسن تلمیح

خواجہ صاحب کے ہاں ہتنے بھی محسن شنوی نظر کرتے ہیں وہ سب بے ساختہ ہیں یعنی کسی صنعت کا دافنتہ انتظام نہیں کیا گیا بلکہ بعض خوبیاں از خود کلام میں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان میں سے نمایاں ترین تلمیحات کا استعمال ہے۔ اسلامی تلمیحات جا بجا موقع و محل کے عین مطابق نظر آتی ہیں مثلاً—

لبقرے کو خودش دردش می داشت
سر الفتر فخری بیش می داشت

حسن ایجاز

کسی بیان کو جب سلسی تسلیمی انداز ہیں پیش کرتے ہیں تو وہاں حسن ایجاز نمایاں ہو جاتا ہے اور طویل و عریض بیانات مخصوص و مصرعوں میں سست کر بلاعنت کی ارفع منزل پہنچ جاتے ہیں مثلاً—

پرشام محبرت و تاریخی غار
بہ آن خوش عنکبوتی عثیریں تار
بحور کو قریش داشتہ با دیدہ

حسن استعارہ تشبیہہ و مجاز مرسل

تشبیہہ و استعارہ شاعری کی روح ہے۔ ستمولی سے تعلیمی کلام میں بھی ان کی جھلکت کھائی دے ہی جاتی ہے۔ خواجہ کے کلام میں اس کی عمدہ شناختی موجود ہیں۔ ایک شنوی کا آغاز یوں ہوا ہے—

در طرف روم پیکے ماہ پواد
لائق نظر شارہ دلخواہ بود
شہد و شکر را بہم آینختہ
بر سر آں کان نمکھ رینختہ

مدینہ منورہ سے اظہار غفیدت یوں کیا ہے—

اسے خاکِ مدینہ در کعبائی
در دیدہ من حپمانیا
دے چشم و حپم در بغ نورینیا
اسے مردم حپم دُور بینیا

ایک نہایت ہی عمدہ تشبیہہ ملا حظہ ہوئے
ایں کا سہ کہ برس مر نگوں است جہاں یست اگرچہ عرق خون است
اسی طرح ساقی نامہ میں ساقی حقیقت سے خطاب کرتے ہوئے فردوس کو دل کشادہ ساقی سے
انوکھی تشبیہہ دی ہے۔

ایمان برہنہ بادہ تو نند دس، دل کشادہ تو
تنگی دل کو زندان سے تشبیہہ تو دیا کرتے ہیں شلا نیم۔
زندان میں جو زندہ وکیم ہو اپنے دل نگاہ میں جگہ دو
لیکن کشادگی دل کو جنت سے تشبیہہ دینا اور ہی لطف رکھا ہے:
خوبی رمز

پرده مجاز میں طلبِ حقیقت کے سلسلے میں وہ اشعار ملا حظہ ہوں جہاں ساقی سے خطاب
کیا ہے۔ شلا نیم

من پیر کمن گدائے جامم زال جسد عہ کہنہ وہ بکامم
بعض جگہ صنعتِ تضاد کے بے ساختہ استعمال نے شعریت میں جان ڈال دی ہے۔
بجراں تو دصل جاو دافی در پیش تو مرگ زندگانی

 بلاعثت

بلاعثت کی خوبی سے ہر صاحب ذوق آگاہ ہے خواجہ کا بیداری شہر ملا حظہ ہوئے
گرچہ در سد پر شنہ کامے سپرائی ادست ہم ز جامے

اصناف شخصی

جیسا کہ اس بات کے آغاز میں عرض کیا جا چکا ہے، خواجہ صاحب کا بیشنہ کلامِ ثنوی
کی صورت میں ہے لیکن اس کے علاوہ آپ نے رباعیات بھی کہی ہیں اور ان میں بھی یہی
صوفیانہ اصناف میں بیان کیے ہیں جو ان کے ہر قسم کے کلام میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ رباعی
ملا حظہ ہوئے

لے اقبال سے لاچپڑا کے بارہی بادہ وجہاں کے ساقی پاٹھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساقی

آئی کسب کہ نزدِ گشتہ عیاں در مذہب اہل حق جُزاں ہیں حمدان
 حق موجود است و قادر مطلق است پیشہ نجاحِ جملہ و ہم است فیکاں
 نسبت اسباب کے فلسفے کو کس سهولت سے بیان کر دیا ہے ہے
 ماصورت و حق ایئنہ حکس نہ است این است معینتے کہ حق را باماست
 پھر صورت در طہور شرط دگر بیست این نسبت اسباب ازیں و پیدا است
 اب چند متفرق اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن میں کسی نہ کسی پہلو سے ایک خاصل لطف
 نہایا ہے۔

ادب

ہے سنگ و روزے بادب دلشت لعل شد و بر سر خبیث شست
حسن تختیل
 ہے شبے خوش دل تراز روزِ جوانی سرم در خواب دل در کارافی
روانی کلام

ہے کہا میں طنکم ازیں بسیار باشد
 کہ بندہ بے صفت بیکار باشد
 خواجہ نے اپنے فرزندوں کی تاریخ دلا دت بھی کہی ہے۔ ساقی نامہ کے عنوان سے
 بھی انہماں خبیال کیا ہے اور اس میں در اصل شرابِ معرفت کے طلبگار ہوئے ہیں اور افکار
 نازہ کے علاوہ یہ نظر اندازِ نوکی بھی عمدهِ شوال ہے۔

شخلص

حضرتِ خواجہ کے سارے کلام میں شخلص صرف ایک شعر میں استعمال ہوا ہے اور
 اسی پر ہم اس ذکرِ لطیف کو ختم کرتے ہیں ہے

بغیر آنکہ بر و ز سیاہ خود گردید
 دگر ز دیدہ باقی چیز کار می آ بد

ماخذِ معرفت در میر

اس مقدمہ کی تیاری میں کچھ متفرق تحریروں کے علاوہ مندرجہ ذیل تصانیف فتاویٰ فاتحہ سے خصوصاً مدد ملی گئی ہے:

- ۱۔ جیافت مجدد - پروفیسر محمد فرمان ایم۔ اے۔ (مجلس ترقی ادب الامور)
- ۲۔ تصوف - مولانا عبدالماجد دربارا بادی
- ۳۔ روڈ کوثر - شیخ اکرام (مطبوعہ بمدینی)
- ۴۔ شبہ داعشم - مرتبہ و مولفہ محمد حلبیم (۱۹۵۸ھ)
- ۵۔ تذکرہ اولیاء نقشبندی - مولفہ محمد امین شر قپوری - (۱۳۶۱ھ)
- ۶۔ تذکرہ اولیاء کرام - ادبستان ۱۹۵۵ھ
- ۷۔ آثار الصنادید - سرستہ احمد خاں - لکھنؤ جون ۱۸۶۴ھ

ہمارے خیال میں اس کلیات کا اصطلاح خواص کے لیے بالعموم اور عام کے لیے بالخصوص
صرف نہیں بلکہ لازمی ہے کہ یونکہ رود پر عدالت کی ختنی خود روت آج سے تین سورس پہلے ختنی
اس سے کئی گنازی بازہ آج محسوس کی جا رہی ہے۔ اقبال نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے کہا ہے ۔

تین سو سال سے ہیں ہند کے سنجانے بنے
پھر مناسب سے ترا فیض ہو عام سے ساقی

اگرچہ تینی سو سال پہلے کی شخصیتیں بعضی امام زبانی مجدد الف ثانی اور ان کے مرشد کامل حضرت
خواجه بالی بالله تعالیٰ طور پر سہم میں موجود نہیں لیکن ان کے ارشادات توہین حال ہمارے
سامنے ہیں اور ان پر عمل پڑا ہے اگر بغیر ساقی سے فیضِ عام کی درخواست کرنا بجا نہ خود ایک

مقدمہ

۲۰

بدعت سے کم نہیں! مگر
تو بروں درج پس کر دی کہ دو دن جتنا ہے آئی!
بزداں
دیال سنگھ لا بُریری می انبیت روڈ لاہور
۱۹۴۶ء جولائی شنبہ

محض احوال

کسی علیٰ یا عملی فضیلت کے تصور میں خود یہ عمل اجتنب نہیں کہ وہ اپنی تاثیر و کھاکے بلکہ اس میں تاثیرِ فضائل کی حامل شخصیات کے اثر و نفوذ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ شخصیت کی نشوونما اور سیرت کی تشكیل میں شخصیت ہی کا اثر و نفوذ کا مرکز ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رحے کے نسب کی نسبت ہم عصر تنگوہ نگاروں سے صرف نظر کرنے کی بنا پر متاخرین کو کچھ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جس کی توجیہ، توضیح اور تصحیح مولانا زید ابوالنجیر صاحب کے اس بیان سے ہو جاتی ہے جو سوانح خواجہ باقی باللہ رحے پر مشتمل ہے۔ اس لئے اُسے یہاں تقلیل کرنا مناسب ہے۔

قبلہ راستان و کعبہ حق پرستان خواجہ سخا جگان قطب جہاں حضرت خواجہ مویید الملة والدین الرضی ابوالوقت محمد الباقی المعروف بحضرت خواجہ بیرونگ باقی باللہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ و رحمہہ و رضی عنہ و افاض علینا من برکاتہ و اسرارہ کے احوال شرقیہ کو مختصر طور پر سب سے پہلے آپ کے ایک مرید پاک دل نے قلمبند کیا ہے۔ اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے۔ البتہ جو مرثیہ اس نے اپنے پیر و مرشد کا لکھا ہے اس میں اپنا نام رشیدی لایا ہے۔ آیا یہ اس کا تخلص ہے یا نام۔ اللہ اعلم۔ اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ حضرت سے نہایت راسوس ہے کہ حضرت کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ نہیں لکھا ہے۔ اس کے بعد کتاب الحدیثۃ الباقیۃ معروف بہ زبدۃ المقامات اور حضرات القدس کا درجہ ہے۔ ان دونوں کتابوں کے مصنف حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے عبیل القدر خلفاء میں سے ہیں۔ لکھتے ہیں:-
حضرت کے والدیز رگوار قاضی عبدالسلام تھے۔ سحر قند کے رہنے والے، پاک باطن اور صاحب علم و فضل تھے۔ اکثر اوقات آہ و بکا میں رہا کرتے تھے۔ سحر قند سے کابل تشریف لائے اور وہاں آپ کی والدہ ماجدہ سے نکاح کیا۔ ۱۹۷۴ء میں حضرت کی ولادت با سعادت ہوتی خود مسالی سے حضرت پر تحریر و تفرید و تعلیل اور آثار خلوت غالب تھے۔ میں رشید کو پہنچنے پر آپ نے مولانا صادق حلولی

اور دوسرے اکابر سے علم ظاہرہ تمام و کمال پڑھا۔ اس سلسلہ میں آپ ماوراء النہر تشریف لے گئے۔ اور تھوڑے عرصہ میں امتیازی شان پیدا کر لی۔

علم باطن اور خدا طلبی کا جذبہ عمدہ طفیلی ہی سے آپ کے پاک سینہ میں دویخت ہوا تھا۔ اس لیے ایام تھیں علم ظاہر میں بھی جہاں آپ کو کوئی خدار سیدہ پاک نفس ملتا تھا آپ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اس کی صحت اور انفاس قدریہ سے مستفید ہوتے تھے۔ اور علم ظاہر کی تبلیغ کے بعد آپ نے ہندوستان و بدشہان کا سفر کیا۔ اور پائے طلب آپ کو پنجاب اور کشمیر تک لایا۔ جہاں بھی خدار اس ملزاں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فائدہ حاصل کیے۔ جتنا آپ اہل دل کے قریب تر ہوتے تھے خدا طلبی کا جذبہ اتنا ہی تیز تر ہوتا جاتا تھا۔ اگر کوئی مجدوب ملتا تھا آپ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے پہنچ لاہور میں ایک مجدد بجہ آپ کو دیکھتا تھا۔ گالیاں دیا گئی تھیں بلکہ بعض اوقات آپ کو پھر دی سے ملتا تھا با ایں ہمہ صرف جذبہ خدا طلبی آپ کو کشاں کشاں اس کے پاس لے جاتا تھا۔ ایک دن وہ ولیوانہ فرزانہ آپ پر مہربان ہوا اور آپ کے حق میں اس نے دعائیں کیں اور آپ کو باطنی فوائد حاصل ہوئے۔

آپ کے ہندوستان آنے پر آپ کے بعض دوستوں کو علم ہوا۔ انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو شاہ ہند کے عہدہ داروں کے زمرہ میں لے لیا جائے لیکن سلطان جذباتِ الہیہ کے سامنے کسی کی سمجھی و کوشش کا رکھنا ہوئی۔ دولت دیں اور متارع یقین کی بادشاہیت آپ کو ملتی تھی بھلا مزخرفاتِ دنیوی سے آپ کیا متأثر ہوتے۔

ایک واقعہ میں حضرت خواجہ عبدالحید احمد احرار رحمہ اللہ آپ پر ظاہر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مولانا خواجگی کی خدمت میں حاضر ہو۔ وہاں فتح یا بہوگا پہنچ آپ حضرت خواجگی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بلکہ اسی دوران میں حضرت خواجگی بھی آپ پر ظاہر ہوئے تھے اور فرمایا تھا آئے فرد نہ ہم چشم برہ میں تم ہمارے پاس کب آرہے ہو اور پھر آپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور نسبت تشریفیہ سے پوری طرح بہرہ مند ہوئے۔ اس عرصہ میں آپ نے اپنے بعض دوستوں کو ہندوستان حضرت خواجگی کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے خط لکھا تھا۔ اس میں آپ نے اپنای شعر تحریر فرمایا تھا۔

من از بخط محبت نشان ہمی دیدم کہ استخوان عزیزان بساحل اوفقا و است

اور جب آپ حضرت خواجگی کی خدمت میں پہنچ کر سلطانِ ملک فتح ہوئے تو آپ نے ایک خط لکھا اور
تحریر فرمایا۔

می گز شتم زعنیم آسودہ کہ ناگہ نہ میں

عالم آشوب نگاہے سر را ہم بگرفت

چونکہ آپ حضرت کی خدمت میں پوری طرح صاف و محلی ہو کر پہنچے تھے چرا غلبی صاف تھا۔ بتی بھی تھی
یہ لمحیٰ حاضر تھا۔ صرف دیاسلامی وکھانے کی ضرورت تھی۔ وہ دیاسلامی حضرت خواجگی نے وکھانی کامل
تین دن اور تین رات حضرت خواجگی نے آپ کو اپنے پاس نکوت میں رکھا اور پھر خلافتِ مطلقة سے
آپ کو سفر از فرما کر ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ اور ارشاد کیا۔ وہاں تمہاری وجہ سے اس
طریقہ شریفہ کو رونق ہوگی۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان کا قصد کیا اور ہمی تشریف لا کر قلعہ فیروزی میں
جو کہ اب فیروز شاہ کا ٹولکے کے نام سے مشہور ہے قیام فرمایا۔ آپ پہلی مرتبہ ہندوستان کی تشریف لائے۔
اور بار و دم کب آئے۔ اس کا بیان نہیں ملتا۔ اس کو دیکھتے ہوئے کہ جامع ملعوظات نے لکھا ہے رو
اد آخر ہا کہ امشیخت و ارشاد متروک شدہ بود۔ (الخ ص ۸۹ قلمی) اور لکھا ہے (فائدے کے دوں دو سہ
سال اڑاں حضرت بستقیدان رسیدہ دراز مال پیش پر سالہانی رسید ۸۵) اور زبدۃ المقاومات میں
لکھا ہے (شاہزادیم بر علوم مرتبہ ایشان) میں اس کے دو سہ سال پر مندرجہ شیخیت بودند۔ وہیں مدت قلیلہ
چرمدم کہ اذخوان دولت ایشان روزی مندرجہ بودند۔ (الخ ص ۷۹ قلمی) معلوم ہوتا ہے کہ آپ سن
ایک ہزار نہیں یا چار کو بار دم تشریف فرمائے ہند ہوئے ہیں۔ بلکہ کو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ
آپ سے بیعت ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ جو خدمت مجھ سے پروردگار جل شانہ کو یعنی تھی وہ اسی
مرد عزیز کی تربیت ہے آپ مکاتیب شریفہ میں تحریر فرماتے ہیں (رقمہ ۱۵۴) شیخ احمد نام مردیست
در سرہند کثیر العالم قوی العمل۔ روزے چند فقیر باونشست و برخاست کروہ عبائب پسیار از روزگار
اوقات اور مشاہدہ کر دہ۔ به آں می ماند کہ چو اس غئے شود و عالم پا اذ و روشن گردند۔ (الخ)

گریہ و آہ و بکار و درود و بجد آپ میں پد و جہاً تم تھا۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ آپ کو اپنے پدر بزرگوار
سے یعنی میں پورا شت ملی تھیں تو پہچا نہیں ہے۔ آپ کی والدہ مبارکہ جو نہایت عابدہ زادہ تھیں آپ
کی بے قراری اور آہ و زاری کو دیکھ کر جیسا کہ آپ بیان فرماتے ہیں (روئے عجز و نیاز بد رگاہ بے نیاز
آہ و رہ گیریہ و نالہ تمام می گفتند خداوند امراء فرزند مرار کہ در طلب توازن ہمہ بگستہ و ازل ذات جوانی

درست شستہ برآورده گردان یا هزار زندہ مکرزا کہ طاقت مشاہدہ ایں ناکامی دیتے آرامی او ندارم۔ زبدہ
 ص ۱۷۲ قلمی (خود آپ کی یہ بے قراری اور پھر آپ کی والدہ مبارکہ کی یہ دعا تیزم شی می نے جو رنگ دکھایا تھیں) ایں
 ایں نظر کے لئے مقام صدیقرت ہے۔ زبدۃ المقامات کے مؤلف نے ایک فاضل کا قول نقل کیا ہے
 اس نے کیا خوب کہا ہے (بعضی شیخان بزرگ صاحبِ حال و قال دریں روزگار شخصت وہ فتاویٰ سال
 درہند شیخی کو دوند معلوم است کہ اذ ایشان کہ ماند و پھر ماند۔ شاہزاد بزرگ خواجہ شما ہمیں اس کے پہلے سالگی
 رفتہ دو و سہ سال ہدایت نہ دند و عالمے را بھرہ و رکردا نہیں۔ الخ ص ۲۹ قلمی) جو کام پروردگار جل شانہ
 و حُمّ احسانہ کو آپ سے لینا تھا وہ یہ وجہ اتم لے لیا اور بمقتضائے و رَأْيَتُ الدَّائِنَ يَدْخُونَ فِي دِينِ
 اللَّهِ أَفْوَاجَأَفْسَطْحَجَمِيلَرِبِلَقَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا۔ آپ لفائے محبوب کی تیاری
 میں صروف ہو گئے سالگیر راہ طریقت کو خلیفہ اجل عالی مرتبہ حضرت امام ربانی مجدد والفت نافع کے
 سپرد کیا۔ اس سلسلہ میں حضرت کے رفعتِ شرفیہ میں سے رقعہ ۸۲ کو دیکھا جائے۔ اور رفعتِ شرفیہ
 کے جامع نے جو عبارت لکھی ہے پڑھی جائے حضرت میر محمد نعیان بھی آپ کے خاص مریدوں میں سے
 تھے۔ وہ فرماتے ہیں (ایں فقیر دربندگی حضرت الامُرُرُ الاخطم حضرت خواجہ بو و ایشان ہمہ یا ران خود افراد نہ
 بودند کہ در خدمت حضرت امام الحتفین حضرت ایشان بر وید و در خدمت ایشان مشغولی کنید و پرہم شغل
 کہ ایشان فرمائید بھاں روشن مشغول باشید و در خدمت ایشان قسطیم مانکنید بلکہ توجہ خود بجانب ماہنہ کنید۔
 در آں اتنا بہ ایں فقیر تھیر محمد نعیان فرمودہ کہ میاں شیخ احمد آفتابے اندر کہ مثل ماہزاں ستارہ و رضمن ایشان
 گم اندر۔ الخ ص ۲۳۹ (زبدۃ قلمی)

ہفتہ کے دن پچھلے پہروں میں ۵۲ ماہ جمادی الآخرہ سالہ ۱۴۰۶ھ کو آپ کے گوش حقائق نیوش نے
 صدر سے یا آیتہا التفسیر اما طہ عینہ ارجحیتی ریزیک راضیۃ حضرت میرزا فادح خلیقی عبادی قادر خلیجی جنتی
 سنتی اور آپ بہ صد شوق راہی مکاں بقاہوئے۔ آبیق اغیر اللہ وحیل کا۔ رحمہہ اللہ تعالیٰ وغفرله
 و رضیتی عنہ و قتل من مسرع

آپ نے اپنے بعد اپنی والدہ مبارکہ، دو سو ماں آمد و پس خود و سال جھپٹوڑے بھن کی ولادت
 سالہ ۱۴۰۶ھ پہلی ماہ ربیع الاول اور چھ ماہ رجب کو ہوتی ہے۔ میراث میں آپ نے یہ سامان جھپٹوڑا صرف
 ایک روپیہ چند کتابیں۔ ایک گھوڑا اور ایک فرش (ملفوظات ص ۱۷۲ قلمی) یہ ہے عیش فی اللہ شیخ

كَانَكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرٌ مِّنْ سَيِّلٍ كَيْ أَعْلَى مِثْلِ هَذَا فَلِيُعْمَلِ الْعَامِلُونَ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ حَيْثُ وَأَنَّ -

تصنيفات

رسائل منحصرہ فمازی تحقیقی و صوری اور توحید کے بیان میں اور تفسیر اعوذ بسم اللہ و فاتحہ و الشمس و اخلاص و فلق و ناس و آیت ہو مَعْلُومٌ و آیت آیتَ تَعْلُمُوا و ترجمہ دعا سے قتوت و رسالہ نامہ امام درسلوک جو رقعات میں ۴۱ میں درج ہے اور شرح رباعیات رسالہ سلسلۃ الاحرار اور ۸ رقعات جائفرا اور دو شنویاں دو تو اونچ تو لد بخود داران اور ساقی نامہ و سلسلہ پیران طریقت اور چند رباعیاں اور چند فرو۔ آپ کے ایک ایک نظر سے آپ کے سوز دروں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے:-

رباعی

صحرائشیں زیل خدا کن کہ آستین ترمی کنم بگریہ و افسرده می روم
آل گلبنہم بیان تو کز یک نیسم لطف نشگفتہ ام ہنوز کہ پژمرده می روم

آپ کا نسب

صاحب مفہومات اور صاحب زبدۃ المقامات نے آپ کے نسب کے متعلق کچھ بھی لکھا ہے۔ البته حضرات القدس میں لکھا ہے کہ آپ کے والدہ ماجدہ قوم سے خلج کے متعلق قدیم تحقیق ہے کہ خلنج ترک قوم کی ایک شاخ ہے۔ بردار فیضن محمد خاں ذکر یا صاحب کابل کی تحقیق یہ ہے کہ خلنج افغان قوم کی ایک شاخ ہے۔ بردار صاحب افغانستان کے سربرا آور دہ اور ذمی علم افراد سے ہیں۔ اس سلطانیہ ان کا ایک مضمون چند سال پیشتر بیرون پر میں بھی پڑھا ہے۔ مجھ سے یہ بات خود انہوں نے کہی ہے۔

آپ کی والدہ مبارکہ کے متعلق صاحب زبدۃ المقامات نے لکھا ہے (مخنی ماند کہ والدہ ماجدہ اخھضرت الودودیان سیادت بود و اذ قائمات النساء الخ ص ۲۷۳) قلمی یعنی آپ کی والدہ ماجدہ سادات کرم

میں سے تھیں حضرات القدس کا پہلا حصہ جس میں حضرت کے احوال شریفہ ہیں۔ اصل فارسی اس عاجز کے پاس نہیں ہے۔ البتہ اردو ترجمہ ہے جو لاہور میں چھپا ہے۔ اس میں لکھا ہے (حضرت خواجہ اپنے ناناصاحب کی طرف سے حضرت شیخ عمر باغستانی تک جو حضرت خواجہ احرارقدس سرہ کے نامانجھ پہنچنے ہیں اور جناب خواجہ کی نافی صاحبہ خاندان سادات سے تھیں۔ (النحو ۴۱۵) بظاہر ان دو توں کتابوں کی عبارت میں اختلاف ہے پہلی کتاب نے آپ کی والدہ صاحبہ کو اور دوسرا آپ کی نافی صاحبہ کو سادات میں سے بتایا ہے۔ اگر حضرات القدس کا اصل نسخہ فارسی کا ہوتا تو تباہید یہ وقت نہ نظر آتی کیونکہ اس ترجمہ میں اس عاجز کو کچھ بُوئے تصرف آرہی ہے صفحہ ۳۳ اپر حضرت کا اسحیم گرامی اس طرح لکھا ہے (حضرت سید رضی الدین معروف خواجہ محمد باقی قدس سرہ) فقط سید یقیناً مترجم صاحبہ کا اضافہ ہے۔ پھر صفحہ ۴۱ پر لکھا ہے (حضرت کے والد زرگوار کا نام نامی قاضی عبد السلام خلیجی ہر قند قریشی ہے) غالباً مترجم خلیجی کو کسی مقام کی نسبت سمجھنے ہیں اور اسی لیے انہوں نے قریشی کا اضافہ کیا ہو گا۔ تاکہ شروع میں جو لفظ سید کا لکھا ہے وہ صحیح ثابت ہو۔ اس عاجز نے اس سلسلہ میں حضرت کے منظوم کلام کو بترا غائر مطابعہ کیا حضرت کی ایک رباعی ہے۔ فرمایا ہے ہے

بدستِ من امشب چومہ آرستہ است غم ہمچو ہلال لاغرو کا سنتہ است

آسے صحیح بروں میا کہ ترکان مستند دے شب بیشیں کہ فتنہ بر خاستہ است

چونکہ آپ نے پہلے مصروع میں اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے اس لیے ترکان سے اشارہ اپنی طرف کیا ہے۔ آپ نے اپنے کو ترک ظاہر فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے فرزند خود خواجہ محمد عبد العزیز کی تائیخ ولادت کہی ہے۔ اس میں فرماتے ہیں ہے

گلشکر سے بُوا بعیبے دست داد شکر ہندی دگل ترک زاد

آپ نے اپنے فرزند کو ایسا گلشکر یعنی گل قند بتایا ہے جس کی شکر ہند کی ہو اور پھول ترک کا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس فرزندِ عالمی قدر کی والدہ کشمیری کی تھیں اور پدر بزرگوار ترک ہیں۔

حضرات القدس کا ترجمہ احمد حسین خان صاحب نے کیا ہے۔ یہ حضرت کے مزاد پر اوار پر بارہا حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے یقیناً وہاں وہ کتبہ بھی پڑھا ہو گا جو حضرت کے سرہانے دیوار میں جڑا ہوا ہے۔ اس کتبہ میں پندرہ اشعار ہیں جو پہلے ایک لکڑی کے تختہ پر تحریر تھے اور تقریباً

پچاس سال پہلے پیر حبی مظفر علی کے وقت میں منگ مرمر پان کو کندہ کر کے لگوا دیا گیا ہے۔ دوسرا شعر
اس طرح ہے۔

حَمِيَّ دِينِ نَبِيِّ الْحَسَنِ الْأَمِينِ مُورِّدِ فَضْلِ الْكَرَامِيِّ أَهْلِ خَتْمِ الْمُرْسَلِينَ

اس شعر میں آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بتایا ہے جو ساداتِ کرام ہیں۔ اور
احمد حسین خان صاحب دہاں کے متولی صاحبان سے بھی بلے ہوں گے۔ (پیر حبی مظفر علی سے) جو
کہ اپنے کو آپ کی اولاد میں سے بتاتے تھے۔ اور اپنے نام کے ساتھ لفظ سید بھی لکھتے تھے لہذا
کچھ بجید نہیں کہ انہوں نے اپنے خیال سے اخہارِ حقیقت کرتے ہوئے سید کا اضافہ نہ شروع میں
اور قریشی کا اضافہ بخلجی سحر قندی کے ساتھ کر دیا ہو۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتبہ کسی نے بارہویں صدی ہجری کے اوائل میں لگایا ہے کیونکہ آثارِ الحنا و بدر
میں بھی اس کا ذکر ہے جو کہ ۴۶۳ھ میں لکھی گئی ہے۔

حضرت شاہ روف احمد مجددی قدس سرہ نے جو کہ حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کے اجل
خلفاء میں سے تھے اور بعد میں بھوپال میں سکونت اختیار کر لی تھی ۱۲۲۹ھ کو کتاب بواہر علویہ لکھی
ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں (سحر قندی الاصل کا بی المولد اندر خلیج بودہ اندزاد جانب والدہ بحضرت شیخ
عمرا غشنائی کہ جد مادری حضرت خواجہ احرار اند میر سند) اس عاجز کو خیال ہوتا ہے کہ حضرات القدس سے
آپ نے یہ کلام اخذ کیا ہے ممکن ہے آپ نے بھی مزار پر انوار پر کتبہ لکھا ویکھا ہواں ہی خلیج کا اخہار
ضروری خیال کیا ہو۔

ہندوستان میں بزرگان دین کو سید بنانے کی نیم کافی عرصہ سے جاری ہے ممکن ہے اسی جذبہ
کے تحت آپ کو سید بنایا گیا ہو یعنی اس کے ساتھ اس عاجز کو ایک وجہ اور بھی معلوم ہوتی ہے، کہ
کہیں حضرت کو بنایا ہیں نیک نہ بنادیا گیا ہو۔ وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت کے پڑے صاحبزادہ خواجہ
عبداللہ معرفت بخواجہ کمال قدس سرہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اس کا نام "منیخ الریحان" ہے۔
اس رسالہ میں آپ تحریر فرماتے ہیں: "گوید بندہ سرفکنندہ شرمندہ اذکرو ارتباہ سرایا گناہ خانہ زاد خواجہ
آفاق سبسط آں اللہی مولی اللہ و الدین الرضی ابوالوقت خواجہ محمد الباقی قدس سرہ احقر عبد اللہ... الخ"
آپ نے اپنے پدر بزرگوار کو آں نبی یعنی ساداتِ کرام کا سبسط قرار دیا ہے۔ سبسط عربی لفظ ہے۔ اور

از لفظ لغت عربی میں اولاد کو سبسط کہتے ہیں چاہے وہ پسکی اولاد ہو چاہے یا دختر کی لیکن از روئے استعمال پوتے کو جیسا اور نواسہ کو سبسط کہتے ہیں۔ یہ استعمال آنا ذائق اور شائع ہوا ہے اور خاص کو اسلامی دوڑیں۔ کہ بعض اہل لغت نے لکھ دیا ہے کہ پوتے کو جیسا اور نواسہ کو سبسط کہا جاتا ہے۔ ویکھو المجد میں لکھا ہے۔ سبسط ولد الولد و یغلب علی دلد البنت مقابل الحفید الذی هو ولد الابن یعنی حنید پوتے کو کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں نواسہ کو سبسط کہتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سبسط البنی (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا جاتا ہے۔

پانچ سال ہوئے اس عاجز کو ایک صاحب نے لکھا تھا کہ حضرت خواجہ قدس سرہ صحیح النسب سید ہیں اور ولیل میں رسالہ مبلغ الرجال کی عبارت تحریر کی تھی۔ اس دن سے یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے بعض افراد اس عبارت سے مغالطہ میں پڑ گئے ہوں۔ اور پھر حضرت کی درگاہ کے متولیوں نے مزید ان کو مغالطہ میں ڈال دیا ہو۔ جو اپنے کو آپ کی اولاد میں سے بتاتے ہیں اور اپنے اس بندہ عشق شدی ترکِ نسب کو جانتیں کہ دیں راہ فلان این فلاں چنپنے نیست
 مَلَكُوكُمْ مِنْ أَدَمَ وَ أَدَمُ مِنْ تُرَابٍ۔

مبلغ الرجال کی عبارت سے زبدۃ المقامات کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ آپ کی والدہ ماجده سادات کرام میں سے تھیں۔ اور آپ سادات کرام کے نواسہ تھے۔ آپ سبسط آل بنی (صلی اللہ علیہ وسلم) تھے اور آپ از جہت پدر بزرگوار قوم خلج سے تھے جو کہ مشہور اور قدیم قول کی رو سے ترک قوم کی ایک شاخ ہے اور اسی قتل کی رو سے حضرت نے اپنے کو ترک بتایا ہے۔ اور اپنے فرزند کو ترک کی پھول قرار دیا ہے اور سردار فیض محمد خاں ذکریا کی تحقیق کی رو سے خلج افغان قوم کی ایک شاخ ہے اور یہ لفظ حقیقت میں خلج ہے اور یا سنتی کے ساتھ غلطی ہے۔ والعلم عند اللہ تعالیٰ

حضرت کامران پروار پرانی ولی کی فصیل سے (جواب صرف پڑائی نقصوں میں مل سکتی ہے) جہت غرب ہے۔ لاہوری دروازہ سے تقریباً چار فلانگ جہت غرب قدر سے مائل بجنوب قطب رو ڈپ واقع ہے جو شمالاً جزو یا ہے۔ اور قطب رو ڈے سے عیدگاہ رو ڈب جنوب کو نکلی ہے اس کے مقام اقبال کے جنوبی کونہ پر واقع ہے (شمال — قطب رو ڈے — جنوب) مزار پروار چار اویاری میں ہے۔ جہت شمال مسجد شریف کا حصہ ہے۔ آپ کے مزار پروار کی شرقی دیوار کے پاس آپ کی والدہ

ماجدہ رحمۃ اللہ علیہما استراحت فرمادی ہیں۔ صد بار بلکہ ہزار بارہا اللہ کے نیک بندے کے قرب و جوار میں چاروں طرف راحت کی نیزد (نُمْ كَنُومُ الْعَرْوَسِ) سوئے ہے ہیں۔ اس عائز کے دیکھتے وہاں کے ششین تقریباً تین حصہ قبرستان کا فروخت کر پکے ہیں۔ جو مکتوپاً حصہ (القریبیاً چو تھائی) رہ گیا ہے۔ اس کی بھی حالت خستہ ہے اور آثار اچھے نہیں ہیں۔ کامن علیہا فان۔ البقاء لله وحدہ۔ والصلوٰۃ علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلیمان۔

جمعہ ۲۹ ربیعہ سالہ ۱۴۸۷ھ

۲ دسمبر ۱۹۶۸ء

زید ابوالحسن فاروقی

ورگاہ حضرت شاہ ابوالجہیر رحمۃ اللہ علیہ

پتلی قبر، دہلی

مُعْوِظَات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کلماتِ جانفرزاد سخنخانِ دلگشا

ملفوظاتِ شعرِ کلیف و احوالِ مُهاجِر کیستند؟ باقی فارسی پاکستان

نوٹ: بحثیہ اول (بعض تحریرات) است و جلدِ دوم ملفوظات است مجموعہ ایں ہر دو حصہ یک سالہ است کہ نام جامع و مؤلف آں ظاہر نہ شدہ ابتدائی نظم و سے کہ در آخر نوشته معلوم ہی شود کہ دوے یونیورسٹی تخلص می کرد۔ رحمہ اللہ

بعد از حمد و حصلہ نمودہ می آئید کہ جوں بسا بقہ عہدا بیت اذلی و زہنی سعادت طمینی ایں ذرا چھتر کہ نام خود را از غایت بے اعتبار می شایستہ اندر ارج ایں نامہ بہند قدر بخی بینید از جملہ باریافتگان درگاہ خواجہ جہاں پناہ مرجع حق پرستاں قبلہ راستاں و درستاں عمر برا بیت و پیغمبر معرفت المور الاتھم و سرالله الاعظم صاحب التصرف الانفس و الافق ابوالوقت خواجہ محمد الباقی نقشبندی الاویسی مَنْ أَنْتَ اللَّهُ عَزَّلَ
العلمیین بیقاہی و شرح حسن و را مسلمیین بلقاہیہ شد اکثر وفات انہیں آں مقام خلوت خاص راہ بروں دشوار بود سے لگر آں کہ لطفِ عجیم آں دریا سے کرم و مستگیری فرمودہ دراں موطن قدس جائے دادے و در بعضی مجالس کہ آں لسان وقت گھر ریوں شندے سے بخاطر سوچتہ و دل شیء ارسیدے کے ایں کلماتِ جانفرزاد سخنخانِ دلگشا کہ سامعی افروز و پنپن غفتہ سے سوز و دل را پر دانگی می فرماید و دماغ را بہماری آویز د و پوشش شیشه می شکنند و روح را با احلاق می اندازو و در قیدِ کتابت آورده شود تاہر کہ مزہ حق پرستی در دل والدستی حق شناسی در ذوق و طلبِ تحقیق و راستہ باشہ امداد
آں خوش وقت شود و بہرہ بردار و اب کہ پرتوی از فہمیر آں صاحب دل بروقت محشر افتاد و را زمیش
تعلقات غلاص بخشد اکنوں بآں خواہش فائزی گرد و حق سمجھانہ سخت تھا ایشان را بہر مفارق طالیان
باقي و پائندہ دار و داین جواہر گوان بہاب صفحہ قلمورہ آتا فاناً جلوہ گو باؤ پاہنہ بی دائلہ الاطهار
الا چجاد۔

محنی مانند کہ ہر جا دیں رسالہ فقط حضرت ایشان ثابت افتد مرا حضرت خواجہ خواہند بود و آپ کے از محارف و حقائق کہ اذ زیان مبارک حضرت ایشان استماع می افتد چوں قوت مدرکہ حمراز اور اک گئے آں قاصر بود و قوتِ حافظہ در غلط عبارات شریفہ بعینہا غیر واقع۔ اگر وغیرہ بیان غلط در غلط یا وہ بھی راہ یا مجھ میں بقصور و نقصان حال کا تب ہر دفعہ خواہند بود عقی اللہ عنہ و عن جمیع مسلمین بعد ذلک اس خواستم کہ مجھے از اب اسے احوال کرامت مآل حضرت ایشان واستفادہ نسبت و اخذ طریقہ از وسائل متعارف و رایمداستے این رسالہ نقل کنم بخی ازان بخط شریفہ سخن حضرت یافتہ شد و آن ایشت۔

ابتدائی توبہ از معاصری در ملازمت خدمت خواجہ عبید کردہ شد یکن شیخ رجوع و غرم ترك در باطن بود و انتہا فنا تحد در ظاہر ایشان از خلفاء مولینا اخطفت اللہ بوند و مولینا اخطفت اللہ خدیجه مولینا خواجی دہمید سے علیہ الرحمۃ بود ڈچوں توفیق استفامت نیافت بار دیگر توبہ در ملازمت بنگل افخار شیخ کہ در سفر قند تشریف و اشتند و ان کبار خانوادہ حضرت خواجہ احمد لیسوی بوند کردہ شد اگرچہ جناب ایشان رضاند اشتند و فرمودند شما جو ایند یکن چوں عزیمت فقیر مصمم بود پسروت فاتحہ خواندند و فرمودند خدا استفامتہ بدید موافق تقریں آن بزرگواران آن عزیمت بحکم خود و خرابی ہائے عجوب روئے و ادب ایگر بے صنع و اختیار فقیر و بندگی حضرت امیر عبد اللہ بنجی مظلومہ تجدید توبہ بظہور رسید مقرر و مصائب آن نعمتے بود غیر مترب قب امیر کہ برکات آن موہبہ الی یوم القیام بداند القصہ چند گاہ دیگر در مقام نگاہداشت حدود بود باز تاثیر اسم المصلیٰ آن سد رائس کست عاقبت بہ بہایت صہبیت و رخواب بشرف ملازمت حضرت خواجہ بزرگ خواجہ بهاؤ الحق والدین صورت تو پہنچ دش و میں طریقہ اہل اللہ بظہور رسید بکم الغریبیق یتَعَلَّقُ بِکُلِّ حیثیتیش بہ طرف دستے ہے انداخت۔ عاقبت بعضی از خواجه کم فرمودند کہ ذکر کے کمعنعن آن بحضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسد نیتجہ منداست تعطش برانداشت کہ اذ بھان عزم بیطریق ذکر و مرافقہ اخذ کردہ شد۔ دست دو سال برآن ذکر و مرافقہ واور او سسلہ آخرین مدارست نمودہ شد شنیدہ شدہ بود کہ تاراک مدت قریب بھیں سال میدان لا إله إلا رَّبُّكَ رَّبُّ الْعِزَّةِ بِكَ تَسْبَحُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خواہند رسید سادہ لوحی برآن میداشت کہ مرور زمان را در ذکر غنیمت شمار و بھان صورت عبادت قناعت نماید۔ ہر چند کہ دیں میان اشارات خوبیہ و رسولک طریقہ دیگر ظہور سے کردہ و قدم استوار را

از جانمی بودا شت و وزین کرم بزرگواران آن طبق تخریج و فیضه‌ها اش شنیده‌ای لآن نفس میکشت
الشام المد العزیز عاقبت دست کرم آن تخریج را از بوبیار مالا عین رأات ولاد اذن سمعت
سیرب گرداند بالآخره بکثیر رسیده شد و ملازمت حضرت شیخ بابائی والی قدس اللہ برہ العالی
اتفاق افتاد و از پر کات نظرش بهره مند شد - الحمد لله رب العالمین که آن نظرات فتح باب قبول آمد -
چون که حضرت شیخ از سلسله عالیه شنیده بپیر مجاذبو وند واستعد او حلالمب متوجه آستانه آن بزرگواران
نقحات ربانیه از وریچه همان خانوادا اقبال فرمود و بعد از انتقال آنحضرت بدار الفرا غیب معهود و خواجهها
جلوه گوشیده از واروح طیبات ایشان در بشرات نمودن گرفته و تلقینات فرمودند و سین تو بجه
ایشان آن نسبت را قدر پیدا شده دایره غیریت و سعی پیدا کرد و راه روش شد و فی الجمله بمحیطه دست
دوا و تما آنکه بخدمت خنایت ایشان بخدمت محمد و می حقایق پناهی ارشاد و مستکه‌ی حضرت مولانا خواجی
امنگی رسیده شد و بطبع و رغبت خود بیعت و مصافحه پدست آورده طریقی خواجگان اخذ کرده شد
و بظیل ملازمت آنحضرت واروح طیبیه خواجه نقشبند و خلفاء ایشان در سک افتادگان این راه
و نیازمندان ایس درگاه در آمده شد اللهم آنجیه می‌شکننا و آیینه می‌شکننا و آنحضرت روی
فی رحمة المساکین و السلام علی من اتیع الله ی انتهي علامه -

شنبه عزّه صهر تمم المد بالحیر والظفر سدهم لسعه والهـ

سعادت حضور روی داد وری اشاره ایں فقیر را دل بجوائی آوریخته بود - چنانچه خطره او بسیار
می آمد و تشویش میداد و بزبان باطن سخنی از حضرت ایشان و رخواشم که از این تشویش خلاص یابیم - زمانی
بیش بگذشت که از مغلصمان توکل خداست از در در آمد و سلام کرد و عنایت بسیاره و رباره او فرمودند و امر
نشستن کردند بعد از زمانی برقطف مبارک راند مرد که کلد خدای سه خبر دارد - حضرت اول شفیع عاید شو و پیر لقش
را باعث شهوت پیدا آید مثل ما رسمازده که بحرکت جنبش افتاده بود - ناگاهه تا بآفتاب باوریید جان ناره
نافقت این زمان از قید احاطه باره بیرون علاجش آنکه منه کس و رشوت کامرانی نگردد و عنان اختریا کشیده

دار و ضرر نهانی بدل رابع گردد و آن بطرف شدن یقین است - چه درین محل فتوحے در یقین را ذکر نمایم
 رزاق حقیقی و نقاصانه در توکل حق سبحانه راه یا بد علاجش آنکه غم روزی نباید خود کرد رزاق علی الاطلاق
 ضامن عجاوه شده است - هم درین محل فرموده که توکل نه آنست که ترک اسباب کند بل شیند چهارین بود
 اولی است بلکه افامت بسیب مشروع مثل کتابت وغیره میدادید کرد و نظر بسبب میدادید اند وخت
 زیرا که سبب مثل دروازه است که حق سبحانه برآئے وصول مسبب ساخته درین میان کس دروازه را
 بریند که از بالاخواهد بر تاخت بی اولی کرد و باشد چه دروازه بتاکرده اوست و دلالت دارد و براینکه کشاده
 بشیند - بعد ازان او داند خواه از راه دروازه فرستد یا از بالای تا پد و آنها که بشیند و بریند و نظر فتح
 دارند ازین پاپ است چه با وجود قدرت بر کسب نظر فتوح داشتن بهتری دترک اسباب است
 ضرر ثالث بروح راه یا بد و آن سی انجذاب است که از فرط میل بصور جميله پیدایمی شود پهلوی محل
 انجذاب حق است سبحانه در رهاییکه میل بصور جميله پیداگرد و انجذاب آنجذاب کمین رفت علاجش آنکه میل
 مفرط بصور جميله پیدا نکند چه کسیکه درین نشانی عشق صورت مبتلا ماند تا ابد در حجاب عظیم است و اگر آن صورت
 ناخشم باشد در آن نشانه تو اند بو که بشکل کریش مبدل سازند و اورا بدآن مبتلا گزارند - در آن وقت بتوئی
 از لذت حضور حق سبحانه مشاهم او نرسد و آنکه بعضی عشق صوری را طریقی نهاده اند محل تامل است در طرقیه
 عالمیه لقشیندیه قدس اللہ تعالیٰ او احمد بغايت هم بعد است همدرین محل فرموند که در بعضی کتب مسطول است
 که خواجہ بزرگ حضرت خواجه هماو الدین نقشبندیه قدس سرمه به بعضی غلیظ الاستعداد و در آن ایندا احیا نا
 باشیں روشن مارا و امیرکردند که عشق صوری پیدا کنید بعد از آنکه پیدایمی کردن کمال بتعلقی شان بحاصل آمد
 چنانچه غیر از همان یک تعلق تعلق و بگردنی ماند که باز که تصرف دل آنها را از محبت صورت دمی گذرانیده
 آنها - لاجرم چوں یکم علائم مرتفع می شوند حضور و آنگاهی شان پیدا شده آند و این محل حضرت محبتنی بر آن مسئله
 دیگر است اگر طبیب حاذق بسیاری امر را زنگاب شی حرام کند که علاج منحصر درین است از تکاب آن جایز
 است نزد بعضی آنکه وصال حبیب کشف ایجاد کند که از امامان طریق است مکفیر قومی که با باحت این امر قابل
 شده اند که وصال حبیب کشته آنکه مدارسلوک پرین نهاده باشد و حضرت خواجه بزرگ نه آنست که با هم این سلوک
 امر باین کار میفرمودند بل کسانیکه میل در آمد طریق میداشتند و در استعداد او شان قبول طریق حضور و آنگاهی
 ایند آنچه بود در اوان ایند این ایند و مقصداً علی میرسانیده اند و درین اثنا بند

درگاه عرض داشت که اگر کسی را درین سلوک طریق حضور ابتلا باین بلاواقع شود علاجش چه کند فرمودند، اگر مرضی داشته باشد با او بگوید تا بصرف اور را ازین همکده برآورد یا سفر اختیار کند آن شهر را گذاش و پون اودر در زش نسبت حضور را گاهی بخواهد بود اور امتحان مفترط خواهد بود و سفر را چندان شاق خواهد آمد چه حضور خاصیت دارد که در برابر او بیچر پیرزاده الذی در ولقی منے ماند و این بیت را در اشاره به تحسیل دوام آگاهی خوانده بیت - چند گاه ہے بے لب و بے کام باش بعد ازاں پیشین و پار جام باش

بعد ازین موقت بیس سخن فرمودند که حضرت خواجه مانوشه احرار قدس اللہ عز و جل علیہ السلام مخلص داشتند - ملا لطف اللہ نام مردی منبسط بمحاطه بود - چنانچہ بعض اوقات حضرت خواجه را خوش می آمد باوسخن میکردند روزی ازو پرسیدند که ملا لطف اللہ اگر که خداشوی چه طور زنے خواهی خواست - گفت سبز و شیری - فرمودند را انک زمانه شیرینهای خواهد رفت همیں سبزی خواهد ماند - هم درین محل فرمودند که از اکابر بیچ کس بجمال صورت متوجه نمانده است و حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس سره السامی که از پیشروان ایں قافله بودند در آخر تبریزی ازین نمودند چنانچہ احوال ایشان و بسیاری اذ سخنان ایشان دلالت بر این معنے وارد - و ازان جمله است این رباعی - رباعی

رفت همکه به قبیله بیت از رو آرم حرف غم شان بروح ول به نگارم
اہنگ جمال جبا و دافی و ارم حسنه که نه جاده ای ازو بیز ارم
انتی کلام رسل اللہ تعالیٰ و البقاء چوں کاتب از مجلس بر خاست ول سردی تمام ازان علاقه
وست داده بود و بالکلید مرتفع شده - الحمد للہ و المنشئ -

یک مشهور دویم صدر حشم اللہ بالحیر والظفر نعمه مذکور

دولت ازین بوس روئے داد از حاضران شخصی از منی چنوار بے مراحت نفی و اثبات که در رسائل ایں طرقی عالیه واقع است استفسار کرد - فرمودند چوں حضور صاف بخود قائم وست دید مرجمت نفی و اثبات را گنجائش نماند - هم درین محل بر لفظ مبارک را لذند که تا حضور ذاتی که حضور صاف بجارت ازان است سالک را حاصل نشود از تقدیر توجیه حسما فی خلاص نیاید چه توحید صوری و در مراتب اجسام

می باشد چنانچه وجود جسمانی خود را وغیر را بوجود ہت و اند و درین وقت تیز و لفڑا باقی است روح بعنادِ اصحاب حلال نریسیده است زیرا چه بروح است تیز بر تیز ایں موحد توحید که مقرر علما تے دین و صوفیائی محققین است رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نرسیده و آن عبارت از مدلول کریمہ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَآءِهِمْ فُحْشٌ كہ تنزیہ صرف کہ منزه از صفات تنزیہ است تا فرع حضور ذاتی در نگیر و دل و روح را بعنادِ اصحاب حلال نرساند حجاب اپنہ مقصود بربنه افتاد اگرچہ آن حال محرّم باشد و ایں ہمای قدر کہ در تقدیر رفتہ است روئے می نماید علی تفاوت الاستعد او پس بہیشه منتظر باید بود کہ حق بسحانہ بوجود موبہب حقانی کہ مقرر تابان خود را بد ان مخصوص گردانیده است مشرف ساز دو ایں جا کسب را اصل اول خلی نیست محض موبہب وی تعالیٰ و تقدس و سنت و ہر دویں مقامِ مضمون ایں مصرع۔

از علم گذشتیم و معلوم رسیدیم

واضح گردد۔ ذِلِّکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ

پیغمبر مصطفیٰ - ششم صفحہ نامہ مذکور

بدولت حضور مشرف شد سخن در تحقیق محبت ذات و محبت صفات رفت بر لفظ مبارک را نمذکور که محبت صفات آنست که کسی شخصے محبت دار و داہمین جمیت کہ او عالم است یا شجاع و درین وقت محبیت او منوط بصفت علم و شجاعت باشد چنانچہ اگر ایں اوصاف از عمر تفع شو و محبت ایکم نمائند و محبت ذات ایکم اور او و سنت دار و بی ملاحتہ بیچ صفتی نہ در وقت اتصاف او بصفتی در محبت تزالیکے و نہ در وقت عدم اتصاف نقصانی محد رین محل فرمودند محبت ذات از اہل شہود کسی راست که غرض خوش ور میان نباشد چنانچہ بعضی ایں جمیت و سنت دارند کہ از مشاہدہ اولذت و سروی در ایشان پیدا شود و بعضی جمیت نہ بینند محبت بذات صرف او و ازند اگر دویں مقام تجلیاتِ جمال اولذت و سروی با ایشان رسیدیچ منافات بمحبت ذات ندار و بلکہ ایں کمال محبت ذات است یہم و رین محل کتابی از مصنفات حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس سرہ الساجی کہ پیش حضرت ایشان نہاده بود و باشند و کشادند۔ ایں حدیث قدسی برآمد کہ مَنْ قَتَلَهُ مُحْبِّيٌّ فَأَنَا أَوْلَيَّهُ بیانی عالی فرمودند کہ حق بسحانہ بیان طریق مرافقیہ

فرموده است که هرگاه محبت ذاتی بر تبره فنا و اماتت برسد محب بذوق یافت و تخلی ذات فائز گردد و اینجا دیست همیں ذوق یافت است که بعد از فنا و محبت ذاتی بظهور میرسد یعنی طریقہ مراقبه مذکوره که عبارت از ظهور محبت ذوقیه است البته مصل مقصود است - بعد ازین سخن فرمودند که مدار طریقہ ما بایس سپهیز است - رسول خ بر عقائد اهل سنت و جماعت - دو مسلمانی و عبادت - هر کار و ریکی ازین ہافتوارے رفت از طریقہ ما برآید فن عود بالله من الذل بعد العزو من الرّحْمَةِ بعد القبول ہمدریں محل محرر این سطور عرض نداشت کرد که آرز و دارم که هرچه در حضرت عالمی مذکور می شود با اجازت آنحضرت در قید کتاب آورده شود - بعد از خواهش بسیار فرمودند بنویس و من نهانی نوشحال شدم و فرحت عظیم مبنی روی مخدود بخاطر آوردم که این دولت بس عظیم است که نامزد روزگار من شده و غالباً این خوش حالی نفسانی بوده است - مجلس چند که بے اجازت نوشته بودم در نظر مبارک در آوردم فرمودند این نوع سخنان در کتب مردم بسیار است چه احتیاج که بگوئید من از فلانی شنیدم عرض کردم که مرایور این سخنان باطن نورانی میگردد و قوت فهم سخنان اکابر روی می نماید و راه روشن می شود فرمودند که اگر شمارا باین نوع سخنان سری است چیزی ازین علم بخوانید نوشتن چه در کار است نویسید که نفس شمارا درین جا داخل است لاجرم و سرت ازان دولت کوتاه کرده آمد و خاطرا داده منصرف شد - اپیات

مرا این غول نفس دیو کرد ام فکنه اندر خرابی ہائے بسیار
 کنون زیں پادیه تا کار و اغم مگر کوگس رساند استخوانم
 تا آنکه در شهر رمضان المبارک سنه مذکور عنایت آئی در کار شد و طالع یاوری کرد و
 غنچه آمید بشنگفت و از پهره ته مقصود پرده برآفتد و نخل سعادت بیار آمد یعنی بخاب میباشد شیخ احمد
 سرمندی وغیر تهم که از مقربان و مقبولان و رگاه خلاقی پناه اند تقریبی ساختند و مکرر آدنها است
 قبول این امر خلیل کردند - بعد از تأمل و ترد و بسیار قول کردند و فرمودند سخنی که در طریقہ دخلی و اشته
 باشد بنویسند و حکایات و معاملات مشترک را که مذکور می شود بیان ضمیر سازند و کاری راست نکند
 پھون آرنوی این فقیر بینیل ایں مراد سابق بود و باعث نفسانی و داعی طبیعی و بین مدرست بگوشش
 رفته و بی قوت گشته لاجرم این دولت باز نبین انتقال کرد و این سعادت نامزد طالع این شوریده

شد - پست

مورسکیں نے سے اشتہ کہ درکعبہ رسد وست در پیتے کو ترزو نگاہ دیں
حسب الامر العالی حکمایتی کہ در خلال مجلس اقدس مذکور حی شود ہر چند فوائد عظیم در ضمن آن
مندرج میسود حقی الامکان زبان قلم اذال نگاہ داشتہ آمد الا در جائیکہ تحریر سخن حضرت ایشان موقوف
بہ آن بود اکنون بتایید المی واستفادہ از ازار رواح طیبہ حضرت خواجهگان قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم و
استفانہ از باطن اقدس حضرت ایشان دریں اصراف شروع نمایم و نعوذ باللہ من الخلل والزلل -

پنجشنبہ یازده محرم ماه رمضان المبارک سنه تسع وalf

بسعادت زین بوس مشرف شد بعد از افطار مردم از صوفیان شیخ جلال تھائیسری ملاقات
آمد - ظاہراً این مرد قبل از افطار آمده بود و منتظر طعام خیلگی برداشتہ و این شخص ہمیشہ بعد از ادائی
تهجد طعام میخوردہ است و صوم و امام میداشتہ بحضرت ایشان این معنی روشن گشته حاضران اصحاب
ساخته فرمودند که روزہ و اشتن و رصفت حق سبحانہ آمدن است - چون او تعالیٰ و تقدس از اکل و شرب
منزه است بندہ میخواهد که زماں مخلق باین خلق شود لیکن اطمہاراً للعجز بامد کہ سحرخورد آنکاہ بادب و عجز
در روزہ شروع نماید تا از دائرہ بندگی برداز افتاد قدرت و قوت که صفت خاصہ است عز و علا مخصوص
اوئر وانید و بود سچنیں قیام لیل نیز و رصفت حق سبحانہ در آمدن است - چون او تعالیٰ و تقدس منزه
از نوم است بندہ ورین صفت باد افترا نموده قیام لیل شروع می نماید باید کم گستاخانہ باحوال و قوہ تو
ورین صفت ورینیايد و اول شب بطعم تعییل نماید تا عجز خود عرضہ داده باشد - آن مرد فی الحال از وضع
سابق برگشته طعام طلبید و گفت اگر طعام حاضر باشد بخورم گویند این مرد بغاۃی برقرار داد خود را سخ بود که
بگفتہ والدین ہم اول شب طعام نخوردی - ہمیشہ بعد از تهجد و تراویح تناول کردی و پیوستہ صائم بودی
بیدازان برائے کاریکہ آمده بود عرضہ داشت و بازگشت ہمدرین محل فرمودند کہ در فوائد الفواد ویدہ شدہ
است کہ اولی حال روزگاری ابرایم او هم قدس سره قوت خود بہیم کشی میکرده اند و زان ایام از عبادت
بنازدست ایشان آمده است کہ تمام شب قیام کردی بر ایشان تحقیق شدہ کہ لقمه اور ایشان است، باو

فرموده اند میتوانی که روزے چند از طعام مابخوری ولی راضی شده در و دو سه روز برکت لعمره پاک کار او بجا تے رسید که در سن موكده هم تعادی ازو فہریده می شد انتی کلامه سلمه اللہ تعالیٰ والبغاہ ظاہرا اقام او نفیانی بود و بطیل لعمره پاک نفسانیتیا نابود گشته بجا تے او حقانیت متولد شده باشد واللہ اعلم

چہار شنبہ بست و حکم سهر سوال شنبه مذکور

سعادت حضور روتے داد نفحات الائس مطالعه می کردند سخن در جاه افتاد فرمودند پیش ابو عبد اللہ حنفیت جاہی واشت که مشاہیر روزگار و خنزران خود را برا تے افتخار و تبرک پر ہم نیاز پیش او آوردند سے واو بنکاح گرفتے و بجا می ہر کدام کی را از نان سابق طلاق گفتہ ہم چنین تاہف تاد زن بھم رسیده بودند و بپیش کدام ازین ہائز و یکی نکرده چوں ایشان را درین معنی توہی بخاطر آمدہ ہمہ اینہا جمع شدہ پیش یکے ازینہ که صاحب جمال و دختر و زیرے بود و خدمت شیخ بسیار کر دے و شیخ با و میلے واشت آمدند و از حقیقت حال استفسار کردند و می گفت ایں قدر و احتم که روزے دست من گیریاں خود فرو بود و دیدم که از سینہ اد تاناف ہر فدہ گلوہ برآمدہ بود سر آن پرسیدم گفت اینہا از مرعیہ است که از مثل تو تازیتی خود را نگاہ میدارم ہمدریں محل فرمودند کہ حق سبحانہ تعالیٰ مقصدا ایاں را در ہر زمان بطور سے میدار د که صدای حمریداں آنوقت در آنست ہمانا مریداں آنوقت را کد خدائی مضر بود درین اثناء مجذوبی از حاضران سوال کرد کہ اینہا که حکم کر ده اند و اشارت بزرگانی کر د که در نفحات مذکور اند و شخصیں احوال مشیخ نموده اند که فلاں بزرگ چنان بود و آن دیگر چنین ۔ گرور لوح محفوظ حال اور او پیده گفتہ اند یا بقاس و تجھیں فرمودند کہ ہر چہ میگوئید بالہام حق سبحانہ تعالیٰ یا بتقریس کامل که ایشان را حق سبحانہ تعالیٰ اعطای کر ده است و یا فیہ حکم میکند و ہر کدام بر اند ازه صفات خود که از مبدأ صفات فیاض لفظیہ ایشان شده است پیغام سے می فہمند امّہ مجتہدین از معانی قرآن تکمیلت علم شرعیہ استخراج کر دند و اولیا را اللہ حقائق و معارف ازان معانی فراگرفتند ہم درین محل فرمودند کہ شخصی از حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہر پرسید کہ شما از اہل بیت آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم و از شما قریب ترے نبو و شیخا چیز سے گفتہ باشد که بدیگر ان ہر گفتہ اند چنین نسبت آنچہ بدیگر ان گفتہ اند بما ہم

گفته اند دا پچہ بیان گفته اند بهم گفته اند ناما مارا فتھے در بیان داده اند که بیگان نداده اند و این دو بیان
از مشتوفی خواهد بود

اہل دین از دور نامن بیشتر نمود تا فخر تار و پودست دزروند

بلکه پیش از زادن تو سال ها دیده باشد ترا باحال ها

با از آن مجدوب عرضه و اشت که الجدیه و بخطی و مصیب یعنی خلاف او لیا نیز از مقوله خلاف
امکنه شرع است. فرمودند خطای این طائفه و مفهوم کلام یک و بیکراسته و راصل مسلمه و راصل
همه متفق از خطای مفهوم کردند اند ازان رو که قائل فصح نیست. در عبارت او قصور نیست که
مدول مفهوم نمی شود یا ازان جهت که حال این بحال آن و بیکر برای غایبت. زمانه احوال اور اجسیحال
خود رنگ و بیکر فرا گرفته و تخطیه کرده است و تخطیه شیخ علام ال ولہ سمنانی نسبت شیخ مجی الدین ابن
عری از قسم ثانی است. در فحات مذکور است که بعضی از فضلا که بہر و ایشان معتقد اند تحقیق فرمودند
که مخالفت بینهای مجدد مفهوم نیست والا و راصل مسلمه هیچ نزاعی ندارند بلکن آن فاضل مخالفت را
از قسم ثانی نداشتند و عام فهم را عذر می نیارو و هم در فحات مذکور است که شیخ علام الدواد و رحائیه
فتوات نسبت پیش از نوشته است آیه‌ها الحقائق آیه‌ها الصدیق و در جای تخطیه و تکفیر کرده است
این سخن مقومی آنست که تخطیه بحسب عدم فهم است یعنی آنچه یافته است قبول و اشتبه و آنچه شیافت نهی
کرده اصلًا نفس را درین جای اشتبه نیست با از آن مجدوب عرضه و اشت که اینها استفاده از آورده بودند
که چنین شدن یا بتوجه هر شدید راست و لایت رسیدند. فرمودند که هم ایں بود و هم آنچه استاد یکمیاگر
آنچند جو هر مثل سیچاپ دس وغیره طلایی ساز و از خاک نبی سازد. پیش

بس نکته لعلیه است بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

لحنی سخن در احتیاط لفظ افتد از اکابر عرب نیز یک راثنم بود و فرمودند که او گفته است که وقت طعام
خوردان حاضر باید بپو که بخلاف خود نشود پچه لفظه بشابه تخم است اگر از سر حضور بخار رفتہ آتی
حضوری آردو الایشانی و غلط است اگرچه لفظه پاک هم باشد از حاضران نظری سوال کرد ازین جا
خطا همی شود که اگر بشدت هم بخوردند و حاضر باشند حضور آردو فرمودند چون ندانند از ارام الیه هم تویی
خواهد رفت و راه ترقی جزد و اهم آرام غایبت. صاحب آرام مثل سائل است که بود و کیم استاد او است

و پیوسته طلب میکند لاجرم پیرز سے با او میرسد و موافق این سخن این حدیث خواندند من دق باب الکریم
و کچ دلچ و اگر آرام ندارد قلقی خواهد داشت. صاحب این قلن مثل سائلکے است که بر در کریم است
و این طرف و آن طرف بهما تهم میگرد و شکایتے دار و که بنی هنی و هنده و چرا هنی و هنده. و زین حال
با او پیرز سے نبی رسد. این فقیر سوال کر دکه و رائے آرام و قلق حالتی دیگر هم است. فرمودند که حالت طلب
ازین دو بیرون غمیت. یا آرام است یا قلق. و هر که یعنی این دوندار و طالب غمیت. هم درین محل
فرمودند که لقمه شبیه مثل دو دے است که میان راتی و مرغی حائل می شود و پھر مقصد و راز نظر علی پوشید
و آنکه بحضور النبی آشناست می فهم و در قلق می آنند و بعضی از عرب زبان هریدان را زوف سفر منع میگردند
از سفر خدا اسال چه اوقاف آنجا اکثری احتیاط بوده لاجرم بریدان ضرر میگرد و راز مقصد و باز میداشت
و از سفریم چه آنجا حصن بسیار است تا ناگاه گرفتار حسن نشوند و از راه بازمانند و آنکه بعضی اذن بعشق
صور می منگرده اند و خود قوت تصرف باز داشت آن می یافته اند و در مرید استعداد آن می دیدند که کار
او بی این بیش نبی رو و داما از عشق صور می کسے بجا تے نبی رسد و بسیار مضر است آنچه کسے را بجا تے
می رساند راه باطن او است و این ایمیت خواندند.

ایمیت

ذات تو خوبین تست و کیسہ است در تو را مینی محو شد و لیسہ است
کیسہ و خوبین تو هم ذات تست دیں بروانی ها همہ آفات تست
و پھونا بلینا مبرہر سوئے دست با تو در زیر گلیم است هر چه هست
روزے یکی از مخلصیان را پرسیدند که در ملازمت با پچھہ نیت می آئی سورضه کر و پنهیت آنکه
مسلمانی شوم فرمودند مراد ہیں است بعد این فرمودند مسلمانی تسییم والقیاد است مرافق احکام ازلی تا
تجلى ذاتی بوجرا تم نشو و مسلمان شد مشکل است هصرعه
این مشو آن مشو مسلمان شو

روزے بعضی از علماء که پسرفت ملازمت آن آستانہ شرق اند در شرح ربانیات که
از مسودات قلم حقائق رقم حضرت ایشان است پرین سخن که صور علمیہ عکس اعتبارات و حیثیات
ذات است و نمود خارجیات کائنات عکس العکس اینی عکس آنصور علمیہ است که بر آئینہ ذات افتد

شبہ داشتند کہ اگر عکس صور علمیہ بپڑا ہر وجوہ دافتہ نہایت ذات حق محلیت وجود مطلق تعالیٰ شانہ لازم می آید۔ ہمدریں وقت حضرت ایشان بروقت آنہار سید نہ پر سید نہ کہ چہ مذکورہ میرفت چوں شبہ خود را مقرر ساختند حضرت ایشان درجواب آن فرمودند کہ بی نہایت حق سبحانہ تعالیٰ نہ باں معنی است کہ در احتمام است باعتبار طول و عرض باں معنی است کہ بی تعین و تمیز است و بگر محل آنصور ذات نیست کہ محلیت لازم آید بلکہ محل آں وہم است چنانچہ صورت متنفسش در آئینہ نہ در دل اونہ بروں اوست اما وہم حکم میکنند کہ بروے آئینہ است و محل او خیال است کہ آزاد مثال متصل گویند و آئینہ ہمچنان بر صرافت بیرونگی خود ہمدریں محل فرمودند کہ توحید حاصل می باید کرد تو توحید محققین از علماء متکلمین لاموت شریف الوجود اللہ است یعنی تماهم قدرت خود را بحق سبحانہ دادن و خود را ازان خالی ساختن۔ الچہ بعضاً ان متأخرین علماء قدرت اوثرہ را بہ پنده ہم فی الجملہ اثبات می کنند و توحید ایشان لامعبود در اللہ است اما زہب اصح ہمالست کہ لامعترض فی الوجود اللہ و صوفیہ چنانچہ فعل وقدرت رامنسوب بحق می کنند۔ باقی صفات بعدہ را مثل علم و سمع و بصیر و حیات و کلام نیز منسوب بحق میکنند و می گویند لاموجود در اللہ بالجملہ توحید حاصل می باید کرد اگر آن عکس یا عکس العکس معلوم نشو و در قیامت موآخذہ خواہند کرد و ہر چند اذیں توحید خاص خواہند پر سید و آنچہ تخلیف باں کردہ اند معنی لامعبد در اللہ است اما چون اخلاص تام بی این توحید کہ مقرر صوفیہ است پیدائی شو و آل اللہ الدین اخلاص پیغورت این توحید حاصل می باید کرد تا اخلاص پیدا شو و صل روزے مقامات شیخ حسین نوارزمی قدس سرہ مطاعمہ میکردن تعریف شیخ مخلیل اللہ کی بی از خلفاء کے شیخ بود بیمار کردن و فرمودن حب جاہ از دبر طرف شدہ بود بایں تقریب فرمودند کہ جاہ دو جاہ است یکی جاہ عومنہ الناس کہ از تقایا یا نے نفس است آں خود بطور این طائفہ شرک است و جاہ عومنہ اللہ کہ از تقایا یا نے روح است و آنکہ لفظہ اند کہ اخْرُ ما يَخْرُجُ مِنْ رُؤُسِ الصِّنْيُقِينَ حُبُّ الْجَاهِ مراد قسم ثانی است از وایں جاہ بطریق شدہ بود چنانچہ چند تن از مریدان کہ ہم در طریقہ ایشان استعداد دیجئی پیدا کرده بودند نزدیک مزار اود می بودند و خلوت می برآوردن و ہرگز جاہی نزفند و شیخی نکردن و این از آثار آن نظر است و ایضاً ہم وہیں مقامات نذکور است کہ یکی از عویان شیخ را قدس سرہ حال پیش آمدہ بود و شیخ خورصہ داشت کہ میں خود را در صحری نے تو را فی بحق سبحانہ حاضر می بایم و در وقت کے

پایان نشسته ام این غایبم و در آن صحر احاضر شیخ اور اشارت داده فرمودند که خلوت در آجمن که در سلسله عالیه نقشبندی میگویند این است حضرت ایشان فرمودند که خلوت در آجمن که درین سلسله مشهور است چیزی دیگر است و این چیزی است که بعثتیان این طریقہ را در دوسره روز روئے می نماید. لحنی سخن از استقامت شیخ نور الدین رفت و این شیخ نور الدین از مشاهیر علمای پنجاب است و بسیار از مردم آن صوب باور برداشت. فرمودند که او بعده بعیت سالگی رسیده بود و بغایت ضمیح شده اما نوائل بسیار می گذار و شبهه احیاء میکرد و در عمل کوشش بلبغ داشت. گویند شنی سال پیلوی خود بروزین ننماده بود. از حاضران شخصی عرضه اشت که هرگز از ایشان تھائق و معارف شنیده نمی شد. فرمودند، آدمی پشرائع مأمور است نه تھائق و معارف و آن سرور اصلی اللہ علیہ وسلم، پیچ کس تکلیف معارف صوفیه نمی کر و ند همیشه تلقین شریعت می کردند و چه عظیم سعادتی که کسی بر متابعت مصطفی اصلی اللہ علیہ وسلم و صحابه کرام رضی اللہ عنهم بود و در عمل کوشیده باشد و نیز فرمودند که معرفت را اقسام و درات بسیار است. اگر از تھائق و معارف نصیبی دافر و اشته باشد بهتر و خوبتر. اصل کار بر شریعت بود ای است می فرمودند که توحید مسلم آنست که تھا لص را بقین خود که انا بر سر اومی افتاد اضافت کنی و از استعداد او شماری و کمالات را بحضرت اطلاق راجح داری ہر چند که معتقد لا ہو جو دا لا اللہ باشی. شخصی از حاضران سوال کرد که آنکه شیخ ابوعلی فارمدی قدس سره فرموده است که میتوان که ساکن متنحنی شود و مجمع اسماء و صفاتی المی و ہموز واصل نبات تدریجی سخن مشهور تراقص دار و که تخلق با خلاقی المی بعد از وصول حاصل میشود. فرمودند که در کلام ایشان لفظ تو انداز واقع شده پس میتواند که بعضها را در زمان سیر الی اللہ پیش از وصول نیز دست و دادا ما اکثر آنست که بعد از وصول مقام سیری العذر حاصل شود. لیکن اگر کسی اصلاح ساز و تخلق قبل از وصول را تخلق کویید و بعد از وصول را تحقق مناسب است.

چهار سلیمانی سیر و حکم ذی القعدہ مذکور

سعادت زمین بوس لدئے واد سخن در تعدد پیر افاد بر لفظ مبارک راندند که پیر سه است پیر خرقہ و پیر تعلیم ذکر و پیر صحبت پوشیده نماند که پیر خرقہ آنست که خرقہ ارادت از و پوشیده باشند و

از کسی که خود را پیر کرده باشند و اجازت یافته باشند در اصطلاح این طائفه اور پیر خود را گویند و پیر تعلیم ذکر ظاهر است و پیر صحبت آنکه با صحبت و اشتہ و از صحبت او منافع و ترقیات حاصل کرده باشد بحدیث فرمودند که در سلسله حیثیتی و سه رو دنیه در هندوستان مدار بخود است پیر مطلق باصطلاح اهل این سلاسل پیر خود را گویند و امتداد پیر را بقول نذالند پیر تعلیم و صحبت را مرشد گویند موافق این سخن بزرگی را نام برد و فرمودند که در رسائل خود نوشته که تعدد پیر خود مکروه است و همچنین پیر تعلیم اما پیر صحبت می تواند که متعدد باشد به شرط اجازت پیر اول یا فوت صحبت او بعد این سخن فرمودند که آن را پیر خود معتقد نمی باشد اما پیر تعلیم تجو پیر صحبت متعدد می باشد و معمول سالگان است و فرمودند که در سلاسل خود را معنی از حضرت رسالت پناه صلی اللہ علیہ وسلم استادی گفته و ذکر معنی بیان نه کرده اند اما در سلسله نقشبندیه و کبیر وی ذکر معنی از حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رسید است از حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جمهه الی یومنا زاده اور وسائل قبور از حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہما رسیده چون است فرمودند ذکر کے صدیق اکبر و طریقہ ذکر از حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہما رسیده چون است و درین سلسله است که آنرا اوقوت عددی خواند بطریقہ همراه و مثل عبس نفس و صنم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی آله وسلم باوے از حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ممعن رسیده است و طریق صحبت نیز از ایشان رسیده چو اکہ ایشان در سفر و حضرت زبان هر سو رسالی اللہ علیہ وسلم همراه می بودند و آن راه صحبت می گرفتند اصل درین کار صحبت است و رابطه قلی او بر تقدیر نقدان صحبت صوری رابطه که صحبت معنی است اکتفا نموده اند هم درین محل فرمودند که اگر کسی از پیر صحبت برداشته بکمال رسیده باشد اور اب پیر تعلیم که تلقین ذکر از و بکیر و حاجت شود مشلاً شخصی که منزل رسید بعده ایشان او را با سپ خردیں حاجت نباشد بعد این سخن تقریبی این نقل بنظر مبارک حضرت ایشان و رآمد که حضرت مخدومی مولانا عبد الرحمن الجامی قدس سره السامی در تقدان مخصوص آورده اند که گاه باشد که در حال حضور بیه آنکه از حسن غائب شوند بعضی از حقائق امور غیر عجیبیه بر این طائفه کشف شود آنرا مکاشفه خوانند و مکاشفه هرگز کاذب نبوده و مکاشفه عبارت است از تفرد و روح بسطالعه مغایبات در حال تجدی از خواشی بدی فرمودند که این مغمون را حضرت مخدومی از ترجمه عوارف نقل کرده و تحقیق

آنست که در بعضی مکاتبات که خیال را در آن مدخل هست نیز خطای شود اما علوم لقینی که بر مدرکه بهم می شوند خطا را در آنجا مدخل نیست - بحدیث محل شخصی از حاضران عرضه کرد که در بعضی علوم لقینی که بطریق الہام معلوم مدرکه میشود نیز خطا نیز یافته نمیشود فرمودند سبیش آنست که بعضی از مقدمات مسلم خود را که صاحب این دیدنیت لقینی مقرر است با آن علوم ضم کرده است خطا ازان راه آمده و اگر خطا را در جاییکه صرف علوم علمی باشد گنجائش نیست و امداد اعلیا نیز معمولیین که استعمال علم معقول می کنند مراعات قوانین منطقیه می نمایند هم خطا در فکر ایشان راه می یابد سرشنی همانست که مقدمات مقرر خود را لقینی خیال کرده در آنجا وصل داده اند و اما منطق علمی است که رعایت او ذهن را از خطا در فکر زنگاه بپدارد - اگر صرف استعمال منطق می بود و ضم مقدمات دیگر از پیش خود نمی کردند هرگز خطای خود را نمی خوردند - بعد از اتمام این سخن فرمودند که متوجهان الى اللہ را کشف نیز پسچور کار نیست کشف و نوع است کشف دینی و آن خود اصول بکار نمی آید و کشف اخروی و آن در کتاب و سنت مبین شده است و برای عمل کافی است و کشفی بآن بر این نیست -

ایضاً می فرمودند که مشائخ را بر تربیت و ارشاد خلق کی ازین سلسله چیزی باعث می شود - الہام حق سبحانه یا حکم پیری ایشافت بخلوق - پوچلوق را بر ضد انت می بینید و فتح ضرر از ایشان می کند - آن ضرر مثل عذاب دوزخ و اهواں قیامت پس بمقتضای شفقت آن است که تزیری شرعاً است لازم گرفته اینها را بعظی و نصیحت بخطی آداب و اقامات شرائع امر کنند مثل تعلیم و تعلم فقه و حدیث و عمل کردن بمحبوب آن نه آنکه اینها را واقع می کند - و اصل ساختن شرط شفقت نیست یعنی امر سے زائد کے است و شفقت همان قدر کافی است یعنی سخن و رضیلت و شرف مشائخ پر یا دیگر افراد فرمودند شرفناصفانی است نظر تا که یکی را در معرفت پیشتر از آن دیگر است باید خوارق این بتوحارق آن فویت دارد - آن در ذاته چشم برا بر آند و این که مرموم بکی پیشتر معتقد شدند فضیل است اعتراف امر فضیل است که نزوح سبحانه در قرب و معرفت و اشتغال باشد یعنی فرمودند که حاصل این طریق تربیت انجذاب ایمانی است که وعوت تمامی انبیاء و مرسلین بدان واقع است می فرمودند که نهایت قرب بند و اتصال اسباب بذات حق زیاده بدان نیست که واقع اگاهی و آرام که یعنی کشید حاصل شود بچون این اسباب حاصل شد ساکن بجهول

این شبست هشترف بمرتبه ولایت شد و کمالاتی که در حصول مقامات و تجلیات اسما و صفات که سالگان طریق دیگر را به تفصیل حاصل می شود دیگر است اما بحصول شبست قرب و اتصال که بذات حق بسیار حاصل شد بمرتبه ولایت اخضاع خواص رسید - **الیضاً** می فرمودند که اقل در آمد طالبان این طریقیه در سرحد فناست و معنی اندراج نهایت در بذات که گیراست این سلسله عالیه اشارت بدان کرد و اند این است - **الیضاً** می فرمودند که ابتداء هست حال بخاطر میر رسید که به تفصیل سلوک کرد و شود - چنانچه اهل سلسله کبر وی می کنند - حضرت خواجه محمد پارسا قدس سره در غواب آمدند و فرمودند که حاصل سلوک تفصیل آنست که تمذیب اخلاق حاصل شود - چون این معنی حاصل شد سلوک تفصیل کرد و تحصیل حاصل است - **الیضاً** می فرمودند که ارباب رضا را بلاستیت در بلانی ماند و کراحت در نظر ایشان نیست ازان جهت که فعل حق بسیار است - **الیضاً** می فرمودند که داد و دینوری رحمه اللہ علیہ گفتہ که معدہ محل طعام است - اگر حلال در دے افقی قوت طاعت یا ای و اگر بشدت بود راه حق پوشیده کند و اگر حرام باشد معصیت زاید - **الیضاً** که شیخ ابوسعید ابن ابی الخیر قدس سره برآید میرفت - شخصی قفای بر و بزد شیخ بر قفا نگریست - آن شخص گفتة چه می بینی صوفی از حق بدان شیخ گفت میدانم که از حق است بسیار لیکن می بینم تامظیر این شقاوت که شده است -

شیخیه بیرونی سوم ذی القعده نهم تسع وalf

دولت زیلن بوس بدست آمد سخن در احتیاط لقمه افتاد - فرمودند که تنها بر قلیقت لقمه اکتفا نباید کرد - باید که هنر می و آب و ظرف هم از وجد حلال باشد و پر شنده طعام آگاه بحق بسیاره در وقت خوردان از سرخنور و آگاهی بکار بوند که از لقمه بی احتیاط و دو دسره می خیزد که مجاری فیض می بندد و ار وا راح طیبه که پر تو فیض اند مقابل قلب می شوند - هم درین محل فرمودند که ضعیف دماغی را باید که طعامی که ملاجم طبع و مقوی دماغی باشد بخوردند مثلاً اگر ضعیف و ماغی نان بوجذ اکنند - البتیه بیوستی بدماغ او راه باید در این فیض بربند و موافق این سخن فرمودند که یک فیض خاصی هست که بدماغ میرد

در وقایکه یوپستے بد مانع رفت آں فیض نمی دسد۔ لاجرم احتیاط باید کرد که طعامے کم ملائم طبع
نباشد نخود و روزه ہائے زائد پر نخود لازم نگیر که موجب صحف و مانع شود خصوصاً اہل کشف را
احتیاط بیسخ در تقویت دماغ باید کرد که اکثر سے یوپست دماغ موجب غلط و کشف یشود۔ بعد این
 محل شخصے در خدمت حضرت ایشان نقل کرد که فلاں نے میگفتہ است و نام یکے از اکابر وقت را
 گرفت که حضرت ایشان طالبان خود را از اعتقادے که پیران سابق دارند برمی فرمائید و افاده
 را موقوف بآن می دارند فرمودند که ایں جنین نیست یعنی چوں در بعضے از طالبان تذبذب میں
 اشارتے بیک رویہ شدن آنہا می کنم و ازین باب در کتب قوم بسیار یافته می شود۔ چنانچہ یعنی
 گفتہ است کہ ہر کہ کیجا ہمہ جاوہر کہ تمہہ جا ہیج جاوہ دیگرے گفتہ یک در گیر محکم گیر دیگرے گفتہ
 تو یحید مطلب شرط راه است و حرم بین قیاس پس چوں حقیقت کا رچنیں باشد و آنچہ حق است
 باہنا نگویم آوارہ شان گزارم آنہا کہ پیش من می آیند بلتے استفادہ می آیند نہ براتے امرے
 دیگر۔ بعد ایں سخن فرمودند که اعتقادے که ما ہاں ایں سلاسل داریم ہمانا کہ اشارت سلسلہ حشیثیہ و
 قادریہ و سهروردیہ کروند دیگران کجا دارند خصوصاً عامتہ اہل ہند که اعتقاد ایں ہانز دیک بشرک
 چیزے است۔ ما اہل ایں سلاسل رافقی فی اللہ می دانیم و ایں مردم موثر مستقبل اعتقاد می کنند۔ لختے
 سخن در بیان این حدیث قدسی افتاد کہ آنَا عَمِّدَ ظِنْ عَبْدِيْ مُبَدِّلِیْ بِیْ فرمودند کہ بخارتے تعالیٰ اشکوں
 باید بود و پھر نخود بگمان و خالق مشايخ را اختلاف است درین کہ غالب حال بندہ مومن رجحا
 باید یا خوف بعضے گفتہ اندور پیری رجحا و رجوانی خوف و تحقیق آنست کہ ہمیشہ رجحا باید کہ غالب باشد
 تمہرہ حدیث ان ذَكَرَ فِي الدَّفْنِ ذَكَرَتْهُ فِي الدُّنْفِ وَ ذَكَرَ فِي الْفَسْدِ وَ اَنْ ذَكَرَ فِي مُلَاقِ
 ذَكَرَتْهُ فِي مَلَاقِهِ خَيْرِهِ مُنْتَهِهِ يعني فی طار الملائکہ فرمودند کہ نخربت طار و رصورتے کہ ذکر بندہ
 مرحق را سبحانہ در ملام آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم باشد نہ باعتبار آنست کہ رسول ملک افضل باشد۔ از
 ذوکر؛ صلی اللہ علیہ وسلم باشد۔ الگچہ در کتاب لفظ (باشد) است۔ چنانچہ اینجا توثیق است یعنی مقتضماً کے کلام والالت می کند
 کہ لفظ (نہ باشد) باید کہ بود زیاد کہ آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین سید الانبیاء والمرسلین افضل الملائکہ اجمعین انہی سچ
 طار از ایشان افضل نبی تو اند شد بجهیں دمیکا نیل کر کر کہ طار کب طالی قدر اند ازوڑ دئے حضرت ایشان اند۔
 فاهم و تأمل ابوالحسن زین قادری

رسول پیشوای حال آنکه مذهب اهل تحقیق آنست که رسول پیشوای افضل است از رسول ملک بل با عقباً آنست که وجود و حالت آن مسروکه در ملام اعلی است ذکر حق سبحانه بندۀ رادران ملام باشد یا خیریت ملام باعتبار آن باشند که جماعتی از فرشتگان اند که آن ها ممکن نیستند و آنها افضل اند از رسول پیشوای حق سبحانه بندۀ رادران ملام باشند.

دو شنبه پیش از ۱۷ ذی القعده تسع وalf

سعادت زین بوس حاصل شد سخن در ترقی بعد الموت افتاد فرمودند که شیخ ابن عربی رضی اللہ عنہ گفتہ است که اگر کسے بنتی صحیح و اعتقاد درست در راه حق سبحانه در آید و آواب شریعت کما حقه بجا آردو اور از اذواق و مواجهی این طائفه درین حیات نصیبی نباشد البته بعد از موت احوال و اذواق این طائفه اش بدینه حضرت ایشان سلمہ اللہ تعالی و البقاء پاره تأمل کردند فرمودند بلکه این پنی کس را هم درین عالم وقت اختصار پاین دولتش مشرف سازند بعد ازین سخن فرمودند که لعنتا درست ورعایت احکام شریعت و اخلاص و دوام توجہ بجناب حق سبحانه بزرگترین دولتی است پیش ذوقی و وجہ ائمه برای این برا بر نیست این باید که واعشه باشی دیگری هیچ چیزی کو مباش.

شنبه شیخ ذی القعده مذکوله

بمجلس عالی بار یافت از حاضران شخصی سوال کرد که نسبت حضرات خواجگان قدس اللہ امرارهم خود قدیم است پیغمبر که حضرت خواجه نقشبند قدس اللہ سره الحاق کرد و باشد کدام امرارهم خود قدیم است پیغمبر که حضرت خواجه نقشبند قدس اللہ سره الحاق کرد و باشد کدام است که این سلسله به نقشبندی مشهور شد فرمودند بعضی تعلیمات و یکفیات الحاق کرد و اند چنانچه حضرت خواجه احوار قدس اللہ سره العزیز نوشتند که خاتم این نسبت بر وجه کمال ایشان بودند خاتم آنست که بعی اتمام ختم میکند و خود هم فرمودند که من اختیار طریقی کرم که البته موصل باشد و آن طریقی محبت و انجذاب است بطريق مخصوص که درین طریقی معمول است بعد ازین سخن فرمودند

که ظرفیه انجذاب و محبت البته موصول است داور را روئے جزوی سوئے ذات نیست بخلاف طرق دیگر که روئے بجانب او را نیز دارند. لاجرم بعضی بهمان احوال بازمی مانند دایل انجذاب و محبت در یکی این سلسله عالیه تربیت همان انجذاب می کنند. می فرمودند که رویت بالبصر موعود است. در حشر ازینجا فمیده می شود که رویت بالقلب درین لشائة باشد و تحقیق آنست که رویت بالقلب نیز چنانچه رویت بالبصر موعود است چه رویت انکشاف تمام است و تارویح متعلق این بدن است انکشاف تمام صورت نمی بندد. هر چند یعنی تعلق گردد لااقل علاقه حیات باقی خواهد ماند اگر چند بصرافت اصلی نمایند تعلق نمایند خود باقی است. لختنی سخن در وحدت وجود و اختلاف شیخ علاء الدوام سمنانی با شیخ مجی الدین عربی رضی المذهب افراط بر لفظ مبارک را نمایند که نزاع این و وزیر اکه در اطلاق حق دارند. فضلاً که به رد دایشان معتقد بودند لفظی داشته اند و پسین تحریر کردند که شیخ مجی الدین وجود حق را بسانه مطلق گفته است و شیخ علاء الدوام ازین اطلاق مطلق بشرط لایش فمیده طعن و تحلیله کرده است. آماراً شیخ این نیست بل مراد شیخ این اطلاق مطلق لا بشرط لایش است و معتقد شیخ علاء الدوام هم همین است پس نزاع در لفظ ایست نه در معنی هم درین محل فرمودند رفع نزاع نمی شود تا آنکه شیخ علاء الدوام قائل نشود که موجودات خارجی جزو علم وجودی ندارند و صور علمی بعثت ایشان را شیوه نات ذات است. روزی میان شیخ احمد سریندی را که از اجله اصحاب حضرت ایشاند، بسریند ذخصت میکردند ایشان را مخاطب ساخته در اخفا می نسبت فرمودند که بعد از نماز بامداد تا اشراق پر مصلایه شنید. اما حلقة نکنید و بعد از ای از علوم دینی دو درس بگویند لیکن وقت طالب علمی در میان بناشد و اکثر اوقات تصحیح کتب و مطالعه در پیش داشته باشد و اگر سخن گویند بطور علمها گویند نه بطور صوفیه و اگر احیاناً بطور صوفیه گفته شود با غلط قیه بگویند که بجز مخاطب ویگر سے نه فهد و از انجا پیغام فرانگیز که موجب ذلت اور گرد و مجلس سکوت را منحصر در میان تجدد و بامداد واردید هم درین محل فرمودند که راه افاده واستفاده بخوبیت و مناسبت امر نخوارق و تصرفات مستقید بقدر مناسبت که بمقید دارد معتقد کمال او می شود و استفاده میکند و بقدار بخوبیت خوارق و تصرفات او مشابه میکند.

مقدار بخوبیت بدای جی گردد مثلاً اگر بر کسی اعتماد عرفان دارد یا کسی را محبت حق بسیار میداند. البته لشائة عرفانی در باطن او پرتوی از نسبت جی در استعدادش بست. اگر ظاهر بناشد پوشیده خواهد بود

هم بین قیاس از اوصاف ذمیمه چنانچه بُت پرست مثلاً بقدار مناسبت که دل او را با سُنگ میگست
کمالات آن سُنگ رامی دریابد و جذب منافع از راه چنیت ازان سُنگ میگند و تا جیست
مناسبت بینهایانه باشد. راه افاده واستغاده مسدود است. چنانچه آن سروصلی اللہ علیہ وسلم چندان
تضفیات در کار ابو طالب کردند و مبحرات نمودند. با وجود آنکه از ایندار طفویلت خوارق و مبحرات
آن سروصلی اللہ علیہ وسلم را دیده بود. اما چوں مناسبت مفقود بود فاکده نداشت. چنانچه کلام مجید
بدان ناطق است اَنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَجْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي هَنَّ يَسَّأَءُ
ومولوی روحی فرماید

مُوجِّب ایمان نباشد مُبحرات بُوئے چنیت کند جذب صفات
مبحرات از بحر قدر دشمن است بُوئے چنیت پنه دل بُون است

جمعہ سیر و سُمْ ذی الحجه نه نذر کو

سعادت حضور بدست آمد چوں ایں فقیر را وید نسبتیم کنار فرمودند که برآتے سخن
شینیدن آمده هم درین محل از حاضران شخصی را مخاطب ساخته فرمودند که ابو عبد اللہ مروزی
هر جا سخن مشارخ می شنید. به یکی می گفت که این را برآتے من بنویس. چنانچه از سخنان ایں
طائفه مجلدی جمع کرده بود و با خود میداشت. روزے بدلب آلبے طهارت می کرد. ناگاه آن
مجلد و رآب افتاد. دے گوید که من ازین معنے سخت متالم شدم و درین تالم و تاسع می بودم که
شبے سهل عبد اللہ تتری را بخواب ویدم که بین گفت که عمل بمقتضای سختی خان ایشان باید کرد.
نوشتن بیچ نیست زمانی بین گذشت که حضرت رسالت پناه صلی اللہ علیہ وسلم هم در آن خوب
ظاهر شدند و مبنی خطاب کرده فرمودند که بای صدیق یعنی سهل تتری بگوئے که سخنان ایشان
نوشتن اثر محبت ایشان است و محبت ایشان عین مقصود. لختن سخن در سه اع نغمہ افتاد شخصی ایں
مصارع خواند که شیخ سعدی شیرازی قدس سرہ گفتہ مصعره
که این خط لفظ ایشان است و آن وقت روح

لیتی دیدن حسن حظ افس و سماع نعمه قوت روح فرمود که هر و از یک عالم است اگر حظ افس است
یا قوت روح در هر دو مندرج است در فهم قاصر اقلم عقی اللہ چنان میرسد که گرفتار افس را از
هر دو حظ افس حاصل است و رهائی یافته از قید افس را از هر دو قوت روح نزد جماعت که سماع نعمه
راسماع گفته اند

دو شنبه شاهزاده می ایجمه نامه مذکور

مجلس عالی باریافت شنخه بیکه دعوای داشت ظاهر از نگ بحضور قاضی نی رفت
فرمودند که قاضی نائب شرع است هرگاه مناقبته در میان آید و این کس تابع شرع است او را
ناگزیر پیش قاضی باید رفت مناسب این محسنه حکایت کردند که در عهد حضرت امیر المؤمنین عمر
رضی اللہ عنہ شخصی بحضور حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جمہ و عویشه داشت طرقیں بحضور حضرت عمر
رضی اللہ عنہ آمدند حضرت عمر بحضور علی رضی اللہ عنہا گفتند یا ابا الحسن بخصم برایشین تا قضیه
شما یا لشونم بحضور امیر المؤمنین علی را کرم اللہ و جمہ این سخن گران آمد گفتند که تو بحقیقتم دخوازی
من دعوی خود را پیش تو تقریر نمی کنم باستی گفت یا علی بخصم برایشین تا شانی بین لاحق نمی شد
برابری حقیقی گشت هم درین محل فرمودند که بحضور حضرت مخدوم مولانا خواجه گلی قدس سرہ در امکنه
دو کس در میان هم دعوی داشتند و ایشان برآمد واقع بودند چون بقاضی بجوع کردند قاضی
از ایشان شهادت طلبید ایشان بطریف که حق بود شهادت نوشتن طرف ویگر گفتند که تا ایشان
سوگند خوزند ما این شهادت را قبول نمی کنیم ایشان فرمودند سوگند براستی خوردن مشروع است
و در امر مشروع چرا توقف روان خواهیم داشت

دو شنبه هر ماه می شهر دی ایجمه نامه نظر الوفه

مجلس عالی باریافت این فقیر را مخاطب ساخته فرمودند هرگاه شمارا می بینم بخاطر میرسد

که برای سخن شنیدن آمده اید تا بسیار می کنید. چیزی که نیست سعی بکنید که کار پیش رو داشتما این نواع سخنان صادر شود. ما خود بصحبت کسی نبودیم. این سخنان از که شنیدم هم هم درین محل سخن از طریق سلف رضی اللہ عنہم رفت. بر لفظ مبارک راندند که طریق سلف آن بود که اول پژوهش کیه نفس و تحصیل مقامات مشغول می شدند. چون موانع قرب الهی که خواطر و هوا جس است پژوهش کیه بطرف می شد. بقدر پژوهش نور ایمانی قوت می یافت تا بجا ته می رسیدند که جو حق سجاه است پیش باصرت ایشان می ماند و جمیع افعال و اوصاف را از وحی دیدند و صور و اجسام در زنگ سر بری می خود. مطلع هر را مخلوق و مخدوم می یافتد و توحید صوری بعضها را بعد از فرد آمدان حاصل می شد و بعضها را نه. فرمودند که طریق نقشبندیه قدس اللہ اسرار ہم سماں طریق سلف است لیکن ابتدا به تحصیل مقامات مقید می شوند و آنها را که از راه توحید صوری می روند خطر بسیار است هم درین محل فرمودند. می تواند که شخصی بحضرت حق سجاه اقرب باشد یعنی استهلاک و ضمحلان داشته باشد و اکرم نباشد. چنانچه شخصی باشد که تحصیل مقامات کرده است و نتیجه مقامات را که استهلاک و ضمحلان است درین عالم نیافرته این اکرم است فرمود حق سجاه و کمیه ای اکرم که می باشد و عیش اللہ اکرام کم ناطق باین است لجئ سخن در ولایت بالکسر الواو و فتحها رفت. فرمودند که ولایت بالفتح قرب بند را گویند که بحق سجاه دارد و بالکسر آن معنی را که موجب قبول خلق می شود و اهل عالم بدان میگردند. این بگوییات تعلق دارد و خوارق و تصرفات داخل قسم ثانی است. شخصی از حاضران سوال کرد که بوكاتی که بسته از بیان فرمودند که هرگاه آنکه این فتح را فرمودند که از ولایت بالفتح است. بعد ازین سخن سراستفاده بیان فرمودند که هرگاه آنکه طالب مجازی آئینه هرشد می شود. هر چیز در آن آئینه است بقدر مناسبت پر تو می اندازد هم درین محل فرمودند که می تواند بود که شخصی را از هر دو خطه و افرادی بپسند باشد و شخصی را کی هم درین محل فرمودند که ای ایشان بیشتر باشد و آن دیگر مکرر و مشارح نقشبندیه رضوان اللہ حاصل باشد و آن دیگر نباشد. یا یکی بیشتر باشد و آن دیگر مکرر و مشارح نقشبندیه رضوان اللہ علیهم السلام ولایت ایشان بر ولایت بالکسر همیشه غالب بوده است. هم درین محل فرمودند که اگر معتقد ای این عالم اتفاق می کند ولایت بکسر و اورا به یکی از محلهای خود می گزارد ولایت بالفتح را بخود می بود و گاهی بیکم زلتی ولایت بالکسر را از ولی باز عنی ستانند. چنانچه

فیض ابی الفارض می نویسید که پیر تعالیٰ لے بود پسون وقت فلتش رسید میں وصیت کرد کہ بعد از مردن من جنازه مرا برفلان کوہ نهاده منتظر باشی کہ شخصے خواهد آمد و بر من نماز گزارد با واقعه اکن ہمچنان کردم۔ شخصے از بالا بئے آن کوہ در زنگ مرغے بسر عنت فرود آمد که اور امردم در بازار ہائیے میزند و اپیش دوکان ہائے خود می راندند۔ او بر جنازه اش شروع در نماز کرد حالانکہ مرغان سبز و سفید از زین تا آسمان پولستہ بودند و تسبیح می گفتند۔ چون از نماز فارغ شدیم مرغے سبزیم الخلق پیامد و جنازه آن تعالیٰ را فروبردو بہو اند رشد و اند نظر پوشیده گشت۔ من از مشاهده ایں حال سخت متوجه شدم۔ آن مرد گفت چہ جائے تجھب است نشینید که ار واخ شهداء در جوف طیر خضرمی باشد و بجانب آن تعالیٰ اشارت کرد که او از ایں طائفہ است و من ہم ایں طائفہ بودم اما بوجب ذلتی کہ از من بوقوع آمد مر ازاں مقام برآورده اند و قبول خلق را اذ من باز گرفته می فرمودند کہ معاملہ برذخ و حشر خوش معاملہ دور و درانے است پارہ تاکل کرده فرمودند معادتے برایہ بہ ایں غیت کہ کسی رائنسے بحضرت حق سبحانہ حاصل شود۔ بعد ازاں کہ دوام انس حاصل شد یعنی انتظارے نمی باشد۔ ایضاً می فرمودند سبحان اللہ آدمی مامور با خلاص و محبت است و خاصیتِ محبت سوختن غیر خود است۔ با این تکمیل چندیں تکالیف شرعیہ بر و نهاده اند ہم درین محل سخن در علوشان مرتبہ بندگی و رتبہ اہل القیاد و خاصیت عبودیت والقیاد و ضعف نقوسِ انسانی افتاد و بنوی ادا فرمودند کہ تفاصیل آن بریاد ناقل نماند۔ ایضاً می فرمودند و بجود آدمی هفت طبقه است از روح و قلب و سر و غیرہ اور علی که طبقه اول را حاصل شد ہر کب از طبقہ ثانی و ثالث تا طبقہ هفتم برخود می بند و لہذا العدد بایں مرتب در نظر عامہ مخفی است و علم ہر کب راجد اینی تو انند کرد و بر اہل کمال آن مراتب واضح و میز است و علم ہر مرتبہ راجد احمدی دانند ہم درین محل فرمودند کار باند کر و خواه مراتب تفصیل معلوم شود یا نہ۔ روزے سے حضرت ایشان دو مسجد جماعت گریستند و گریہ در غیر خلوت از آنحضرت کم نظہور می رسید۔ عزیزی سے از مستفیدان حاضر بود تجھب شدہ از قرب نسبت و عنت که واشت برایں گریہ پر پیش فرمودند کہ در نماز روح عرد جے کرو کہ نہایت برسد ایں مصنی میسرش نہ شد بازگشت و در بدنه آمدہ پھر شے زد ظاہر اورین صورت گریہ بجهت دریافت بے نہایتی مطلب یا بترے دیگر باشد کہ در اور اک نویسندہ نمی آید و این بیت اکثر می خواندند

چه تو اکر و که دیوارِ نسم افتاد بلند این بنای است که آن خانه بدانداز نهاد

یک شنبه سیم ماه شوال سنه عشرون

در سک پاریانگاں حضرت عالی درآمد سخن در اهل اللہ رفت فرمودند که اهل اللہ علیه فرقه آندر
عباد و صوفیه و ملامتیه - اما عباد جماعتی اند که بصورت عبادت اتفاق کرد و بعد آن فرائض و سنن
بنوائل عبادات و خیرات قیام دارند حتی که پیغمبر از خیرات خواهند که فروغند از اذواق و مواجه
صوفیه بهره مند باشند و هر که از عباد بادا ذوق و مواجه صوفیه بهره مند شد داخل صوفیه گشت و از مرتبه خود
برآمد و صوفیه فرقه باشند که مواجه و اذواق بهره مندند و خوارق و کرامات خود را از نظر خلق نمی پوشند
نظر ایشان در جمیع امور حق است بسجنه و خلق را ظهور حق می دانند و درین فرقه بالجمله رعوتی و عنوانی
مانده است و ملامتیه طائفه اند که در کسوت عوام بیچ تیزی می دارند و اقصیار و ظاهر بر
فرائض و سنن متوکله کرده اند - در رعایت معنی اخلاص می کوشند و خود را با ظهار خواهی علم نمی سازند و ظاهر
نمی کنند ابتلای درین امر بحضرت حق بسجنه کرده اند - چون دالسته اند که این نشان محل ظهور غیست و حضرت
حق بسجنه خود را از نظر عامه پوشیده است - ایشان نیز خود را از نظر خلق می پوشند و اینها اکثر می دارند
آنها را مثل خود خیال می کنند و این جماعت بالکلیه از رعوتی دسته اند و در عوتنی درینها مانده و
پنهانیت مقام عبودیت رسیده اند و شیخ ابن عربی رضی اللہ عنہ سر این جماعت حضرت رسالت
را اصلی اللہ علیه وسلم داشته و از اصحاب حضرت صدیق اکبر و سلمان فارسی را و از مشائخ بازیده
بسطامی و ابوسعید خراز و ابوالمسعود و خودش را اماز دیگران ساکت است نفی آنها نکرده و رسول
شیخ دالسته که هر چیز در کشفش در وقت مخصوص آمده می نویسد و فرقه از ملامتیه که خود را بر خلق بعنوان
لامت ظاهر کنند و تکیه بشریت کرده بعضی پیغمبر از نظر ظاهر ممنوع است پیش مردم مرتكب
شوئند مثل آنکه در سفر روزه رمضان را در بازار بخوردند تا در نظر خلق بے اعتبار باشند - آنها در مرتبه و
مرتبه فرود صوفیه اند و خلق از نظر آنها ساقط نشده است - لخنت سخن و رفعه رفت فرمودند که فقها
از اکرده میدارند و بعضی مشارح آنرا مباح داشته اما معتدی را اهل آن نمیدانند و آن هاست که

که بسماع نغمہ قائل اند. حکمت درین آنست که در وقت استماع نغمہ طبیعت ساکن و بر جاتے خود می باشد. لاجرم روح در اور اک معانی بیشتری رسید محظوظ آنها معانی است و نغمہ را مثل زیور آن می دانند و الاب نفس نغمہ مبتلا نیستند و در ملفوظات حضرت پیش نظام الدین اولیاء مسطور است که از تشریط استماع نغمہ یکی آنست که بمستمع محبت حق سبحانة عالم باید بهم درین محل بندۀ درگاه عرضه داشت که محبت حق سبحانة را چه علامت است. فرمودند اتباع تمام آن سرور علیه‌الفضل الصلوات و اکمل التحیات عرضه کردند که قوائد که صاحب اتباع را مطلع بیشتر یاریستن از عذاب دوزخ باشد. فرمودند ایں چنین کس صاحب اتباع تمام نیست و اور از اهل اللہ نمی توان شمرد. اتباع ظاهر ظاهر است و اتباع باطن آنکه در باطنش جزو حق سبحانة مطلبیه نباشد.

جمعه نوزدهم شهر میعوں الاول سنه سعید والث

دولت زیل بوس رُوئے داد سخن در فضائل صحابه رضوان اللہ علیهم افدا و بـ لفظ مبارک راندند که صحابه کرام هر چهار علی المتنیب اقطاب مطلق بودند و علت در آنکه فضائل اذحضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جمہر بیشتر منتشر شد آنست که در زمان خلافت بنو امية خوارج بسیار شدند سلف جمیع بیشتر فضائل اهل بیت شدند. ازین جهت فضائل ایشان بیشتر در کتب ماند. لغت سخن در تصرف و خوارق افدا و فرمودند که خوارق در زمان اصحاب ایں قدر نبود که بعد ازین پیدا شد. چه لازم نہایت کمال آن است که از دست معمتنی تصرف نمی آید مگر بحکم الہی ولہذا از پیغامبران بیخواست آن ہا ظاہری شد و از بعده پا مقتضی و وقت که کفار بائکار بی میخاستند مججزہ به ظہور میرسید بے تصرف و خواہش مم درین محل سخن در انکار مشائخ رفت. فرمودند که اولیا از کبار محنون نیستند. اگر از ایشان پیغیزی ازین باب ظاہر شود احوال ایشان را حکم پبطلان کردن بحال است است. ملاحظہ باید کرد که منزل ایشان که داتم یا اکثر در آنند کرام است. درین میان احیاناً اگر بحکم بشریت پیغیزی سے صادرا شود ایشان را در این معنی و پایید داشت. یعنی درین محل فرمودند که اکثر مشائخ را درین حیا است مردم تندیق گفته اند. چنانچہ ذوالقول مصری بد اماماً ذوالقول را بعد از موت قبول پیدا آمد چه از دنیا منزه بود. اگر

ور دنیا مے بو دینی بادشاہ یا وزیر بادشاہ ہے یعنی کس با وجود آں انکار کر دین حیاتش می کر دند
قبول نہی کر دو بلکہ از موت ہم از طعن مردم خلاص نہی شد و ایں ہمہ اختلاف کہ در اصحاب ماندہ علیقش
ہمان است کہ بہت منصب خلافت در دنیا بو دند والا چند سے از اصحاب کہ کوہ ہاگر قتلہ بو دند و
بو ضع فقیر زندگانی کر دہ اند یعنی کس از آنها سخن نہی گوید و سخن از اصحاب گفتہ داخل دین و ایمان
ہم فیض بسیار سے از مومنان باشند کہ جزو خدا و رسول رامنی داند و در ایمان آں یعنی شبہ نہ۔

جمعہ دو جمادی الاول نہ مذکور

ب مجلس عالی بار یافت محترم طور بحکم بعضی ضرورات شرعیہ استرخاص مفرکر د۔ پرسیدند کجہ
میروی نظر بہ بازماندگی و پستہتی خود کہ از دولت قرب دوری میگزیند میں و از مجالس اُنس جدا تے
می خستم بلب ادب و زبان حضرت عرضہ کر دہ شد کہ در بلا۔ الوارع شفقت و همراهی فرمودند کلمہ
چند بیکے از اہل دنیا کہ در اقران خود بخوب کرداری موصوف بُود در سفارش ایں ہر زہ گردواری
ندامت نوشند۔ مدستہ در بعد مکانی و ہماجرت صوری آن دولت صوری و مصنوی با قسم محنت و
ندامت بسر بردم۔ درین مدت عرائض عبودیت آمیز و احوال دل بلاستیر خود مرقوم قلم نیازمندی
رقمی ساختم و بنظر حاضران مجلس گرامی می مداد و بطالعہ بار یافتگان حضرت عالی شرف می یافت
روزے عنایت نامہ بندگان حضرت مخدومی حاجی شیخ عبدالحق کہ بامضایں حقائق آمیز و کلامات
لصاخ انگلیز نسخہ سعادت را عنوان نہی بود رسید۔ بر ظهر آن مکتوب کلمہ چند از آثار کلک بدائع نگار حضرت
ایشان بنظر تعطش اثر و آمد و حالتے بخشی کہ از حوصلہ کاغذ و قلم بپریون است۔ مجملے از ذوق آن درین
صارع یافته میشو د مصارع نهادم۔

لُوئے بُرُوئے دے دا ز خوشنیت رفتم

و آں کلامات حقائق آیات این است۔

أَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يَخْرُجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہر چہ تو شتنی بود
و صحیفہ بندگان مخدومی مندرج است۔ زیادہ چہ نویسم بارے فرصت و قوت بلکہ وقت و نفس رائیمت

شروع مقتضیاً تَسَوَّلَ آن زندگانی می باید کرد. درین که این عاجزگر فتار را قوت کار نماینده و گر نه بتوافق اللہ درین دوروزه عمر ویوانه وار ماتم بازماندگی خود میداشت و زندگانی فداست این راه می کرد. حق تعالیٰ دین اُفتادگی نیز در دست و آشوب لبے کرامت فرماید که کارِ دو جهان خود را در بقیه اقتدار او نهاده از مجموع گرفتاری هافرا غیر بیاهم آین یارب العالمین. امید از ای بارا آنست که رونے برخاک پنهان و از برکت حصول این آرزو نے فقیر از خدا بخواهد که ذمَّةَ الْعَادِيْبِ لِلْعَائِبِ آشَرَعُ اِجَابَةً امده است و الدعا بر دید و راں حقائق داہل مذاق این طائفه روشن و پیداست که چه قدر فنا و تعطیش و اخفاوه بے تعلقی و مجرد روی و اسقاط وجود و رضامندی این کلمات مفهوم میشود و آشنا و آنکه این بیگانه نیست.

تسلیم صرف نہ اثیر عشر والٹ

سعادت حضور مشرق شد بر لفظ مبارک راندند که تا کجا رفتی و چوں بودی و چه آوردی بحوالی ایں کلمات اگرچه پرزبان قال حنیف بود که تا بسر حد ضلالت فتحم و در تفرقه بودم و ندامت آوردم اما از همیست آن مقام بزبان حال ندامت منوال اکتفا رفت و بجز خاموشی جوابے دیگر دلپذیر رونے نداد و مع ذلک در حضور آیینی خطا یا و دانمے ضمائر زبان حال را گویا ترا ای انسان قال دالسته تحصیل حاصل نه کردم از نظر آن جمال و مطالعه شکسته زنگی و اضمحلال و انعکاس اشتعه انوار ذات که بر آئینه پیشانی آن مظهر اسما و صفات می تافت ویده ہو شمندی را خیرگی و ستور شد و گریه شادمانی در بخشش آمد خود را از حضور عالی بگوشه کشیدم و سلاپ ویده هفقار قلت ویده را بر دادم بحدسے که اگر یاران منع و زجر بازنی داشتند بساحل صیر اشنا شدن دو رمی نموده

گر کام دل بگریه میسر شود ز دوست صد سال می توں به تمنا گریست
للہ الحمد والمنیه که آن گریه قدری ارتکب غفلت را که بر آئینه استعداد این گرفتار مصیق تعلقات
که در آیام ہبادوت نشسته بودیک نوع شست و شوی داد و تیرگی صحبت اضداد و عجالہ ہم شیئی
ایں دیو خرد فریب که عنوارت از نفس اماره است چوں قدرے فروشست خاطر نگران مجالست

صوری واستماع سخنیان گرایانه شد. اما ازان جاکه حضرت ایشان با اشارات غیبه و ریافت بودند که در بره روح خلق بسته میداند بود پچه جائے ایں فهیر که اکثر سے از مخلصان خواهان این معنی بودند که بدستور سابق در آن حضرت تنگ بالگنجائیش میدانسته باشد صورت فی بست لاهرم از کلمات حقائق آیات بیو اسطه کم استماع افتد و بعضی ازان اشارات غیبه که باعث وضوح و تحریر و مقتضی کم توجهی با هر ارشاد و عدم پیش احوال مترشدان شد این است که بعقل صحیح و راوایات ثقافت مسطور می گرد. حضرت ایشان واقعه نسبت بخود دیدند که آخر آن ایں عبارت بود **فَيَقِيلُ وَجْهِيَا طَرِيدًا فَتَرِيدِيَا** وهم چنین از وقایع دیگر روش شد که منقبان خود را بهر جائے و بهر وضعي مقرر باید فرموده بود شفقت بتاکید فرمودند که چون فرمان و مرضی و رزک مشیخت است باران مادر متصدی توبیت خود دانند و هر جا خواهند در طلب مقصود پویند مگر سه پهار لغفرانه و بین تکلیفت داخل نبودند. این معنی چون دلهاست امیداران بخایت شکسته شد از انجاکه وسعت کم و هر رانی حضرت ایشان بود فرمودند که امری کنم که البته بود مقصود ازین گفتن ابراست ذمہ خود است چه بعضی ترک تدریس و بعضی توک تحصیل و بعضی ترک روزگار کرده کروه بمحنت و شدائد فقر قرارداده بودند و در ایام ترک تصرف به بکی از مخلصان توجهی فرموده بودند. آخر ظاظا هر شد که مرضی الله تبوده است متفکر شدند که میاد این معنی از راه لطف الهی نباشد. بعد از وسسه روز چون محقق شد که سرما و عنایات دران مندرج بود ازان تفکر برآمدند و در جمیع جزئیات از خود و پوشیدن قول او و فعله همچوں برگ لگی که بر ریگزد را بشد از خلاف مرضی لزان و بر جاده رضا و تشییم همچوکه مستقیم می بودند و این معنی در قرب ایام رحلت قوی تر شده بود و پیش از ارتحال پیشگاه فرمودند که چنان دیده شد که کس کلاست از سلسله عالیه نقشیدنیه قوت خواهد شد. بعد ازین واقعه بخاطر شریف رسید که جائے در نواحی شهرهایی یا مدنده اختیار کرد و ترک اخلاق خلق نمود چون عمر رسد همچنان دفن شد. درین باب بعضی از مخلصان را استخاره ہا فرمودند چون اجازت بر انصرام آن اراده فهم نشد ترک آن اراده فرمودند. و ازین صریح تر واقعه دیدند که مضمونش این بود که برای غرضی که شمارا آورده بودند تمام شد الحال سفر باید کرد و نزدیک ایام ارتحال فرمودند که طرفه خوابی دیده شد. می گویند که قطب زمان مرد درین جهین من قصیده نظر ابعایت خوبی در مرثیه خود می خوانم و تعریضیات عالی دران مندرج است. هم درین محل یا وقت دیگر به بیکه از محram بقریب فرمودند که قطب زمان دیگر است اما بعضی از صفات کامله

نداز و مابصفات نمایم. الحق صفات حضرت ایشان با تفاوت همه آشنایان خصوصاً یارانه که اکثر در ملازمت عالی بودند و در ایام سالان مطالعه آن نسخه مکالات کرد و به نهایت رسیده بود که بالآخر ازان دیل وقت از کسی متصور نباشد و

بود آئینه که عکس خود را شید و بود جا و پید و رو بصورت اصل نمود
عزیزی که در ایام کم توجیهی ہے حضرت ایشان با مرار شاد پرسیده که باعث بر احتیاط ایں وضع تحری و پیشیت. فرمودند مارا مقام می نمایند. چند گاهی انتظار رسیدن به آن مقام است. بعد از آن فوائد بیاران بیشتر خواهد رسید و الحال هم آنکه بمان توجه اند حضور و غیریت مانسبت با ایشان یکسان است بکار نمود باشد غیریت و عدم پوشش مامنافی ترقیات ایشان نیست بلکن آنکه مائیخ و مرشد باشیم و با احتیاط ماشود از میان بخاسته است. باز آن عزیز پرسید که لوازم و آثار آن علیت وقت رسیدن پاک چند فرمودند. وقت آن بعد از آنکه عمر ما به چهل سال برسد و لوازم آنکه بر که بیند سجده کند. چون من شریف حضرت ایشان به چهل رسید رخت اقامت اذیں بر سر است فانی بستند و بدار الحکم باقی خرا مش فرمودند و

دریں حدیقه بمار و خزان هم آغاز شد و زمانه جام بدت و جهازه بروش است برغم بعضی از مخلصان تعبیر ایں واقعه سخن حضرت ایشان است که قریب بایام رسالتی فرمودند که دریں ایام مارا رجیع سلاسل رخصت ہاشد و هر کس از مسلمانان ہر جا باشد بار شادا کریم اللہ یسیج دهن فی السموات والارض طوعاً و كردها از مافائدہ به وے پرسد خواه داند یا نداند واللہ اعلم

بخاری پاپ و هم شهر حجاجی الاحرہ

با وجود بیماری ہے مزمنه دیرینه که نظر بطن ابره صحیح می نمودند. تپے نیز لاحق شد و ایں مرض آخر بود ہم دریں مرض می فرمودند که حضرت خواجه احرار قدس سرہ بخوب آمدند و عنایت بسیار فرمودند و در آخر امر کردند کہ پیرا ہن بپوشید. ایں واقعه را فرموده تبیسم کردند و فرمودند

اگر زندہ ماندی حکم بچنیں بلکہ حکم والا کفن ہم پیر اسی است و قبل ایں مرض روزے بیکے ازاں والج طاہر
فرمودند کہ چوں عمرِ من پہل سال برسد مراد اتفاقِ عظیم پیش آید و برائے تفہیم وے نزدیک بطريق طبیعت
آمدہ کف دست خود را نہ دند فرمودند کہ ایں خطے کرد و دستِ من است علامت آنستِ اہل خانہ
باشماع ایں خبر فیاد و حشت و حشی کر دند۔

فرمودند کہ چہل سال انک نیست کسی تاپھل سال زندگانی بکند کم است۔ باز برائے تسلی خاطر آں
مردم فرمودند کہ آں خطر اوصل حکم کر دہ اند و عادت شریعت حضرت ایشان آں بود کہ ہرگاہ سختے از عالم
کشف یا خارق عادت می فرمودند بخوبی نبی کر دند البتہ حوالہ پیغمبر می فرمودند۔ چنانچہ درفضل
آخر مثال ہامنودہ آید۔ انشاء اللہ تعالیٰ و قبل ایں مرض بیک ہفتہ صریح ترازیں از انتقال خود خبر
داوہ بودند و آپنے ایں بود کہ ولی نعمت طاہر کہ در عالم اسباب حق بسحانہ مفاتیح ارزاق جمعے کثیر از
بندہ ہائے خود را بدست وے داوہ و اور اجسپ و نسب از سیادت و سخاوت بہرہ مند گردانید
لَذَّاَلِ فِي الْعِزَّةِ وَ الْمُجَدِّدِ كَا شَمِيْهِ فِي يَدِ اَطْلَبِ حَسْنَةِ جَمَاعَتِهِ كَرْدَه بُودَ وَ دَاعِيَ نِيزَ وَ اَخْلَى آں جماعت
است۔ عزیز سے از قبل محروم عرضہ کر دکہ اور اجلعت مطالبہ پاشکر باید رفت فرمودند۔ چند روز جائے
بزود کہ آخر ہائے بازار ماست و طاہر اکار ما بآخر رسیدہ است و از ما امیدوار منافع باشد و ایں منع
با وجود آں قدر بے توجی در پاب مسٹر شدان داشتن خالی از غرایتے نہ بود۔

تسلیہ مهدی حکم حمادی الآخرہ

بطیفیل صحبت حضرت مخدومی ملا ذی حاجی شیخ عبدالحق سلمہ اللہ مجلس عالی یاریافت۔ فرمودند
کہ شب گذشتہ او ضارع بدن بغایت برهم زده شد و حالت نزع بطبور رہید و تائیم شب ایں پیش
بود اما بغایت آخر آرامے حاصل شد۔ اگر مردن عبارت ایں است چہ نعمتی بودہ است کہ ازال
حال برآمدان خوش بمنی آمد و ہم ویریں بیماری و صیتتے کہ کر دند ایں بود کہ در ملکیت یک دو کتاب
شبہ گونہ بود۔ فرمودند کہ آنہار اب صاحب شان بفرستند۔ ہر چند یہ ہمہ شرعی آنہا مقبوض و مملوک
بودند و میراثی کہ از حضرت ایشان مانداز نقو دیک ر و پیہ و از اجناس چند کتابے دا اسپے و فرشتی

و طریقہ کہ درسترشان معمول است ہے
گرچاں من اندر سروکار تو شود مہ تو بیراث و ہم خویشاں را

شام پہلیہ لبیت و سوم ماہ مذکور

شیلکی صحیح و خورم بودند چنانچہ عصائیے بدست گرفته بیانی فلک فرمائے خوازجاء کے بودند بجا می دیگر تشریف بودند و بفرح و شادمانی درخانہ کے مشرف بہ دریا بود و ہوا نے مخالف در مرایت واشتہ شستند و نماز شام را با ایماگزار وند و پوشش ہا کہ ہمیشہ در ایامِ بیماری می بود کم کر وند و مثنوی مولوی محسنی با واز بلند می خواندند و با خود زمزمه واشنند مخلصانے کے بہ تھمد خدمت و تیجارداری مخصوص بودند امشابہ دیں حال متین بودند۔ بعضے از حاضران از غواص علوم تحقیق می نبودند شخصی از حاضران پرسید کہ آپنے در قرآن مجید امر بایمان بے غیب آورون شدہ ایں معنی نسبت بہ عامہ مسلمان خواہد بودند بہ اہل مشابہ دیعنی انہما ایمان پر مشہود وارند۔ فرمودند کہ نہ پہنچیں است بل امر بایمان غیب نسبت بعوام و خواص است بہیت ہرچیز دتویش ازال رہ نیست غایت فہم تست واللہ نیست

پاسے انحراف از شب جمعہ ماندہ بود کہ ول حضرت ایشان صحفت کر و بے خوشندند بعد ازان ک فرحت با فاقی ک متفغم بیشاست و جہ بود بہ کمال قرار و آرام باز آمدند و چشمائی مبارک دا کر وند و تکلم از بیں وقت تا قبیل وصال نفرمودند۔ ویں اوقات سکوت کہ ہمگی آں دوازدہ پھر بود۔ ہر چند ادویہ مخالف طبع تشریفت می مالیدند اصلًا پچھن ابروئے مترضی نشدند ہمانا اثبات حال رضا مرعی میداشتند۔ چہ قبیل ایں حالت سکوت مخلصے بطریق دلسوی گفت سچان اللہ چذیں امر ارض سابق و لاحق بیں بود کہ سوزش درون ہم برائی افزود بزرگ منعش کر وند۔ فرمود مدحی سچانہ مالک ملکب خود است۔ در ملکب خود ہرگونہ تصریف کہ میخواہد میکند دیگری را دم زدن نہیں رسدا و تاہنگاہم رحلت از آرام و قرارے کہ واشنند متعیر نشدند۔ الا ان آورون طبیب ہندو کہ آزار روحاںی را ہیافت و صورت کراہتے ظاہر کر وند و چینے برآبروئے

مبارک پیدا آمد و رئے از جانب طبیب گردانیدند خدمت خواجہ حسام الدین احمد عرض کر دند که برضائے والدہ حضرت ایشان ایں گستاخی کرده شد و الامشرب عالی معلوم است که باور دن طبیب ہندوراضی نیستند از استھاع ایں سخن چین ابو فراہم آمد و برضی والدہ راضی شدند. دریں وقت یکی از محلصان تقریبے نام الله العاملین گفت. بسرعت جانب وے دیدند و مر مبارک را که پہ یک قرارگز اشته بودند گردانیدند. یکی از حاضران گفت دیدید که باستھاع نام محظوظ چہ لشوق تحرک فرمودند. ایں سخن آب در پشم حقائق بین گردانیدند اما بیرون نہ آمد.

سخنیہ بیت پنجم ماہ جمادی المائیہ سنه اثیر عشر و الف

سعادت حضور حاصل شد و ایں وقت احتمار حضرت ایشان بود از محلصان ہر کہ می آمد لخطہ جانب دے میدیدند بصرف نظر یا اغماض عین خصیش می کر دند پوں جامع مسودہ به نظر مبارک و رامد خیلگی متوجه شدند و صرف نظر مدتے بجانب دیگر نکر وند بخلافت عادت مکر رکبر پشم شفقت و محبت نگریستند. آللہمَ فَتَعْلَمَ مَا فِي أَنفُسِ النَّاسِ إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ حضرت محمد و می خواجہ حسام الدین احمد می گریستند بنظر ہائے کم متفہمن و داع باشد بجانب ایشان نگریستند و نظرات شفقت و محبت بر تقدیم خیر مال ایشان کر دند بروئے حضرت ایشان تسلیم و تعجب چنانچہ عادت شریف دریں امور بوجاہر می شد یعنی عجب از شما کہ خود را در دائرہ ورولیشان می گیرید و طفلان وار دریں معاملہ گریہ می کنید و بعنایت و محبت تمام انگشان دست مبارک و رانگشان ایشان در ہم زدہ خیلے وقت منعقد و اشتمد و دست پرسروے ایشان کشیدند و در وقت پیخاری اپنیز پیچ کدام از اصحاب کرام درائے ایشان بحضور عالی نبود. اگرچہ خدمت میاں شیخ المہداد نزد یک بودند یکن از ضعف و بیخاری کہ شیخ مذکور را از مشاہدہ ضعف ایشان طاری شدہ بود دریں مدت نتوائیستند مجلس عالی حاضر شد شب و روز در ملازمت حضرت ایشان خصوصاً در ایام پیخاری غیر از ایشان کسے نبود. القصہ چوں جاتنگ بود و یاران بنوبت می آمدند. باشارت اعزہ که لنجا حاضر بودند پیروں آدم محق سچانہ بطفیل آئی نظرات و بحرمت حقائق آئی اوقات ایں آوارہ وادی

نَاكَامِي و باز بِه طبیعت و خامی را لذ سوئے خاتمه مگا بدرا و داین زلات و جراحت را که از یهم شسته ایں از دلائے
خاتمه پر و نخول شد و فریب که نفس و شیطان سر بر میزند سدر راه و صول بگرداناد بمنه دیگر و . تماحی قصه
آنکه پاسے از رو شنبه باقی مانده بود که بذکر اسم ذات بطریق جهشخول شدند بعد از دو شه گظری بهمیں
شیرمه که بیمه بچوار رحمت حق پیشنهاد و بعاظم قدس مکن فرمودند هشتگی

دین صندل سراست آبنوسی گهه ما تم بود گاهی عصی و سی
جو ببر شادی و غم جانے پا شے کو بند

زبانی

که گفت که آن مایه امید بمرد که گفت که آن دولت جا وید بمرد
آن دشمن خواستید بآمد به بام پوشیده و پشم و گفت خواستید بمرد
کنوں اند کے از اطوال حضرت ایشان نسبت بجموم خلاائق و تربیت بستر شدان در و فصل
بوجه اختصار تمام کنم .

فصل اول دریان بحث از اطوال حضرت ایشان

طريقه حضرت ایشان بخلق الله ایں بود که هرگاه شخص بملازم است گرامی (جی) آند خود را بطور او
می گذاشتند و بازدازه عزت او بدل جاهمی فرمودند و تعظیم علماء دساوات ایسیار می کردند و اکثر ساخته می
بودند گر براسته استمائلت خاطر زائر نادر برای سخن شهه همان قدر که وز معرض چو ایپ کافی می بود تکلم می فرمودند
مگر وقتیکه سخن در تصوف و وحدت وجود و محل اختلاف عی افرا و خیلکی منقیح می کردند چه آن محل مخلوطه
اهمام است تا کسی کج نه فهمد و مخالفت نماید صحیح فرانگیزد و اگر از اهل عرف و تکلیف می بود و سه
کلمه عرفی بـ تکلف بر لفظ می آوردند و بتوسعه تازه رو شے بـ می کردند که صحیح گونه تکلفیه یا که استه
مفهوم می شدد در این حضرت هرگز سخن دنیا یا ارباب دنیا یا اخبار عالم مذکور می شد مگر که حاجت مندی
هنگام عرض حاجت خود پیزی می گفت یا امر سے از امور دینی بـ متعلق می بود و

حتی الامکان و راجح مهات مسلمانان خود را معاف نمی داشتند و فعل و قول حاجات حاجتندان را رد ایی کردند و از حضرت ایشان هرگز سخن نه که دلالت پر وجود قدرت کند ازین جماعت کسی نشنیده گفته بیکے از مخلصان که بظاهر مشغول به آمبال غیر مذکور است و جمیع از اصحاب طعن و سے می کردند بشکستگی و حضرت ازکم توفیقی خود و طعن یاران بعرض رسانید فرمودند هر طور میخواهی باش و از کدروت هستی طاعنان و نورانیت مرحومی آن مخلص فرمودند بخاطر میرسد که متوجه شده بکترین ساعتی این شخص را پمپر تبرہ بلند رسانیده شو و اما ضعف فرصت نمی دهد و هرگز این چنین سخنی از ابتداء آنها کسے از حضرت ایشان که تمام غرق دریائے فنا و بیتی پر دند نشنیده در وقتی بیکے از اخض خواص بنابر حکمتی از بحر و جو و حضرت حق بمحاجة قطره می یابم و بهما تعین زندگانی می کنم و در خلا و ملاد و ام آگاهی و حضور و شهود حق می بودند و اگر مکروه ہے شرعی از کسے می دیدند بشدت امر معروف نمی کردند و احیاناً چون ضروری شد پر کنایت یا تمثیل ب نوعی می فرمودند که ولنتین و سے می شد و سبب برنا کردن امر معروف آن بو که خود را از سائر ناس می دانستند و می فرمودند که امر معروف بر علاوه اہل اختساب است روزے بیکے از ازواج مطہر و نسبت بحضرت ایشان بیے ادبی کرده بود و بار باب علم فرمودند که مسئلہ تحقیق کنید اگر در ایمان و سے بہتک حرمت ماقبور سے رفتہ باشد تجدید نکل حکم شخصی عرضه کرد که اگر لجھا کسے این چنین بیے ادبی کند حکمش چنین است فرمودند ما داخیل علم انسانیستیم در کتاب بینید کہ اگر مومنتے تہتك حرمت مومنے بکند چہ لازم می شود و حکم آن چیزیت و سرمو از جاده مستقیم و طریق قویم شریعت تجاوز نمی کردند و عمل برداشات مفتی به می نمودند و از امور یکم ظان شیخیت دهان گنجائش می داشت بقول و فعل اختساب جی کردند و آن قدر نظر ہائے وقیق دریں باب داشتند کہ غفل جیران می شد۔ مثلًا اگر کارے می کردند و دران کار رعایت حقوق شرعیہ کمایل بخی می نمودند گاہے اطلاع بر اسرار آن عمل نمی شد بعد از آنکہ کشف حقیقت آن اتفاق می افتاد ظاہری شد که نهایت مرتبہ رعایت نا ہمیں قدر است و این چنین می بالیست مثلاً روزے نشستہ بودند وقت نماز در زیب مصلال طلب داشتند شخصی از حاضران کم پند خود را پیش آورد۔ فرمودند که برجامہ شما نماز گزاروں از ادب و راست پر زین ادا کردند و جامہ اور آنہ اند اخذند۔ عاقبتاً ظاہر شد کہ این شخص بعد از تمام وضو نصف رطوبتی از اعضاء مغسلہ خود بآن جامہ نموده بود و اگر کسے در

لازمت حضرت ایشان تخفیف مسلمانے می کرو چہرہ جائے غیبت بمحروم آنکہ این معنی از دے می فہمیده تعریف و توصیف آن مسلمان بنیاد می کروند۔ پھا نچہ آں کس نیز اڑاڑا تخفیف برآمدہ در توصیف منقوی حضرت ایشان می شد اذ شخصے انواع افعال قبیحہ صادر شده بو۔ پھا نچہ پدر و جدش محضرے بروجوب قتل و سے نو شہہ بو وند لیکن قاضی حکم بقتل نکردہ بو۔ عزیز سے قبل تجھ و سے را تتعجب و تعیب بحضور حضرت ایشان نقل کرو۔ انواع شفقت و محبت بیہیچ تجھے دربارہ و سے فرمودند۔ ناقل را از مشاہدہ این حال و جد سے در گرفت کہ سبحان اللہ حضرت ایشان مخلوق و متفیہ اند۔ ہرگاہ اذ حضرت ایشان ایں ہمہ شفقت و محبت ظہور می کند۔ حق سبحانہ کہ الهم الراحیں است و سعیت رحمت او تا بچہ حد خواهد بو و اذ غلبہ ایں لظر خندہ و عرض خود کہ ایں جامعلوم شد کہ گناہ ہے پیدا خواہد شد کہ کسی مستحق دو ذخ گردو۔ باں عزیز خطاب کروہ فرمودند شما مردم عزیز یہ۔ شمارا قبایح و سے در تعجب می آردو ماکہ اور اور تقابل نفس خود پنداہیم جائے تعجب نیست۔ شخشے نقل کرو کہ صوفیان حضرت ایشان کارکم می کند۔ و مشقت در مشغولی ندارند۔ فرمودند بیچارہا چہ کشند ما ہم ہیچ مشقتے دیں ام کردو ایم۔ پھا نچہ ہامفت یافہ ایم اینہا ہم مخواہند مفت یابند۔ اگر اذ هر بیہیے امر قبیحہ مشاہدہ می کروند۔ یامی شنیدند تھمت بخود می سبند و می فرمودند کہ اثر بد صفتی ہائے ماست۔ ہرگاہ در ما بپڑہما باشد۔ ایں فقیراں چہ کند۔ ہر چہرہ در ماست در ایشان پر تو می اند ازو۔ وقتے میاں شخ تاج کہ اذ خلفائے حضرت ایشان اند و دین بھل توطن و از ندو رباب کیکے اذ سنبھلیاں کہ خالی از جذبہ و جذبی نبو و شکایت گونہ نو شند کہ اہل سنبھل اذ مشاہدہ احوال و اوضاع و سے زبان طعن دراز می کند۔ حضرت ایشان در جواب عوایضہ میاں شیخ تاج چینیں نو شند کہ دماغ خشکی شمارا کہ در باب شیخ ابا بکر منوہ بو وند خواند یہم۔ ایں نوع پیغمبر ہامنہا مقام شفقت و کارشناسی نیست۔ اولیاً اذ کیا محفوظ نیستند۔ ماہرا و بیچارہ کہ روزے چند سلوک طریق تصدیقہ کروہ باشد اذ کجا محفوظ و مخصوص شد تا خلاف پیشتم واشت اذ و خاطر لش و خصوصاً کہ در اصل دیوانہ و منحر العقل باشد استقامت صفات اذ و نباید پیشتم واشت اگرچہ بو لا یت بر سد خدا و اند کہ در ای وقت چہ نامحتقول محتقول او شدہ باشد و صورت صواب را از نظریں پوشیدہ باشد کارخانہ دیوانہ او یگیر است منی پیغید کہ تکالیف شرعیہ مربوط بعقل است۔ با جملہ ہمہ را در مرتبہ اش معذورہ می باشد و اشت و نظر بر فاعل حقیقی می باشد گماشت بل معیبت وجود را باشد و یہ۔ ادب شناخت

این است نقوس مختلف اند بعضه آماره بعضه مطہر و بعضه ورمیان که لوامه میگویند آن هم اگر ذوی العقول باشند مطہر نقوس اولیا است. ارباب نقوس آماره را نیز معذور می باید داشت بل بنظر لطف دید و در بر کاره مطالعه بکار باند برو طعن اهل سنجصل را نیز انکار نمی باید کرد بل به نظر حجم در ایشان باید دید که از استفاده امت عقل برآمده اند و شیوه نقوس را فراموش کروه. اگر عاجزه بیک گناه بکند حکم بر ابطالان او چرا که اند و مجموع امور را تبلیغیں چیز احکم فرمایند. الحمد لله والمنة که ملاحت اولیا است مانعه در ظهور این امور طریقہ دیگرداریم. هرگاه ملاحت میرسد و مخدومی نگیریم. و یک پد صفتی در خود می یابیم و این اشارت را موعظه غصی میدانیم. چنانچه درین ماده نیز در خود نفاق یا و تبلیغات یا تلقیح و التجا بحضرت کوسم او بدمی انشاء اللہ مرتفع شو و. بارے بگوئید که از ملامت سنجصلان چه ضرر لاحق تخواهد شد عبادت را قبول نخواهد بود و یا صفاتی توجہ بطرف خواهد شد یاره درگاو الہی خواهد شد چه خواهد شد یه معمشوق ترا او بسر عالم غاک، انتقی کلامه قدس سرہ

بر ذنوبے عزیز بے اژل صدای شرکایت حال خود را در ملازمت حضرت ایشان بود که هر احالی پیش آمده بهر چندی داشم که ویگران به ازین احوال دارند ولیکن نفس من بدان مغزور شده است با وجود آنکه سنت خدا می کنم. آن عجب و غرور از من نمی بود. یکی از صوفیان در ملازمت عالی شسته پود فرمودند. این حد نیز بطور شما گرفتار بیهی حال است از وعده ای بپرسید آن عزیز نظر خدا که ما هر دو بجا علاج که ایشان بمن خواهند کرد پر خواهد بود. فرمودند شما هر دو مردم عزیز بید جاصل با دارید لا جرم چیزی با در خود همی بر نمی دهید که ندارید یعنی بیچ نمی بینیم. بچه چیز مارا عجب شود آن عزیز بگوید که از استخراج این سخن نزد یک بود که تا او پویشی می ازدیم بلکه سلیمان بعجب و خود پنهان چه رسید. ویگر هرگز گرفتار از ایشان نگونه عجب نشدم یه

ساقیان بجهه او پیش شراب اند و هندر

موش گوید گوش را یا ساغنده می کن ساغری

و از بیهی از متفقیان بیهی بخیر که خود بشر و عات مقید نبود پر حضرت ایشان زبان اعتراف نداشت دراز گردید. بعده دنیل یا ناسیان و بجا بی او ضماع و لباس مرضیه می کرد و حضرت ایشان تحسینش می کردند می فرمودند که مثل شما در عالم کم کسی یافته می شود. می باید کسی شمارا یمیشه با خود می داشته باشد چن خوب کسی بوده آید. درین مدت مارا مثل شملتے ملاقات نشده بهر چه تو اضع می کردند. او در

اعترافات قوی تر شد اصلًا بوسے اظہار گرفتی نہ کروند و کچھ خلائقی کار فرمودند باوجود وسیعے لیش تراشی پو و مردے سے بود کہ دریچہ فرقہ اعتبا رسے داشتہ باشد عزیز سے ازدان شوران عمد بوسے گفت کہ آے از خدا بخیر تو پیدا کہ علم تشریع چیست برویکتاب رجوع کن یعنی ہرگز از اولیا خلاف کتاب نیای خصوصاً از مثل حضرت ایشاں کہ از ارباب صحوانیہ اصحاب سکو۔ فرمودند ویں خیزوں مان وجوہ ایں چنین مردم غنیمت است ہم دیں محل طعامے درمیان آمد اور ابابا خود مشرکیکار کروند اذ ارع شفقت و مہربانی فرموند چوں تمام خالی شدند اعترافات دیرا از روئے کتاب ہائے مفتی بہ جواب فرمودند بعد ازاں تا افراد آن متفقہ پیدا نشد گویند از شهر برآمد و روشن حضرت ایشاں شب ہا درایام تحقیف امراض مزمونہ که خادمان اور اصحاب می نامیدند ایں بود کہ بعد از مذاہن خفت کہ از مسجد تشریفی می بروند قدرے مراتب می نشستند۔ چوں ضعف اعضا بیشتر می شد پائے درازی کروند و چنین کہ چشم بخواب گوم می شد و خادمان درخواب می شرد برمی خاستند و متوضامی رفتند و تجدید و صنو می ساختند و شکر و صنو می گزارند و می نشستند باز چوں اعضا ضعف کروے درازی می شدند ہم چنین پنج مرتبہ گاہے شمش مرتبہ می شدند و تجدید و صنو کروہ بخواب نی رفتند و احتیاط بلیغ می کروند کہ از خادمان کسے پیدا نشود و شب ہا با وجود انکھ و دو خانہ داشتند بسرون می بودند و اگر میل عنسلے پیدا می شد درخانہ که نوبت آں می بود می درآمدند و ہمار جانش کروہ پسروان تشریفی می آوردند و خواب می کروند و اہل خانہ نے حضرت ایشاں حقوق خود را تمام چھتے قسم نیز خشیدہ بودند۔ باوجود آں قدر رعایت قسم می کروند کہ سر گزے فرو گز اشتہ نہی شد۔ چنانچہ درایام غلبہ ضعف و بیماری نیز از خانہ کہ بخانہ یکے از واج فرب مسافت داشت بخانہ ویکر آمدند کہ مسافت ہر دو خانہ از انجا برابر است و آں خانہ وسط حقیقی است و درجاتیکہ شب می بودند سنت مذاہن فخر را درہما نجا گزار وہ مسجد جماعت تشریفی می آورند و در اوقات دیگروں یہ مذاہن شام بعد از وضو شکر و ضو گزار وہ مسجد می آمدند و اکثرے از ادب ایں حاجات ویں راه عرض چھات خود می کروند۔ قدرے می ایتمند و حاجات ہر کدام رامی شنیدند و پرس جو ایسے شافی مہربانی می گفتند۔ آں گاہ مسجد می درآمدند اگر در وقت اتساعی می بود تجیہت مسجد نیز اوامی کروند والا بفرانض و سُنن متوکله الکفا می فرمودند۔ ہم چنین در وقت برآمدن از مسجد ہرگز از اہل حاجات اغراض منی کروند۔ بلکہ بشاشتہ وجہ باینہ اسخن می فرمودند و در جائے خود تشریفی می بودند۔ چوں ایں شمیہ کر دیہ فتحتائے

عظیم یا فتہ بودند شیخیگی در باب حرم سازی خلق اللذ متوہجہ بودند آخراً این معنی بنابر تفسیر کم پذیری فتہ بود و از حضرت ایشان قوائد ظاہر و باطن بردم می رسید و تاویل مریدان جزاً راه باطن نبی کردند مثل سلب حال و در قلق انداختن نسبت باش شخص این معنی باعث چندیں تنبیه و فتوح می شد. یکی از مخلصان را بنا بر صلحت دلے در قلق انداختن و ایں مردلاهور می بود و اذ لاله و رخصیت یکی از شیخان وقت تا بدہلی آمدہ بود چوں ملازمت کرد فرمودند چرا ہمراہ آن شیخ پیشتر ترقی. طرفہ حالے بران نامرا و گزشت که تمام شب در زنگ ماسی که بر تا به باشد برقیار بود و نعرہ امیر و دگر یہ ہا در دنک می کرد چنانچہ خواب پیشتم اکثر برایان اذ ناله او آشنا نتوالست شد و از غایت گردیہ نماز خفت و بامداد را آنچنان که بازدھوالت گزارد عکس اخیر ماہ رمضان بود و برایان بعد از نماز بامداد حلقہ کرد و متوہجہ بحضرت حق بسحانه نشسته بوند که آن نامرا و دیں جمع و رآمد و گفت آمسدانان برائے خدا در دلے دارم بشنوید. اگرچہ تیج کس متوہجہ بسخن دلے نشیچہ تمام شب کوش ہارا پرساخته بود. هر کدام بذوق خود فرستہ بودند گریاں گریاں بنیاد کرد که من پیویستہ طالب درویشان معتقد و خادم ایشان بودم. شبه بخواب دیدم که ابلق سوار می گزد و مردم در ونیاں اومی روندومی گویند که ایں قطب وقت است من نیز بسر راه دلے دویده ایسادم آن سوار مبنی گفت که نوک من می شوی قبول کردم و گامی چند در جلوے او دیدم. عاقبت بریک کوہی برآمد و از چشم من غائب شد و بعد ایں واقع پنج شمش سال گزنشتہ بود و استدار من با خرا آمدہ که بتصریب حضرت ایشان ازان کوچہ که نزدیک بنا قده من بود بجان نسق که در خواب دیده بودم گز شفند بجز و آنکہ چشم من برجمال حضرت ایشان افتاب شناختم و اذ ونیاں رفتم و این واقعه خود اگفته مشغولی گرفتم. اکنون پنج شمش سال است که مجنت ایشانم الحال می فرمایند کہ ہمراہ آن شیخ چوں نہ رفتی آمسدانان برائے خدا بگویند که من چہ کارکم چوں سخن با خرا آمد با اہل قلعہ وجد سے در گرفت که مسازه پاگم کردند و بے طاقتی ہاموند ایں جماعت که قریب پیہھتا و کس بودند یک کس ہوشیار نماند و از سنگ مسجد بعضی بجزئی بخود شدند و غریور تمام قلعہ فیروز آباد برحاست و مکاشائیاں جو هم آوردند چوں این غوغای سمع تشریف رسید مسجد تشریف آور وند فرمودند تا یک دگر را گرفتند و مسی اینها فرونشست. بعد ازاں آن کاہور می آتش زدن را طلبیده از قلعہ برآور وند غرض که تمام منظر رجمت بودند و می فرمودند که اذ ما بکسے ضریبی رسدا الامنافع. والحق قوائد یکه دیں دو سه سال اذ آن حضرت بستیفید اون رسیده در زمان پیش بسا العامی رسید و تفصیل آن از حدیثیان بسرویست

یک دہان خواہم پہ پہنائے فلاں تا بگویم و صفت آن رشک ملک
 شانے او بدل ما فر و نیا یہ زانکہ عروس سخت شکر فست و جملہ نازیب
 دہر باقی بر مشرب حضرت ایشان آں قدر غالب بو کہ اگر بہ بردامن نزہت لشیں خواب می رفت۔ ہر
 گوش بیدار نہی کروند و منتظر بیدار شدن وے می بودند۔ تازمانے کہ او بخواب بو دے حرکتے نہ فرمودند کے
 دخور ابطور اذگذاشتندے۔ واکثر اوقات باسی تقریب سر ماہامی خوردند و لحاف از زیر گرد بہ می کشیدند
 دہر قسم آشنا تے کہ سابقًا پاشنا یاں داشتند تا آخر بآنہا بھاں طریق سلوک می فرمودند چنانچہ اکثرے از
 آشنا یاں سابق حضرت ایشان را از خود بہ بیچ وجہ تمیز نہی داشتند۔ عزیزیے در ملازمت حضرت ایشان
 نقل کرو کہ بعضی کوتاه بیان تیرہ منش می گویند کہ مدار مشیخت حضرت ایشان را بر آشنا بیگانہ الافقی
 مرح الامامی قدسی القاب سی شیخ فرید است سلمہ اللہ تعالیٰ وہیشہ در رقعات کہ بہ شیخ می نویسند عنوان
 آں قبلہ گاہی سلامت می باشد۔ از فخر ایں قسم خوش آمد پڑیا است۔ در جواب ایں سخن فرمودند کہ شیخ را
 برعاق ہاست و بوسیله وجود ایشان دین را کشاویش ہا دیدہ ایم والحال ہم و جھی شرعی بولے قطع
 طریق آشنا می یا یہم۔ والا چنان می کرویم و ایں تو شتن راعلٹ ہماں است کہ بہ نوعے کہ از ابتدائے
 سلوک پکیے کروہ بودند تغیر نہی دادند و مہمند احتوق سعادت و بلند مشی شیخ سلمہ اللہ و اوصلمہ الی مایمتناه
 رخصت تغیر ایں عنوان می داد۔ روئے صحفت والدہ ماجدہ خود دیدہ امر طعام چتن را کہ تکفل ایشان
 یوہ۔ بہ بعضی از صوفیاں فرمودند۔ والدہ حضرت ایشان تا چند گاہ بہ گویہ وزاری گزاراند کہ از من
 کدام جو یہ بوجوہ آمد کہ حق سماحتہ مارا ایں سعادت بازداشت عمل بخیرے کہ از دستِ من می آمد یہیں
 بو کہ بولے حضرت ایشان طعام می بختم۔ آنرا ہم از من باز کر فکر۔ مدتها بیس حال بودند و از نہایت و ایقانی
 وزیر کی دغلیہ نسبت اخلاص و مریدی کہ مرکو زوجہ شریعت ایشان است تو انشتند اٹھا را ایں معنی کرو بعد
 اذال کہ ایں سخن بحضرت ایشان رسید و امر طعام چتنی بقصد می ایشان گذاشتند۔ باطن سعادت موطن ایشان
 اذال قلق و احتطراب فراہم آمد و ہبہ بی آنکہ زدن محمد صادق کہ خسر پورہ حضرت ایشان باشند و زن شیخ
 محمد صدیق کشمیری کہ بی بی آغا باشد برائے خیر منوون وند و در بعضی امور گذاشتند و نفی اختیار حضرت
 ایشان آنقدر بود کہ با وجود صحفت و دوام بیماری مقید اختیار طعام می بخودند۔ و اگر ناملاائم طبع می بود
 اعماں ایں معنی نہی کروند و بدین شریعت و عنصر طیف از عدم ترتیب و بے قوی بطعم و دوام مشغول ہجستر

حق بسخانه بغايت نجفت بود لیکن رونق پچره و طراوت روئے با آں همه نخافت که بالاترا ذاں صورت
نه بند و روز افزون ہے

خطاب سبز و لب لعل درخ زیبا دارمی ہرچہ بخوبیاں ہمہ دارند تو تنا داری
و ہنگام طغیان فلق گاہ ہے با وجود چندیں ظہور و مقتدا نیت در کوچھا و بازارها انہا بظرفہ بیعتی می گشند
و رسایہ ہاستے دیوار بخاک می شستند و مضمون حدیث کُنْ فِ الْكُنْیَا كَأَنَّكَ عَرَبِیْ، آف
کعابِ ربِیْ سَبَبِیْ لائح می شد و حضور و شہود حق اذ مرایا پئے گرامی می بارید و محقق می شد کہ جمیع اعضا
جد اجد ابنت خاص متوجہ حضرت حق بسخانه اند واستفاضة خاص میکنند و پیوستہ با وجود چندیں فتوح و کشا
کہ آنَا فَأَنَا مَيْدَمَدَ نَدِیْمَشِیْه در انتظار و لفکر و حزن می بودند ہے

و ریک دم اگر هزار دریا بکشی کم باید کرد و خشک لب باید بود
وقتی بیکے از محل صان تقریبے می فرمودند کہ اگر ماریا صفات شاقدینچہ ارباب سلوک می کشنند نکشیدہ
ایم لیکن انتظار ہا و قلق ہا کشیدہ ایم کہ چندیں ریا صفات و محن و رسم آں می بود و از ابتدا آتا انتہا از انتظار
نه آسودند چوں اطوار حضرت ایشان و معموری اوقات پاک تمام و کمال بیان کروں و رطاقت پیشرفت
چیزیت بگفت نیاید و لذتے کہ روح از دریافت معانی و بسط حال یابد بیان ازا دا ہے آں عاجز
است۔ لاجرم آنچہ اندیشہ و اوراک نویسندہ از مشاہدہ اوقات استغراق سمات حضرت ایشان
دریافت۔ اگر هزار کتب پرداز و عمر سهم بالفرض مساعدت کند تحریر آن صورت نہ بند و نوش گفتہ ہر
کہ گفت ہے

بیود در کتاب ہا دل و درد از دلے صد کتاب نتوان کرد

للہد الحمد والمنته کہ از دیدار گرامی حضرت ایشان کہ نسخہ اخلاق انبیاء و اولیاء بودند یقینی
واعتقادے بیوں طائفہ بطريق مشاہدہ پیدا شد قبل ایں ہرگاہ کتب احوال مشائخ فرط الله کردہ
می شد بخاطر ناجتریہ کارمی رسید کہ مریدان سخن را بسط دادہ اند دالا ایں احوال از قیاس عقل بیرون
است۔ اکنوں مفہوم شد کہ حق بسخانه بعضے از بشر را بجلتے میسراند کہ اگر افلاظون و بوجعلی و قیق النظر
عالم آگاہ گردند بنادافی مقرر آیند۔

فصل ثانی در بیان تربیت مسخر شدن طریقہ

عادت شریفہ حضرت ایشان در تربیت طالبان این بود که ہرگاہ طالبے می آمد کہ انہما طلب می نمود چند گاہ دور انداز یہاں می کروند۔ اگر اہل شهر می بود و اگر مسافرے بود و محتاج نام در ایام می کے باصرار شناور متوجه بودند چند گاہ ناش می دادند بہ نیت آنکہ مردم برائے نام جمع نشووند و کاتے راست نہ سازند و ہرگاہ کسے از ارباب و نیاب رائے فقرار نہ رے می فرستاد بخصلمان خود می دادند و فھرائے بیگانہ را تقدیم می کردند۔ اگر پیچرے باقی ماندے تحقیق می کروند۔ ہر کہ اذ مخلصان غرض حقانی داشتے آئندگاہ ادی اپنے ضرورت و سے بدان کفا پت شد سے عنایت می کردند و امداد مالی چنانچہ بعضے عوام گمان می بودند نسبت بخصلمان بعایت کم۔ و می فرمودند کہ بہر کس ما امداد مالی کنیم۔ لقین و انذ کہ نسبت باد در محبت فتوی سے داریم و نظر حضرت ایشان در عدم امداد تنقیح صوفیاں و تربیت طالبان بودند عدم ہربانی بلکہ نہایت ہربانی نسبت بگرفتاران آزاد و سچیں است و آخر ہا کہ امراضیت و ارشاد متزوک شده بود۔ فرمودہ بودند کہ یا بیندگان ناسہ روز نام بدهند کہ ضمیافت تاسہ روز مسنون است درین میان بعضی سعست طالبان بھی ایستادند و دور اندازی ہاتا ب می آورند الا آنہا کہ طلب قوی میداشتند و ریس کا بچد ترمی شدند بآنها طریقہ می فرمودند۔ بعد از مشغول ساختن اگر محتاج روزمرہ می بودند براۓ آنہا قوت الاموت تعین می شد و نہایت آن یک تنکہ دہلی بود و الایک نیم بہلوی فیک بہلوی از وجہ قرض حسنة کہ براۓ حیلیت لقمه جبلیہ تشریعی است و ایں مخصوص مسافران بودند اہل شهر۔ مگر کسے کہ در یواز حضرت ایشان دائم بود سے واجتیاج او معلوم می شد داخل مسافران روزیہ دار گشت و طریقہ مشغول ساختن این بود کہ اقل استخارہ اش می فرمودند بعد ازاں در خلوتش می طلبیدند و شکھے اذ اشغالی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کہ در رسائل اکابر این سلسلہ میں است می فرمودند و نسبت به بعضے بعضی کیفیات از پیش خود برا مشغولی ہا زائد میکرند۔ چنانچہ در رسالہ خود کہ در بیان طرق نوشته اند افزاد فرمودہ اند۔ قبچے در باب و میکرند و تہمتہ مصروف میداشتند۔ اکثر طالبان در صحبت اول بخیو و شدہ برجائے خود می افتاب و نہ انتہا اثر سے از حرکت و شعور می بود۔ تاہر گاہ کہ صلاح حال آن ہا

سے ایں رسالہ راجح م در رفاقت شریفہ نوشته است۔ رقمہ ۶۴۰ را باید دید۔

می دیدند و راں بے خودی میگز اشتبہ و این حالت بر بعضے ہابنوعی میگز شت که حاضران آنها اموات خیال می کردند۔ باز بر گفکس آن تصرف می کردند بوش می آمد و قول آکشیخ عینی و یعنیت بوقوف حی پیوست بعد از طریق این حالت بخودی و بی شور می اکثر سے آن اخلاق ذمیمه او مهذب می شد و شکسته در کارخانه و جواد اپیدایمے آمد پھانچہ مردم از پھرہ او پے بمعانی مخصوصہ او می بردند و ابتدا بتغیر اوضاع و نے امر نمی فرمودند۔ بعد از چشیدن لذت بخودی او خود بوادی موافقت باوضاع مرضیہ حضرت ایشان می آمد ہم چنیں بہر کہ مرحمت بیشتر می داشتند یا غلطی در استعدادش مدبی و بکرات تصرف پر می کردند و بحالت بخودلیش می بردند و آن قدر قدرت بود کہ اگر کسے رامیخواستند و ریک روز بسرحد فنا و فنا نے فنا که مظاہر رُتبہ ولایت است میرسانید و نسبت بد و سه کس این معنی در یافته شده و ہر کسے راطریقے خاص پیش می آمد۔ بعضے را کشف و بعضے را ترقیات در مقام قرب و بعضے را تلوں احوال و باز کشف هم انواع بروکشف حقائق اشیاء و کشف توحید و کشف قبور پھانچہ این خط حضرت ایشان که درین باب بفرزند و برادر میان شیخ احمد سرمندی مرقوم شدہ موئدۃ النست.

قرۃ العین محمد صادق بن خور وار ظاہر و باطن گردد۔ احوال او پھانچہ ظاہراست مستوجب حمد و رفعہ است برہمان حضور خود باشد از غمیت واستغراق اندیشه نیست انشا رالله از شکر لصحو و فنا در شعور اند راج یا بد مولانا محمد مسعود از کشف قبور اعتبارے بر نگیرند کشوف صوریہ محل خط و لغزش است سعی کنند که حضور مع اللہ ظہور یا بد و دوام پذیر و ہر چند کہ عالم صاف شده باشد و معنی نور انبیت نیز از نظر بصیرت استقاطی یافته در کار و سعی باشد که چذبہ خواجها و حضور ایشان فیگر است در ان مواطن از ماسوے نام و نشانے نیست لگاہ بالکلیہ و اکثر بالا صالة توجی است از شش جمیت معرا۔ گاہی جمیت فوق بجهت خصوصیت که عرش مجید راست در وهم می آید و گاہی ہے ہمہ جمیت را یا اکثر را فرمی گیر و معنی وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ فَقِيلٌ بِطَهْوَرِي رسد۔ اگر صور محفویہ و اشکال صوریہ محفوظ شده اند و ہمچوں سراب و خیال بے اعتبار افتاده و در یعنی وقت نزد در یافت خیالیہ صور ہوَا لَوْلَ وَاللَّهُ خَرِیز در میان می آید و اگر و ز وقت فر و گرفتن آن توجیہ ہمہ جمیت را یا اکثر را صور و اشکال بالکلیہ محفوظ و صفاتی اتم بظہور رسد و معنی کیس فی الدارِ غیرہ دیوار

در جلوه آید بوش باید بود که کسوت معنویه در میان است لااقل صفت حیات و هستی اکنون یک حقیقت دیگر بنشانند که در وقت ظهور رَبِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَنْ زِيَّتِهِ تَعَجُّلَتْ نَيْزِمِی تو ان بود که پیشین کسوت در میان باشد و می توان بود که بالکلیه لظر محبت ش محروشه باشد. بارے حقیقت مقصود در دریافت فراز اک

نمی آید انجام عشق و محبت است و تصنیفیه سر از ماسوے دا آن تحقیقات که در سلسلة الاحرار نوشته شده بخایت فماض است. درین محبت آنرا اگذارند و مدار برادر اک متعارف بهند حضرت خواجہ نقشبندی

خواجہ پاک نقش پاک نفس قدس اللہ روحہ الاقران

می فرمودند که ہر چیز دیده شد و انسنة شد آن ہمہ غیر است بلکہ لَا آن را نفی باید کرد و میان شیخ احمد نیر حائل خود را درین صحیفہ مطالعہ نمایند و بداند که تا استغراق در حضور ذاتی وحدت صرف بظهور نمی رسد۔ اہل ایں سلسلہ اسم فنا برآں نمی نہند و آنکہ مالگفتہ بودیم که یک درجہ دیگر در میان است این است حقیقت این سخنان مشافہة معلوم پیشود با وجود برائے خاطر شما نوشتیم والسلام علیکم القصہ ہر کدام از طالبان واردات خود رخوت رفتہ عرضہ می کرد و حضرت ایشان بحکمت بالغہ الی و وقت نظری کہ من عند المدیا فتہ بودند بمصلح احوال و اوقات وے امر می فرمودند و اگر کسے خوابے یاد اقعده نقل می کرد می شنیدند و در باب خواب گاہے می فرمودند که احتیاج لفتن نیست ہر چیز پر نی اسست خواهد شد و ہر گز تحسین صاحب حائل واقعہ یا تعبیر خوب لبے بحضورش نمی کردند۔ مگر کہ حالے عالی وارد شدے۔ دراں وقت این قدر می فرمودند که بپوش تا از وست نزود و قدم پر ترنی۔ یہ یکیے از طالبان مہنگام عرض احوال فرمودند

مرغ غم او بحیله شد با ما رام ہشدار که مرغ رام را رام نہیں

یکیے از طالبان را بنابری مصلحت وے دور می انداختند و می فرمودند که استفادا وے بسلاسل دیگر مناسب است وے مرگوم ترمی شد۔ بعد از چار پنج ماہ پر وے فرمودند۔ یکیے طالبان خود خواہیم فرمود که طریقہ بستمابوید وے باین سهم راضی شدہ از سر و انتہا دایمی وارمی بو روز وے میان شیخ تاج الدین که از خلفاء سے حضرت ایشان دراز ہلی متوجه سنبھل که وطن اقامت ایشان است می شدند و بخانہ آن مرد یک شلب نزولے اتفاق افتاده بود اہلیہ و سطیعی قوی و اشت بآجات شوئے از شیخ مشغول گرفت و بمعتضد استفادا در مجلس او لے اور اینجومی روئے داد و یکیغیت ہائے عظیمش حاصل شد و دراں

کیفیت اخبار ہفت آسمان گفت گرفت سرگرمی آں مرد بحد افراط انچا مید و اذ شخ خوف فی ازمطلب
قشیدہ مرسیمہ متوجہ بلازمت حضرت ایشاں شد و در راه اذکرت شوق افغان و خیزان در زنگ
مسیت طافع می آمد چنانچہ بند ہائے زادو مرافقش خونی شده بود چوں نظرش بر جمال حضرات
ایشاں افتاب مانند خرمیں گل زنگ در کنار گرفت و در صحن خانہ غلطیدہ میکشت حضرت ایشاں
لختے خود را بطور اوگزا شتند گاہے بر بالا تے وسے می شدند و گاہے در ته وسے و آزار ہابید
شرفی و عنصر طیف راہ یافت چہ او مردے زبردستی بود و در کنار گرفته بر خاک می غلطید و از در و
دیوار مضمون ایں بیت می تراوید

ہزاراں دشمنے شد پاسیم کان تن نازک شو و آزد ده گرامد ر بش بند قباجنبد
عاقبت فرمودند بیاریج کارے ہم داری گفت کارے که دارم ہو دارم و مقصد و مقصد و من
توئی فرمودند پس مارا خود میکشی فائدہ نہ کرد آن گاہ فرمودند بجانب روئے من پر بیں بمحروم دین
از جائے برجست و بخاک ادب نشست و از پر جو گرت نداشت ہا کشید و سٹے گوید کہ آن روز
که در پیمان حضرت ایشاں چیزیں ہیزم کہ ہنوز لذت آن فراموش نشد و عبارت و اشارت اذ شرح
آن قاصراست ذائقہ عی خواستند تصرفی کنند یا خارق عادتے بنایند بخود نسبت نمی کروند بتائے
یا بقصہ محوالہ می فرمودند مثلاً اگر در بیمارے میخواستند تصرف کنند و اورا ازان بیماری برآورند
کتاب طب می طلبیدند و از روئے آن داروئے می فرمودند و ہمت بجانب وسے می گما شتند
بمحروم دیگر اس تھمال آن دار و گاہے پیش از استعمال صحتش می شد چنانچہ طبقے اذ قلعہ فیروز آباد بجانب
دریا کہ ارتفاع آن زیادہ از نہ قدِ آدم باشد افتابه بود و از راه گوش و بینی وسے خون می آمد و
نفسش تنگی میگیرد ما در ش اور اور نظر مبارک در آورد پر بیں حال شفقت فرموده قدرے متوجہ
باطن حق موطن خود شدند و کتابے بدست گرفتہ و فرمودند کہ درین کتاب پیش نوشته اند کہ اذ زندہ
خواهد باند آن طفل تا امروز زندہ است و از مشاہدہ احوال دے سیچ عاقل بزندہ ماندن اونمی کرد

شب پا نزدِ ہم ماہ شعبان

روزے درا وائل ہا کہ نومتا شانی

ایں کارخانہ بلند قدر بودم و در ملازمت گرامی ہو سنائا کارہ آمد و رفت میکردم بخاطر آوردم کہ اگر امر دز اشرا ف کفند و مرابخو و کشت داخل خادمان عالی گردم لا اقل سخنے از مرغبات راہ بفرمائید۔ شب پا نزدِ ہم ماہ شعبان فرمودند امشب شب برالتست و کرسسلہ شما یعنی پیشنه نمازے کہ درین شب مسیگزارند چند رکعت است عرضه کر دہ شد۔ صدر رکعت و برویتے و در کھت ہم آمدہ۔ فرمودند اگر شق آخر است شاید ما ہم تو انہم گز ادو ہم درین محل فرمودند مثل ما بیش گاؤ میماند و آپخان است کہ شخصے از پیسر خود پیشید کہ ہر گز بیش گاؤ بودہ پیس رکفت معنی آن بحیثیت گفت کسی از خانہ برآید و بگوید بے آنکہ رنجے پکشم گنجے بیا یہم گفت بابا نا بودہ ام ریش گاؤ بودہ ام ما ہم نا بودہ ایم ریش گاؤ بودہ ایم۔ یکیے از صوفیاں لفظ کر دکہ روزے بخاطر آوردم کہ هر اخذ متنے فرمائید و از بازار پیزیرے ماکول طلب دارند ناگاہ کسے طلب من آمد فرمودند براۓ ما از بازار تربیز بیار عرضہ کر دم کہ معرفت تربیز چندانی ندارم۔ فرمودند ہر کلام کہ پر نکم تو خوب باشد بیار و عادت تشریف این نہ بود کہ دراۓ خادمانے کہ متین این چنین خدمتہما بودند بدیگیر سے بفرمائید خصوصاً بخود رآمدگان این طرق و این مرد فران وقت از جملہ نو درآمدہ ہا بود و ہم دے نفل کر دکہ فصل زمستانی بود و پوششے نداشتم الائچتہ یہ لحافت کہ با اہلیہ خود شب ہا می پوشیدم و از تیگی میعیشت قدرت لحافت ساختن معدوم بود بشے از اہل خانہ خود بخالتے کشیدم کہ بخاطر این ہامی رسیدہ باشد کہ بطریقے جمیعتی کارافقادہ صبا حش کہ در ملازمت حضرت ایشان نماز

بجماعت می گزاردم۔ در اشائے نماز نیز خاطر شبینہ آمد اور انقی کرم بعد از فراغ نمازوں نظر حضرت ایشائیں بمن افتاو۔ پسکے از محل صان کم معاملہ انحرافات متعلق باشیاں بود فرمودند که از یاران ما پیر سید ہر کہ الحافی یا جامد نداشتہ باشد یا اہل خانہ وی نداشتہ باشد ہر طور کہ بگوید ساختہ بد ہمید و سر کس دیگر نیز ہم احتیاج من ظاہر شدند و بما یحتجاج رسیدند گوید ازان باز ہمیشہ ترسان بودم کہ مبادا خاطرے بیاید کہ وجہ گرا فی خاطر اقدس بود و برہم زن مقاصد سعادت مندی گرد و قوت علمی و قدرت بر اقسام سخن خصوصاً در علم تصوف آن قدر بود که فضلاً تے وقت که سالہا درس علوم گفتہ اند استفادہ تا می عظیم می کردند۔ رد ذرے سے غریبیے التماں کرد کہ برائے تشرح رباعیات کم مسمی بسلسلة الاحرار است و در ای و لابتا زگی تو سید فرموده بودند تاریخ اتمام گفتہ شود۔ در ہجاء مجلسیں دوات و قلم طلبیہ نوزده تاریخ برائے آن رسالہ املا فرمودند۔ دو تاریخ بیاد محروم بود برائے تمثیل ایراد یافت باقی در آخر سلسلة الاحرار سطور است کیکے تجزیع فصوص حکم "دوم نظم و جوب" و مع ذکر بہت رعایت ظاہر شیریت ازین تصنیف خود کہ سخن وحدت وجود در انجاب خوب ترین تدقیقات میں است ناداضی بوند و می فرمودند از ما این تصنیف خوب واقع نشده و می فرمودند کہ محقق شد کہ درائے طرق توحید را ہے است۔ وسیع و راه توحید نسبت بآن شاہراہ کوچہ سنگی بیش نسبت و این نوزده تاریخ دیک مجلس نوشتہ از قدرت اکثر عقول پیروں است خصوصاً با عدم ممارست و کمی ورزش بلکہ خارق عادت است و پھر احتیاج براثبات خارق کہ وجود حضرت ایشائیں تمام خارق عادت بود ازین جا نسبت سخن شیخ الاسلام پیر سرات قدس اللہ تعالیٰ سرہ بہیا و آمد کہ در نفحات وربا بیکے از اکا بین ایں طائفہ زیبا گفتہ کہ فے رانہ بستایند بکرامات و نہ پیارا نید بہ احوال و مقامات کرامت وحال و مقام وقت درست او شجرہ بود۔ بلے

ورول ہرنہ کر حق مرزا است

لئے مصنفوں ایں رسالہ آن نوزده تاریخ را بعد از اتمام رسالہ یطور ضمیمه در آخر نوشته آن را بصغیر
۶۵ باید دید۔

لئے عدم رفع غالباً آن است کہ ممکن کے اہل پدر و صلال است نشوی وچہ اینہا مسئلہ وجود را
پیشو اسے بدی وید کرداری خودی سازند ۱۶

انتقال پر ملال حضرت ایشان

حضرت ایشان رحمۃ اللہ تعالیٰ تباریخ بیست و پنجم ماه جمادی الآخرہ سنہ یک ہزار و دوازدہ او اخر روز شنبہ رخت آقا مدت بدار القرار کشیدند و روز یک شنبہ بیست و ششم در شمال رویہ قدم گاہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بپریون قلعہ سلطان فیروز کہ برائے مجاوہ دان قدم گاہ ساختہ والا ان آباد است مدفون شدند۔ محر سطور در مرثیہ حضرت ایشان ایں ابیات مرقوم فلم خونیں رقم گردانیدہ۔

نظم

زین غم بخون دیده نشستم چو لاله ندار
دل پر گرفت ازین چمن آں تازہ نوبهار
کو غم کہ داون خود بستاند ز علیش من
ایں یک دو روزہ عُمرہ مداری بپیں هنده
برحال خویش گمیہ یکنند مرغ ایں چمن
از ہم رہست قافله در نیمه رہ من ند
خوشخواں سر و دہا سنت درین ہ کچوں جرس
برخون خلق چسمرخ دہن باز کردہ است

کان قطب نہ فلک بہ دل عرش جا گرفت
خلوت گزید باحق و جام بفت گرفت

امشب کہ نالہ بیبل خاموش تازہ کرد
آہنگ گریہ پر من مدبوش تازہ کرد
ہر نالہ ماتھے دگر افسود بہ دلم
جو شش دروں کہ از دم سردم فسردہ بود
شوریدہ حکایت آں رُخ نہفته گفت
آشتنگی پر سینہ بلا نوش تازہ کرد

اک خواجہ کہ از دل عرّاے ہوش مند
آئین شرع و قاعدہ ہوش تازہ کرو
وز بھر حلقتا تے غلائیش مہرو ماہ
ہر روز سبقہا تے بہ ناگوش تازہ کرو
اپنیک روزگار بر آمد پیام چیخ
ب ماہزاد در فراموش تازہ کرد
یک رہ خبر دہید کہ آں نو سفر چہ دید
بر آونج نہ پسہر بیں آں قمر چہ دید

اک ہادی نہانہ رُخ اندر نقاب کرو
زین شیوه خان و مان جہاں لاخاب کرو
وز بھر روزگار ندیدست کس بخواب
زین صعب تر نمکے کہ دل و دیدہ آپ کرو
ور کام علیش زہر تکست از فراق او
عشرت بجام و شیشہ خود خون ناب کرو
خود وصل بر گزید و بہ بیاراں فرق داد
ہر کس کہ ناہما جگر لیش ماسخنید
خود بادہ بخورد حبگر ما کباب کرو
شب را تمام روز قیامت حساب کرو
کاں بخت ارجمند بہاں عزم خواب کرو
بیدار باد دیدہ بحیرت گزین ہوش

خون شد دل پسہر ز بیار خفتتش
در زیر خاک باول بیدار خفتتش

داماں کشیدہ سرو ایں بوستان چراست
کہ گلاب شگفتہ رعنانہاں چراست
پہیانہ عراو حرفیں اں نہ کروہ پُر
کشیدہ شکست غصتہ امید بے رخش
آں مایہ جمال جہاں گر سفند نہ کرو
آں نو بھار تازہ اگر رُخ نہفتہ است
افسردہ خاطر از چمن آں باعیاں چراست
افسردہ زنگ روائق روئے جہاں چراست
کھما جگر فکار ز دست خزان چراست
از هفت باهم چیخ اگر سنگ غم نہ ریخت
آں آفتاب اور جہد ایت اگر نہ خفت
آں نجھ شایگان کہ خفت است زیر خاک

از محلصاں نیاز بدایاں آستان پاک

گویند خضر وقت و مسیح زمانہ مرد
خود شید نو دگستراں هفت خانہ مرد

محشوق دهربود و لے عاشقتانه مرد
چوں آل مه دو هفتة د فرد بیگانه مرد
پیهات کاں طراوت زیب فسانه مرد
خول درگ ترانه چنگ و چغانه مرد
ساز طرب شکست و نوائے ترانه مرد
کاں روح بخش زندگی جاودانه مرد

چوں نوع دس وصل در آغوش پر گرفت
از بس حلاوتش لمب خاموش پر گرفت

گلدسته که بود به دست چمن نماند
چوں در زمانه یوسف گل پیرین نماند
کز بخشش گریه، سیچ دماغ سخن نماند
آل گل چو روح نهفت زبال در قم نماند
در گشنیز شاطلب نغمہ زن نماند
کاں شمع بنیم قدس درین انجمن نماند
خورشید گومماں پوشش خشایه من نماند

دل خول کن زمانه غم خواجہ باقی است
جان کاہ عاقبت الهم خواجہ باقی است

شد ختم مرثیه ازی دشیا و دیں برو
زانست گریهای زین و زمان برو
دل بسته بود چوں فلک چارمیں برو
کز بام ریخت زبره گل یا سمیں برو
گل چاک کرد پیشین ناز نیں برو
صلح صدر است در چگر انگلیں برو

پوشیده حشم یکره و شد زندۀ اید
الله مجتبیش ہو سهم جمیله مردہ باد
ناند بکعبان چمن از فسراق او
زگب رحم شکسته تو آمد ذجام دل
زندگی ازال نفس که ریخ خود نهفت وست
بو حکم و هم و دیده کوتاه بین مگوے

چوں نوع دس وصل در آغوش پر گرفت
از بس حلاوتش لمب خاموش پر گرفت

آوخ که شهسوار زین وز من نماند
یعقوب وار دیده به کوری پسرده به
آشتفته گشت خاطر مجر و حم آل چناں
دل شاد بیله که بخود صد ترانه داشت
شد بگ ریز لاله و گل از خزان ده
ده راز فراق چوں شب دیکور تیره شد
آل نور قدس روشنی از دید بو گرفت

دل خول کن زمانه غم خواجہ باقی است
جان کاہ عاقبت الهم خواجہ باقی است

از حق هزار نکونت و آفسنیں برو
چوں ما در زمانه ندارد چو او پسر
پر بام خود کشید پسنه فخر چوں سیچ
دانشم آنکه بود پو من عاشق رخش
بلبل نهفت در غزلش خجر و سنان
دلها بخاک او پوگش پرشکر گرد

برفت در در و او نتوانیم گریز کرد گریند تا به حشر شهور دست گینیں برو
آه این چیز ما قم است که خون جنگ گرسنگ سوخت
هر لحظه ام بد رو داشتم تازه تر بسوخت

لُوْزُوهَةَ تَارِيْخِ اَذْلَامِ رِسَالَةِ شُرُحٍ رُباعِيَّاتٍ كَهْ مُسْمَى سَلْسلَةِ الْاحْرَارِ وَذَكْرُ آنِ صَفَحَهَا مَدْرَدِه

(۱) هو الحكيم الفتاح المصوّر (۲) لوح حكم موجود يه در کلم تقشیدی (۳) العدد تعالیٰ
تقاییش پدیده دار (۴) وجہ عکس مرآت الصفا (۵) حظ وجود مولی (۶) فیوض علیما (۷) حل کلم
خواجہ پارسا (۸) ظل حی موجود (۹) بل ظل حی وجودی (۱۰) ملحوظ وجودی (۱۱) منافی بصور حدوثی
نظم وجود (۱۲) جملگی امراء احباب توحید (۱۳) تحریر فصوص حکم (۱۴) فصوص الحکم بے شغل
(۱۵) لمب مقدمات نقد فصوص (۱۶) فیض وجود بهاء الدین (۱۷) شیخ مکمل باود (۱۸) صَلَّی عَلَی
اَنَّهُمُ الْأَنْوَارُ وَ اَهْلِهِ -

رساله شرح رباعیات سلسله الاحرار در سی هزار و هفت به اتمام رسیده و این
تاریخ از متممات و مکملات آن رساله شریفه است -

٤٩

مکتبات

مشاد و هفت رقابت شریفیه

از خواجہ نواحی کان قطب جهان حضرت خواجه نوید الملة والدین الرضی ابوالوقت
محمد الباقی المعروف به حضرت خواجه باقی بالدین قدس اللہ عزیز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اکثر اصحاب ایں ترتیب مشائخ خود بخبر نداشتند. از غلبۃ ظہور احوال و علم مجلس عالی
اگرچہ در خاطر ہامی گذشت آماں نی تو انسنتند کہ ایں فتنہ مقاصد را بعرض رسائی نہیں. پہناگاہ بعد
از مدتی ورد پیشے از درویشان عہد النہاس بیان مشائخ ایں سلسلہ شریفیہ نوود و مقاصد
برائے ہمیں بعرض بخدمت فرشاد و حضرت ایشان بعلم خاص تو شنید و سبب خوش حالی ہائے
تمام شد.

ا۔ پیر الماءں درویش

از تبااط ایں بجاصل از جیلیت مصافحہ و تعلم ذکر و مراقبہ سلسلہ نقشبندیہ قدس اللہ
تعالیٰ اردا ہم بخدمت عالیہ ذوالبصیرت والبصارۃ منش الحضور و منبع الصد و المنشی باطر
مستقیم و المتنزل فی الخلائق اعظم مولانا خواجی علیہ الرحمۃ و ارتباط ایشان بوالدین رگوار خود مولانا
درویش محمد است و ارتباط مولانا بخال خود مولانا محمد زادہ است و ایشان را انتساب بخشم الکبار
النور الاتعم والدرم الاعظم اعظم کامل للشجرۃ الزیتونیہ

آن سرافیل عز و ناز از علم ملک الموت شخص آز از حلم

خواجہ عبید اللہ احرار است و سبیلت بعیت و تعلم ذکر حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخی اسدی

له آن سرافیل سرفیل از اعلم ملک الموت شخص آز از حلم

ویعیت و تعلم ذکر و استفاده از خواجہ بزرگ خواجه نقشبند است و تعلم ذکر و تربیت صوریه نخواجہ بزرگ از سید امیر کلال است لیکن پیر محنوی و پستان عحقیقی ایشان خواجه عبد الخالق عجد و افی الهمایا حضرت امیر و خواجه بهمال خواجه محمد بابا سماسی و خواجه علی رامینتی و خواجه محمود الجیب فخر محنوی و خواجه عارف ریوگری علی الترتیب المذکوره من المؤخر ای المقدم واسطه طریقه و فیض اند تعلم ذکر خواجه بهمال ابتداء از خواجه زندہ دلال خواجه خضر است و تربیت ذکر و افاده شداج ای ذروده الکمال والکمال از امام ربانی خواجه یوسفت همدانی است و نسبت ارادت و خدمت امام به شیخ ابوعلی فارمدي است و نسبت ذکر و استفاده محنویه ایشان به شیخ ابوالحسن خرقانی است لیکن شیخ ابوعلی را بعد ازین نسبت نسبت خدمت و صحبت و استفاده شیخ ابوالقاسم کر کافی نیز بوده و پچول نز و محققین پیر سره است پیر خرقه و پیر ذکر و پیر صحبت و پیر صحبت اتم و اکمل است و را ای تباطط پیر حقیقی همان است لا جرم نسبت شیخ ابوالقاسم نیز آورده
چه ایشان نیز پیر صحبت شیخ ابوعلی فارمدي اند و خدمت و ریاضت بسیار و رجح تربیت ایشان کشیده اند و کار را به نهایت رسایده نسبت شیخ ابوالقاسم تا امام علی موسی الرضا اسلام اللہ تعالیٰ علیه و علی جمیع عباد اللہ الصالیحین مشمش واسطه وارد ابو عثمان مغربی - ابو علی کاتب - ابو علی روبداری سید الطائفه جنید بغدادی پسری سقطی معروف کر خی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین - همچنین شیخ نعروف کو خی را بعد نسبت امام زهایم نسبت به واؤ و طائی و جلیب هجی و حسن بصری نیز نسبت نسبت معتبر معروف نسبت امام زمان پیر سخن بیانیم - شیخ ابوالحسن خرقانی را نسبت استفاده و اخذ طریقه از روحانیت سلطان العارفین با نیز پیر طاعی است کینشیبه او کیمین من متبیع الانو ارعکیه افضل الصلوات و اکمل التحیات و همچنین نسبت سلطان العارفین بر روحانیت حضرت امام جعفر صادق است و آنچه معروف است اند خدمت و صحبت غیر صحیح است و نسبت امام صادق با وجود اوار و راشت آبار کرام خود بجد مادری خود قاسم بن محمد بن ابی مکرا است - ایشان در تابعین از فهای سیده سیده سلسله نقشبندیه ازین راه تنزل نموده و حضرت قاسم منسوب و مرلوط به سلطان فارسی اند و سلطان فارسی درین نسبت و طریق منسوب به حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما و رحیم علی
له و استاد پنه مراد امام زهایم حضرت موسی الرضا اند

جَمِيعُهُنَّ تَوَلَّ بِهِمَا وَالصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامُ الْأَيْمَرَ وَهُوَ عَبْدُ الْمَلَكِ سَيِّدُ الزَّمَانِ بَعْشَدَ
الْقَطْبِ وَصَارَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطْبًا وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي كُلِّ
وَقْتٍ مُبْتَدِئًا وَيُسَمَّى بِالْغَوْثِ سَيِّدُ الزَّمَانِ - وَإِمَامُ الْعَهْدِ وَالْقَطْبِ بَعْرَةُ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ وَبَعْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَمُ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهُهُ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَابُ
مَدِينَةِ الْعِلْمِ وَخَتَمُ جِهَةِ الْخَلَافَةِ وَبَعْدَهُ حَسَنُ وَبَعْدَهُ حُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا كُلَّهُمَا فِي هَذِهِ الْمُقَامِ سَيِّطَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهُمَا هُكْمَةٌ - هَذَا
قِرَرَعْنَدَ أَسَاطِيرِ الْكَشْفِ وَعُظَمَاءِ الْمُشَاهِدَةِ - وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى -

این کتاب بجناب خلافت پناه منظر الطاف الی امیدگاه مریدان و مخلصان ایں خاندان
میاں شیخ الہادی ثبتہ اللہ علی مسند الارشاد نوشته شد۔

لما برادر ارشد میاں شیخ الہادی ایں دعائی گئے معتقد خود را بتوجه فاتحہ امدادی منووہ باشد،
با این تہمپر پیشانی او ضماع و بے استفای متنی کمال بیهی جیانی است کہ سخن تصویف در میاں آریم و از
وقایت طریق انجذاب حقائق منتهی کشف تحریر نمایم۔

ع اذخرون بطلب هر آنچه خواهی هستی

بهرحال یک وصیتت می کنهم بر شما باور که آنرا اذ و سنت نداشند - آنست که چوں ما هر زه گردیا باشی
نباشید و خود را بر تسبیت خود بار و زید و آنرا اعزیز بدارید که اعڑ من الکبریت الاحمر است فا فهم الشایع الدل عزیز

لهم اذا امام یہا م حضرت موسی الرضا اند له قوله امام الایسر الخ امامان هما الشخصان اللذان احشرتہما
عن یمین الغوث آبی القطب و نظیره کافی المذکوت و الکافر عن یساره لذ و نظیره کافی المذکوت
و هو علی من صالحیه و هو الی کی خلف القطب - ۱۶ - اصطلاحه الطویلہ تصنیف کمال الدین ایں العظام

عبدالرزاق بن جمال الدین الكاشی السمرقندی رحمۃ اللہ

رحمہمہ اول زید نوشته و حاشیہ دوم برپائش کتاب نوشته است۔

ہرگاہ انہی ساتھ وہ سست و ہر تفصیلے خواہم تو شت تا عزت آں نسبت کمابینجی متعلقہم شتو و

پیش از این که جناب عالی مقام ارشاد و پیاہ میباشد شیخ ناج الدین بحضرت خواجہ ناصر پو طگرد و ندو
پالنماں مخلصہ ایں کتابت را برائے ایشان نوشتمند و در این زمان مشاور ایپہ در سلسلہ شریفیہ عشقیہ سلوک
نمایم کرده با جائزت پیر کامل مکمل مخصوص و مجاز شدہ بودند لیکن از روئے سعادت و بلندی استعداد و بعد
از رسیدان ایں کتاب بخدمت حضرت ایشان رسیدہ بکمالات دیگر مشرف شدند و با قدر ترقیات و
تصوفات مشرف گشتند که از دائرہ نوشتن پریوان است و هرگاه که از وطن آقامت بخدمت پیر و شیخ پرسیدند
اکثر ملکہ و ائمہ بهم خاگنی و شرف حضور مشرف می بودند و ایں دو امام عیقج یکیے از اصحاب کباره را غیر ایشان علیم نیز شد
و ایں وجہ و وجہ بسیار محبوب طائف و خدام آں آستانہ می بودند۔

لله عز وجله سرگردان مملکت محمد باقی اشتباق قدیمی سائران طبق انتباہ و متوجهان حضرت الہیسا
است پر آنندہ حاجات با سهل و جوہ پیش کناد.

شندو دیم که روز سے چند خلوت خانہ نہ اجھے حسام الدین احمد رامضانی داشتہ انداز باز ماندگی خود و دور
یافت۔ لعنه از اجھا صورت قبض و بسط در تهم آمیخت۔ آسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ جُنُبٍ كَمَا كَرَّ اللَّهُ قَلْمَب
سبیل عادت بر بر طب و بالبس آف داعم می نمایید مقصود اظہار تحریر و نخراںی باطن دست نماید که و لے را ببر
نیاز روئے اند و دا شفقت پیدا شود و همیتے بر گمار دو تو بھی نمایید بہت سے

لے عذایات حق و خاص ان حق گرملک پاشد سیاہ هستیش ورق

عنایات بزرگان و اتفاقات خاطر الشیان سرمه سعادت‌ها است دوران را در راه مستعدان را آگاهی ساز و خصوصاً که این توجه بصیرت و نشست و پرخاست جمع شود آهسته بیار می‌سپارد متعالیس اسرار و اطوار است -

نارِ خندان با غ را خندان کند

لخته مردانست از مردان کند

حمد و معا احصال این دهن سلوك و جذبه است. هرگاه بپرکت اختلاط خالص باطن طالب کسب صفت
جذبه میل و محبت ذاتی است. یکند و قوت گیر و سلوك که نفی صفات پیشرفت است. بکم جذبۀ من جنیبات

الْكَنْجُونِ تَوَازِيْنِ عَمَلَ الشَّقَلَيْنِ۔ وَسَتْ وَهِدْ بِكَمْ اِیْنِ رُوشْ خُو شَرَازَانِ سَتْ كَرْ بُخُودْ لَفْنِي لَوازْمِ لِبَشَرَتْ
كَنْدَ۔ عَدِ مُعْتَدَلَ وَرَصْفَاتَ نَگَہِ اِشْتَقَنْ كَارَبَسَهْ اِسْتَتْ نَهْ بِقَوْتْ بازْ دَسَهْ سَالَكَ۔ الْغَرْضَ اِشْتَقَاقَ وَ
اَرْزَوْ مِنْدَهْ بِحَکَمِ اِیْنِ اِيمَانِ نَسْبَتْ بِهِمْ وَوَسْتَانِ حَقِّ دَارِيمِ حَقِّ تَعَالَى رَوْزَمِي كَنَاوَ۔ عَزِيزَيْسَهْ مَيْ گَفَتْ
كَرْ ہَےْ سَعَاوَتْ كَهْ طَالِبَ مَلَاقَاتَ اِیْنِ طَائِقَهْ رَاسَتْ كَهْ اَگْرِيَافَتْ خَدَاهَا يَا فَتْ وَاَگْرِيَافَتْ شَقِيقَ يَا فَتْ
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ التَّمَاسَ اَنَّکَهْ نِيَازِهِنْدَهْ مَيْ اِیْنِ سِيَاهَ وَلِعَمْ صَارَعَ كَرْ دَهْ رَا وَرَمَا بَهْ مَزَارِ حَضَرَتِهِمْيَانَ
ظَاهِرِ سَازِهِنْدَهْ وَاسْتَهَا دَهْ بِكَنْنَهْ۔ وَالسَّلَامُ وَالاَكْرَامُ

پُول جناب عالی مقام ارشاد پناہ میاں شیخ تاج الدین بنا برو و بعضے واردات و مستی ہا
و بے نیازی ہا بملاحظہ وید مصلحت مسٹر شداں بے اجازت عالی صلاح دراں ویدہ بووند که از سلاسل و گیر
که بغیوض آن آشنائی ہا داشتند۔ بعضے رازدار ان طریق تزییت کنند و نیز خود را بے حاجت واویسی مشرب
میدیدند اما ایں معنی را بکسے ظاہر ہنی کر دند برائے ایشان ایں کتابت نوشتہ شدہ بو۔

۲۳۔ بِشِیخِ تَاجِ الدِّینِ۔ وَفَقِیْكَ اللَّهِ تَعَالَیٰ فِيْمَا يَجِدُهُ وَيَرْضَاهُ۔ بَعْدَ اَذْادَاءِ مَا وَجَبَ
عَلَى الْحَسَبِاءِ مَشْهُو وَصَنْمِيرِ مِنْهِرِ مِنْ گَرْ دَانَدَ۔ فَقِیرَ اوْرَ بَعْضَهُ اِذْخَوَابَ ہا چنانِ مِنْ نَمَایِدَ کَهْ باطِنِ شَمَارَابَهْ فَقِیرَ
یک نوع عدم القیادے و طغیانے ہست ظہور ایں و قائم بعد از بیماری فقیر است۔ در ایں و فغمہ که
آمدید شرم آمد که بایں نوع چیز را توجہ نموده انہمار آن نمایم مقصود حق است اگر جواب ما در میاں نباشد
نُورَ عَلَیِّ نُورُ ہیں لیکن پُول سنت اللہ بِاعْتِبَارِ وَاسْطَهِ وَبِزَجِیْتِ اوْر فَتَهِ اِذْ وَضَعَمُ لَوْسِیدَنِ وَاوْرَا
در میاں ندیدن هورث عدم ترقی است اگر بنا گاہ بِحَکَمِ لِقَیْنِ اِخْرَافَهِ در باطن وَاسْطَهِ پیدا شود بِرَکَتِ اَنْ
میاں بِرَحِیْر وَہر چند آنْفَارِ لَوَّیْدَهِ اَدْصَافَهِ مَقْرَدَهِ مَقْرَدَهِ مَقْرَدَهِ مَقْرَدَهِ مَقْرَدَهِ مَقْرَدَهِ
نامرضی و نامقبول است ادب معلم اطفال تاچہ حذر گاہ باید و اشت. اسْتا و طریقیت که ناؤ دان فیض و
بُستان کشف و شهو و باشد هر آئندہ بر ذخ الوہیت خود خواهد بود

عَلَیْهِمْ وَخَدَائَهُ مَنْ اِذْ تُوْبَحُنِ رَسِیدَهِ اَمْ

مِنْ لَحِرِیْشِکَرِ النَّاسِ لَهِیْشِکَرِ اللَّهِ۔ بِارَمِی دَوْرَجَهِ اِسْتَتْ۔ وَرَجَهِ اَوْلَیْمَکَهْ ہِمِیْشِمَهْ مِسْتَهَدَهْ
مِسْتَفَیِیْضَ بَاشِنَدَهْ تَابَبَهْ تَرْقِیَاتَ بَیْهُ نَهَايَتَ مَفْتُوحَ بَاشِدَهْ وَادَبَ ایں معنی را کہا یعنی رعا نیت نمائند

تا برخورد اری و برکت کامل گردد. درجه دوم آنکه بر تقدیر یا نکره مادر میان نه بسیار و گمان برید که از ازدواج طیش خواجهها بے واسطه مستقیم ضیم نیز ازین ابانداریم. هر خدکه خلاف واقعه است و مورث بے برکت در اتباع مسترشد ایلکین حفظ طریقہ خواجهاد استفاده در توجیه ایشان و عدم خلط باطنی و یکون ناگزیر است و ازال بایسیح وجہ چاره نیست. ایں طبقه در غایت غیرت و نازکی اند. شما کتب محققین مطالعه نکرده اید. طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بایسیح تفاوته طریقہ ایشان است اخفا و عدم انتیاز از خلق نیکستگی و متواضع بودن و خوار و دامنه عوام اند اختن اکتفا بیسن محتاوه نمودن و با سایر ظاهروسل نمودن طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم است. چنانچه شیخ بکیر محی الملة والدین محمد بن الحرنی در کتاب فتوحات مکیه می گویند که بذالمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر الصدیق و من المشیخة ابو زید البسطامی و صدرالقصار ابوسعید الخراز و من سادات بذالمقام ابوالسعود و بذاحالنا. باقطع نظر ازین شما بررسیده ایں باع وید و نائب ایں گنجوران شمارا ملزم آستانه ایشان بودن و بر مرضیات ایشان قدم استوار و اشتمن لازم وواجب است و السلام علی من اتبع المهدی

ایں عنایت نامه هم در ایام میکه جناب مستطاب عالی مقدار میان شیخ ناج از مستی هاست و دید کمالات خود ترقی نه فرموده بودند. بدئے تربیت ایشان صادر شده بود. بعد ازال آنچه باعث بر ایں کتابت ہا بود. ایں بود که از برکات توجیه شریف از وساوس ولغوش ہاست خود نائب گشتند و آخر بخیر انجامید.

۵- به شیخ ناج الدین حق بسحانه و تعالیٰ برکات تامیه ابدیه روزی کناد مجت نامه که مصحوب نظام مرسل بود مطالعه نموده شد. از شورش ہا عجب آمد. سختی نوشته بودیم اگر خلاف واقعه باشد فهو المراد باری وصیت آن است که اگر صفتی از صفات ما را مخالفت پایند. پانچه در خیال شما کمال قرار گرفته تکیه باشند که اطوار مختلف است. بعض از معانی آنهاست هُوَ الرَّجُوعُ إِلَى الْبَدَائِئُتْ من صح طور بی تکلف اعوام روان ایشان است و همچنین اگر در خاطر آید که اهل ارشاد را کشف والهام می پاید آن نیز اصلی ندارد. اهل ارشاد بعد از فنا دلقا مظہر اسم العیم والجیم والمتکلم می پاید که باشند چنانچه در کتب آنمه طریقت مقرر است و همچنین همیشه خود را اینیاز نمند و مستقید بدارد یا ابتلیج

مُسْتَرْ شَدَ مُرْتَشِدٌ بِهِ يُشَيْهَ اسْتَ وَآنْكَهُ مِيْ گُوْتَنْدَ آکْنُوْ حَاجَتْ فَلَانْ ازْهَرْ شَدَ بِوْخَاسْتَ - ایں معنی دارو
کہ قائم بیورا صل شد. اگوْ مُرْتَشِد ازْمِیاں بِرَوْ دَفَوْرَے باوراہ نئے یا بدھے

دریک دم اگر ہزار دریا بکشی گم باید کرو و خشک لب باید بُوو

و ہم چینیں در آواپ طریقہ عالیہ احراز یقشیدنیہ پُوپل کوہ راسخ باشید - ذہنار کہ بطریق دیگر
خلط نکنید و آنکہ از سلاسل مختلف مریدیہ می گیرید - پیغزے غیبت ہر کہ مرید شما شوو - شوو - واللہ - فلاں
تعلیم و تعلقین منحصر در طریق تلقشیدنیہ سازید - نان دیگرے خورون دُعائے دیگرے کردن بسیار
لے فائدہ است شخصے لوز تلقشیدنیہ از شما گرو متوجه شطاڑیہ باشد چہ مزہ دارو - دیگر مریدیہ کاملیت
بین یکی ای الغسال میے باید کہ آنکہ خودش گوید کہ مراعلیم فلاں شغل بدہید - بغاوت قیح است نابوں
ایں چینیں خود روی خو شترے

مجلہ سرخاصل و سرعواام گفتہ شد والسلام والاکرام

الیضاً بہ میاں شیخ تاج الدین نوشۃ اندر -

لہ - دوام و صفو و دوام شکر و صفو و احتیاط لفمه و اجتناب از معاصی بالکلیتہ از عبیدت و سخن چینی و
تحقیر نہ مومن از آزاد و بندہ ولبغض و کینہ مومنے و غضب و سخنی بزرگ و ستار از لوازم است و
اساس ایں کار است - لے ایں ہا کار حکم نمی شود و اما اگر دیں امور احیانا فتوے برود ترک ایں کار
نکند بلکہ تقویہ واستغفار متسل شدہ ذرا زویاد ایں کار بکو شدنا بحکم ان المحسنات یعنی ہبین الہیت
صفاتی تمام روئے تباید اہلیت احمد تعالیٰ والسلام والاکرام علی هن ماتبع الہدی -

(وَدِنْيَا زَمَنِي وَشَكْسَنِي خُود بجانب پیرزادہ جناب خواجہ ابو القاسم سلمہ اللہ تعالیٰ نوشہ بودم)
کے - پیرزادہ ابو القاسم - دُورانیا وہ گرفتار محمد الباقی بعرض ملازم آستانہ ولایت
می رہا نہ کہ بواستہ خاک بوسی آں منیح سعادت و اقبال بسیار است لیکن کثرت علاائق و صعاف
قوائے جسمانیہ مدعی عظیم شدہ بحال آنکہ بمنیح طرفے رفتہ شو و نماندہ - آرے کرم الہی یعنایت برگزیدگانی
اوباری است - اللہ علی کل شئی عزیز دیر - بحال امید آن است کہ در سلک ملازم خود و اشته بتوجی

امدادی فرموده باشند. در چهار سعادت واردات خویان درگاه را میدانم حضرت ایشان قدسین اللہ تعالیٰ سرہ ایں گذارے بے حاصل را خود بخوبی قبول فرموده بودند. چنانچہ در اول وسیله طلب والتماس هیشم در میان نبود. اکنون ایں آستانہ ہم ہمیں حشم داشت ابست.

ترا ہست دست تصرف دراز مجبراً ز سر غائبان دست نباش
مرا وست ہمت بغیر اک تست سرم گر بگردون ز بعد خاک تست
زیادہ چہ نباش درازی کند. الحمد للہ اولاً و آخرًا

(ایں کتابت در جواب عرضیہ محمد دی ملاذی استادی میان شیخ احمد ادام اللہ برکاتہ صادر شده بود)

۸- پرشیخ احمد سرندی - در مکتوب سیوم مرقوم بود که توجہ بجهت دفع بعضی از امراض و شدائد آیا مشروط است بسبق علم برضی بودن او یا نه.

محضی نماند که توجہ فعلی است از افعال اختیاریه و فعل اختیاری یا مرضی است یا نامرضی یا مباح بر توجیه - که متوجه الیه اش از امور نامرضیه است. بے شک آن توجہ نامرضی است و هر توجیه که متوجه الیه اش از امور مباحه است - آن توجہ از مباحثات است لیکن لشیب است بعترف سُور ادب است. چه حق سیحانہ را تابع خود ساختن است و از امر فائحتن ولا وکیلا - برآمدن از اجمع از معرفاتیک تصرف نموده اند و خود را در مقام عجز فروگذاشته کابی المسعود الشبلی -

ایں طبقه گاہی بے نیابت بی نی یار مسوی بی بجهت اثبات مبحجز آن بی یار رسول تصرف می نماند و مثل ہمان مبحجزه را بظهور می آزند. و هرگاه معرفت علویافت عاجز شخص می شوند اسکم ترک از ایشان بر می رفتند و اگر تصریف از ایشان بظهور می رسدا مرآ و بجز آ است - چنانچہ از اطوار حضرت خواجه احرار رحمۃ اللہ علیہ مفہوم می شود چہ باطن مبارک ایشان که از مظہر خاص اراده ایمیت بود بخیواست متوجه امر می شد و بقوت قاهره رفع آن می کرد و خود نیز می فرمودند که دائے بر آن روز کے که دل من دپیش کیکے راست بالیستاده و سخنان دیگر ہم ایں صریح تر است چنانچہ اهل تبع کلمات ایشان را ظاہر است و شیخ بزرگ در کتاب فصوص خود را در روز جمع

ثانية ممکونه و مقام ابوالمسعود را في الجمله نقشه می ننمد - باز سخن رویم و هر توجهی که متوجه الیه اش از امور مرضیه است سواعداً اکثر مرضیه في الشريعة آوری في الكشف الصريح الصحيح فالتوجه الذي خن في بيانه وهو جمع الهمم الذي يعبر بالهمة امر آخر يحتاج بعد ما اخرانه مرضی ام لا از سخنان حضرت الشیان چنان معلوم می شود که مرضی است و هم چنین تصرف یا ترك التصرف بهت اثبات مجزء في الجمله تایید ایں می کنید - مثل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرتكروا بامر فافعلوا منه ما استطعتم - اگر گفته شود که اینجا صلوت الرحمون علیهم با وجود نده الاستطاعت و امر بهاد و اعلا من کلمه الحق چون در مقام تصرف نی آمدند گویم وما على الرسول الا البلاغ غدر آن می خواهد الشیان ما هور گویند بنفس جهاد و اعلا من کلمه الحق از طریق مشر و عده بطریق تصرف - الشیان از اهل عجز اند نه از اهل تصرف نه بینی که لوط علیه السلام طلب بهت کرد و در آنجا که حق سبحانه و تعالی می گوید لوان لی بکفر قویة - کما قال صاحب الفصوص رضی اللہ عنہ - هرگاه امر ای کسی می شود بهت امر قوت و همیت ظهور می کند و در آن وقت معنی فافعلوا منه ما استطعتم جاری می شود پس اهل بهت را بحکم اتباع انبیاء صرف بهت در مرضیات مرضی است و ترك آن نامرضی - باز بر سخن رویم و هر توجهی که متوجه اش از امور مشتبه است اعنی معلوم نیست که مرضی است یا نامرضی است - چنان پچھے سوال شناور مثل آن ماده است آنجا بهت و توجه دلیری نباید کرد بل دعا باید کرد - آن هم باسم ذات مثل دیالله یا مرحمن یا سریعیم اگر عرضی است مستجاب خواهد شد والارفع درجه یا کفارت سیمه خواهد شد - عالم بخواص اسماء ائمها سبب نیست که در این چنین ماده دعوت باسم بکند - آن سوال آنکه بعد از تحقیق حضور هر طالیان را از ذکر بیاورد و اشتئن و امر بگهداشت حضور کردن لازم است یا نه - مخفی خواهد بود که جمیع حضور با ذکر احکم و اوثق است ذکر از جمیع که بدب فتوح حضور الشیان شود ممنوع است و هم چنین در وقت کسرالت و شکست نفس ممنوع است حضور ذکر روح است و تصحیح حدوف ذکر که درجه اخفا است معلم القول الاصح في المنفرد عند ائمه المحنفیه نصیب خیال دلنفس و زبان است چه زبان نیز در وقت نگهداری شد بی حرکت نیست کما اکثر علی اهل الشعور و تحقیقت ذکر آن است که آدمی به جمیع اجزاء اکش ذاکر باشد تا اسم ذکر برای تحقیقت جامعه توائی نهاد - و در حدیث الا ان دلهم بخیدرا عمالکه

(الحدیث) اشارت باین ذکر است کما فی کتاب الفضویں اما سوال آنکه در فقرات خواجہ ماندگور است
که اهل صحبت را آخر پذیر کار مری کفند که بعض مقاصد هست که بے آن سیر نیست آن مقاصد حسیت و
پچه وقت امر نبکر می باید کرد و مخفی نماند که وقت اصر نبکر وقت ظهور حضور است وقت ظهور حضور وقت
پنهان آمدن رابطه است و تیجه ذکر فناست حقیقی و ظهور اذکر کند و آنچه بعد این است از حکایت و معاشر
ومراواز ذکر لاد الله الا الله کما هو الظاهر من طریقیهم تو اند بود که در آشناست رابطه یا توجہ
ذکر می از اذکار بطريق العکاس از باطن مرشد بباطن سالک بتاید خواه ذکر قلبی و خواه ذکر بد و حی -
و هو المعرف وهو عین النیجۃ کما شاهد تم خیر مرقة و اگر صحبت و رابطه منتهی باین قسم چیز
شود باز نهی و اثبات در کار است رفیع الدریجات گاه باشد که کشف نیز منجز باین سیر شود
از جهت ظهور مرتبه فوق اذا اراد الله شیئاً هیأله اسبابه بالجمله طلب می باید من قرع
باب الکرم ولع ولع مقرر است که همت را اثر هاست و آنچه در فقرات است که بے ذکر
نمی شود تو اند که سیر محبوی باشد چیز سیر محبوی باش و یگر است ه

عشقِ محبو باش نهان است و سیر عشقِ عاشق با دو صد طبل و نفیر
لیک عشقِ عاشقتان تن زده کند عشقِ معشوقان خوش و فربه کند
اگرچه با حقیقت ذکر که اعراض واقبال است در اس سیر بهم درج کردیم لیکن ذکر خنی پوشیده
است که ملک رانیز برای اطلاع نیست ان ذکر فی فی نفسه ذکر ته فی نفسه و هو الحافظ
لهذا الذکر و هو الذی برقیه بلا واسطة و سبب بالتجلى فی الخلوة التي ليس فیها الا
هو و ان ذکر فی ملامع المدائنة او غيره هم من الانس ذکر ته فی ملامع خیر منه
ذان فی هذه الملامع نفسه دامحل و فی ملامع الحساب تفی النفوس بظهور الکبریاء
عدم خیریة الملامع بالتبه الى ملامع آخر لاینا فی خیریة بعض اجزاء الملامع النازل
بالنسبة الى اجزاء الخیر بر سرخن رویم ترقی در ذکر نفسی است و بس علی ما بینا و هر کسر
ملائے که خالی از ذکر نفسی است درجه بیش ندارد .

ه صاحب و دوست و سوخته جا می باید
آلش زده بح نما می باید

اما سوال آنکه بعض از طالبان اطمہار طلب طریقہ می کنند لیکن در لفظ احتیاط نہی کنند الی آخرہ - مخفی
نمایند که پیش ازیں و رخاطر فقیر این معنی خطور می کرد که درین باب وسعتے کرو و شود - اکنون نیک افتاد
و هر کہ می تو اندر رعایت احتیاط کرو و تقصیر نکند و نسبت با وشماینیز میباشد ممکنہ اکہ از اهمال و مساپد
و بگران مساپد و رسمیت باید العبرت درین باب مساپد نکنید که رعایت طریق جذبہ بے ایں روشن تمام
نمی شود و جمیع که رعایت نہی تو انند کرو و در باب ایشان مسامحہ بکنید لیکن در حدود شرعیہ باشند
اکنکنند که هرچیز از حلال و حرام یا بنده بخوبی و سیچ باک ندارند نعوذ بالله منها - اگر کسے ہم چنیں
باشد ملاحظہ معنی اللہ حاضر می فرمائید تا بآمد و شد و لازمت شما خجل شوو - و ازان معنی باز استیضد و راشنے
آمد و شد و نہ مت لفظ حرام و بے خاصیتہ اک سخن کنید و اگر این چنیں بے باک است لیکن مستعد تیز رو
است می تو ای با وجود آک خرابی طریقہ گفت امید که خود متنبہ شوو - و اگر شود بعد ازان که او بر ایقینی
بایں طریق پیدا شد و فی الجملہ نسبتے بدست آور و سلیب نسبتش کنید تا شامت لفظ را بدر باید العرض
تا تو ایند مظہر رحمت باشید و فائدہ بخلق خدا بر سانید اگر جمیع میخواهند کہ مجرد استناد بایں طریق پیدا کنند
مصطفحہ و معاهدہ کنید - او عهد کند و متابعت شرعیت و حفظ عقیدت از کدو رت ہو اور دعوت و شما
عهد کنید بر ثواب و نجات آخرت - فہمن نکث فانہما ینكث علی نفسہ و من اوفی بما
عاهد علیہ اللہ شیئتیہ اجر اعظمیا - اگر شجرہ طلب کنند نامہ ائے مشائخ را تا حضرت
مولانا نوشیز بدیند تا بادگیر نہ دارا از خرابی خود شرم می آید کہ نام ماوراء کے خواجہ ادار آید کا ہے
برائے توفیق نافاتحہ خواہد ایں جماعہ که مصافحہ خواہند کرو اگر تو انند و وازوہ رکعت تھی و چهار رکعت
بدو سلام اشراق و دو داڑوہ رکعت چاٹشت و چھار رکعت سنت عصر و بعد از سنت مغرب پچھار
رکعت نفل بدوسلام بکنند و دو رکعت تحریۃ مسجد ہرگاہ کہ دن سجد و رآشد و بنشیند مگر آنکہ بعد از حلوع
آفتاب و بعد عصر در آئند و دلو رکعت شکر و حشو ہرگاہ و ضو کنند الامان و دو وقت - دو و اہم و ضروری عبادت
کنند ایں جملہ آن قدر کہ تو انند بکنند و اگر سہہ را کنند بہتر و کامل تر و اگر حق سبحانہ توفیق زیادہ بدد
ہمیں نماز ہارا خصوصاً نماز شب را بتطویل قرات دراز بکنند اگر سورۃ طویلہ یا وند انشتہ باشد سورۃ
اخلاص را پہنداں کہ تو انند بکندا اگر فراغ و خفخت باشد استادہ والآن شمشتہ نماز را بدلالت
کسل جمع نکنند و دو رکعت آخر اشراق را بیت استخارہ جمع بکنند و دعا سے استخارہ تا اللہ و ان

كنت لعلم بخواند و بجاءَ آخر دعا اللهم حفاني لا املك لنفسي ضراولاً نفعا ولا موقا ولا
جيوة ولا نشورا ولا استطيع ان اخذ الامااعطيتني ولا ان اتقى الاما او قيتنى
اللهم و فقنى لما ختب و ترصنى من القول والعمل في يسرو عافية الهم خرى
و اخترتى ولا تكلنى إلى اختيارى طرفه عين ولا اقل من ذ لك الله واجعل الخيرة
في كل قول و عمل اريد في هذه اليوم والليلة الى تلك الوقت بخواند او غيره ما ثوره صحيح
كه بعد اذ فرأض و ركتب عصالح مقرر شده آنچه تو اند و هر و عائمه و وقت كتب صحاح مقرر شده
بخواند و از نوافل صيام آنچه پيش علما مستحب است از صوم و شب و شعبان و جمادى و يكين جمادى را
نهانه و از صوم ايام سبع و از صوم سه روز از اول هر ما هي الاشوال آن قادر كه تو اند ببر آنند
و السلام والاكرام

حدیث فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي دان ذكرني في ملائكة ذكريه
في صلاة خديو منه البعض ائم علماء وليل جواز جبر وليل خيريت ملائكة برآدمي واسرة آنده ما هو الظاهر
ليكين اگر مرا و از ذكر نماز باشد و از ذكر ملائكة قرات جبر باشد كمال الشار الشیخ رحمنه الله عنه
في صلاة الاستسقاء في الفتوحات المكية لا يلزم شيئاً منها ما لا يظهر
ذلك الثاني فان رسول الله صلى الله عليه وسلم له يكين ما موماً اصله ليكين مدرب شيخ
فضل ملائكة است بخصوص بشروه و راجع الى فضل ولائية الخاصة اي الوقت الذي
لا يسع فيه ملك مقرب ولانبي مرسل الى الولاية مع النبوة مع ان الفضل
الجماعية مسلم فالولي المستهلك في زمرة امهات من امهات الاله على والبشر اسام
الجامع المرتanan المراد من الخواص الرسل وعامة العلماء يفضلون خواص البشر
على الخواص من الملائكة وهو رسولهم هذا متفق عليه بين الشیخ والجمهور فاكثر
مقامه نوشته بودنكه رسیدم و مخصوص بحضرت ختم التحالفه يا فتحم مارا دران و شبه استهك يکي
در اول خود ران من اصحابه مي یافتند بعد ازان بندرین بمحى وقت شدند در اين همایان ترقی دار
که ام جهت شد که سبب وصول شد اگر جهت جذبه رامي گويند خن اين است که جهت پيش اين
مقام مهاجم شده بو و صفا و قلبها مشهود سبب رسيدن آن مقام شیست چنانچه خود اشارت کروه آنده

کہ آں مقام مجدوب سلوک تمام کروہ است و اگر جہت سلوک راجی گوئند می باہست و ریافت کہ چہ صفت بدست آمد کہ آں مقام پیدا شد۔ شبہ و یگر انکے چوں تو اند کہ آں مقام و یگرے رانباشد اقطاب وقت لاکر درہ وقت سند زمان اندر رجہت چند بہ یا سلوک چوں لفظ باشد بارے رجال آں مقام را و اہل قوام اور اوقرو اور اوتا مناسیاں اور ایہ تمام بنویسند شاید امر می شخص شود۔ می داعم کہ نارامناب نیست پاں مقام بارے بہ نویسند کہ عدم مناسبت چہ نوع است و یگر بکرر توجہ نمائند پیغیزد کہ ترک مشغول ساختن مردم نسبت بامرضی است یا نہ؟

ایضاً ایں جھا عدت کہ مصاحب مائند ایشان رائیز و صحبت و یگر ان فرستہم دخود بخشم مرضی ہست یا نہ اند یئیہ باوشاہ را در تھاطر نیارند۔ غرض و یگرداریم البتہ مکرر را واقعات نیک توجہ نمائند بدست محمد سے نوشته فرستند۔ اگر شیخ نور بہ نقطہ فوق رسیدہ باشد شیخ نور بیار و دیگر اسرار محفوظ دارند چنانچہ خصوصیت آں مقام را نسبت بحضرت ختم الخلافت اطہار نکنند مردم در غلط می انند سبب فساد عقیدہ می شود والسلام

ایں رفعہ بہیکے اذ خاد ماں کہ اور ایملازمت مجوہ کردہ بخدر جہت و دیدن مشائخ عهد فرستادہ بووند و امر فرمودہ بووند کہ اختیار خدمت ہر کب از مشائخ دیگر کہ خواہ بکنند و ایں درمانہ بمحض ضرورت امر اختیار ایں سفر کردہ بووند بے اجازت بطن اقامت مراجحت نہی تو انتہ نہو باو نوشته بووند۔
۹۔ بہیکے اذ خاد ماں مجوہ بایزید سلطانی قدس اللہ سره العزیز السامي در براہیت حال ملازمت عزیزی بطلب مقصود حقیقی رقمۃ بود آں عزیز فرمودہ کہ آنچہ تو می طلبی و رقدم اول گزا شنة آمدہ
ہماناں کہ حضرت سلطان را بخدر مت والدہ امر کردہ بووند بارے بہر حال العود احمد شمار اینیز بتا بعثت آں قافلہ سالار شطاڑ طریق مراجحت می باید نہو شاید مشاہد صورت منتج مناسبت معنوی شود حقیقت معیت حق و مشمول وجوہ متعلق آشکارا اگر دے

بہیکو نایبینا مبرہرسوئے دیست

با تو در زیر گلم است آنچہ ہست

بیکے از طالبان که بواسطہ شغل کسب با سباب میجشت شغل باطنی بضرمودند و او مستعدی می یو
ایں رفعہ باونوشته بودند.

۱۰- پریکے از طالبان محبت نامه که درین ولا مرسل بود مطالعه نموده شد موفق باشد حق تعالیٰ
در خود کرامت فرماید آنچہ در باب طلب مشغولے مرقوم بود بالفعل بیهان چه مقرر شده باشد هفتاد
هزار بار ذکر لاله الا الله محمد رسول الله در مت یک ماه یا کم یا بیش نیک است مدار بر
رابطه و صدق اعتقاد است اشاره اللہ تعالیٰ آثار گستگی و بعلقی روئے نموده مقصود
بحصول پوند و اکا بوزموده اند که روئے دل از شمن بگیر و سنت طبیدن چه حاجت والسلام

۱۱- در میان شب خواه در تلثیت آخر خواه در نصف آخر خواه در تلثیث آخر خواه در ربیعین هیا نه
از خواب بر خاسته هر دو سنت خود را بر و پشم خود مایده بر ذکرے از او کار مشغول شوند خواه پسخ
خواه تمیل خواه بکیه خواه آیت آیات قرآنی اگر آیت ان فی خلق السموات والارض
و اختلاف اللیل والنهار تا آخر بخواهد به ترجمه سنت است بعد ازان و در کعبه شکر و ضوگزار و
دعائے جامع مثل ربنا آتناف الدینیا حسنة و فی الآخرة حسنة و فی العذاب الناسیا
دعائے ویگراز او عیبه ماثوره یکن دعا را مسبوق تحمد و ثناء الی وصلوة و درود حضرت مسالت
علیہ افضل الصلوات و اکمل التحیات یکند بعد ازان و واژه رکعت تجد بشمش سلام بگزار و نهیش
این است اقلش و در کعبت یا چهار رکعت اگر کبر سن یا ضعف باشد یکند بعد ازان فراغ نماز کلمه لا اله
الله محمد رسول الله را آیت شنیده بخواهیز نشنو و بگوید یکن در اثناء گفتی حق راجل حلاله
حاضر و اند چنانچه گویای میز رچه حق اذ رک گردان ہر کس باں کس نزو یک است و معنی کلمه لا
متصرف الا الله پاندیشید چند ای که تو اند نکر الا این سبق نماید و چنان اعتقاد کند که در هر فرض
از سراسر ایاں آور و قال اللہ تعالیٰ و قبارک یا ایها الذین آمنوا آمنو اقبال رسول
الله صلی اللہ علیہ وسلم چند دوا ایها نکه یقین لاله الا الله چوں نماز فخر
یکند باز بیهان تکرار خود مشغول شود تا آفتاب مقدار یکت نیزه برآید چهار رکعت اشراق بد و
سلام او کند اگر حق تعالیٰ توفیق بدید که تمام اوقات خود را مصروف این طریق بدارد و باسطه

فِيْوْضِ عَظِيمٍ خَوَابِدُ وَهُنَّ قَرْعَ بَابِ الْكَرِيمِ دَلْجُجُ لَجَ لَجَ
اَگر تو پاس داری پاس الفاس
بُسْطَانِي رَسَانَدَتِ اَذِينَ پاس
وَالسلام عَلَى هُنَّ اَتَيْعَ الْهَدَىٰ۔

۱۶- پیر شیخ تاج الدین - دماغ خشک کے شمارا کہ در باب شیخ ابا یکبر منودہ بووند - خواندیم - ایں نوع پیغمبر کا مناسب مقام شفقت و کارشناسی نیست - اولیاء از کجا تر محفوظ یہستند - نامرا دلیے چارہ کہ روزے چند سلوک طریق تصفیہ کردہ باشد از کجا محفوظ و معصوم شد - تا خلافِ چشم داشت از وظایہ نہ شود خصوصاً کہ اصل دیوانہ و محرف العقل باشد - استقامت صفات از فئے باید چشم داشت ، اگرچہ بولا یستبد - خدا داند در ای وقت پھر نامحقوق معمقول او شده باشد و صورت صواب را از نظرش پوشیده باشد - کار خانہ دیوانہ و یگرست نمی بینند کہ تکالیف شرعیہ مربوط بعقل است باعجمیلہ ہمہ زادر مرتبہ اش معذور میے باید داشت و نظر بر قاعل حقیقی باید کرد بل معیت وجود را باید دید ادب شناخت این است لفوس مختلف اند بعضی امارہ و بعضی مطمئنہ و بعضی در میان کہ آن را لو امہ می گوئند - آن ہم اگر از ذوی العقول باشد مطمئنہ لفوس اولیاء است - ار باب لفوس امارہ را نیز معذور می باید داشت بل نظر لطفت باید دید در ہر کام سے مطالعہ ہائے جمیل بکار باید رہ طعن اہل سنبھل را نیز اسکار نمی باید کرد - بل نظر تو حم در ایشان باید دید کہ از استقامت عقل برآمدہ اند و شیوه لفوس را فراموش کر دہ اگر عاجز نے یک گناہ بکند حکم بیطلان او پھر اکنہ و مجھوں امور اور ای تلبیس چرا حکم فرمائند الجھ لالہ و المنشہ کہ ملامت نصیب اولیاء است ما خود در ظہور ایں امور طریق و یگر داریم ہرگز کام ملائتی می دسدار خود می تکریم و یک بد صفتی در خود می یا پیم و ایں اشارت را مواعظی غلبی میدائیم چنانچہ وہیں مادہ نیز در خود نفاق ہا و تلبیسات یا فتنم و التجا بحضرت کو م او برویم الشا اللہ مرتفع شیو و بارے بگوئید کہ از شنیدن ملامت سنبھلیاں چہ ضرر لاحق خواهد شد عبادت را قبول خواهد بود یا صفاتے توجہ بر طرف خواهد شد پار و درگاہ خداوندی خواهد شد چہ خواهد شد -

لما سچ سچانه و تعلیٰ در پیچہ کرم و راه سعادت مفتوح وارد سعادت در القیاد احکام شرعی
است و قوی تویں بیبے در تحریم القیاد محبت خدا و رسول است - وسیله در رسیدن سعادت
محبت خدا و رسول محبت و خدمت و ستار حق است ۷۶

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ هستش درق

۷۷- و نقاب اللہ تعالیٰ آنکہ صور موجودات یک موجودی نماید - سهل است لیکن مبشر است
بظہور داللہ من و رائیهم عجیط - الشام اللہ تعالیٰ ظہور کند و آنکہ جز محبت حق تعالیٰ باقی نمی
ماند - یک است، مبشر است بفنا و استہلاک و راوارات رزق الله لیکن دریافت ایں
کہ جز محبت باقی نماید و شوار است و ہرگاہ محقق شد کہ جز محبت حق سچانه یعنی باقی نماید و ایں معنی
غلبہ کرد و بے شعور مطلق ساخت نوعی از فنا است - مبارک است ببشر است بظہور سعادت
وصول - لیکن قسم ایں و تحقیقش بغاۃت و شوار است صور شبیه بسیار وار و بالفعل غائب
اہتمام مرعی باید داشت و بکار باید کوشید - بعد از ملاقات تحقیق خواهیم کرد - و یگر بر تقدیر و پر
تقدیر و صول نیز سعی بلیغ باید نمود که او از المیہ بے شمار است ہمت را پست نماید داشت -
والسلام علیٰ من اتبع الهدی -

ایں رقعہ بحیاب میاں شیخ احمد سرینہدی نوشتند -

۷۸- اکتابت کہ ارسال داشتہ بو دند رسید و آنچہ اذکشوف مذکور بود طریق آں بغاۃت مرضی و
صحیح مستقیم و مستحسن است - چوں ایں طریقہ شمار برنجے واقع شده کہ بے قول وزیاں چیزیاں کشوف
می شود چیز حاجت است کہ بیاں ہمہ وجہ نموده شود - الشام اللہ تعالیٰ بعد از ملاقات آنچہ باید
گفت بحضور گفتہ خواهد شد - ہرگاہ استخارہ کنند و ظاہر شود کہ البتہ باید آمد بیاں کند والاذلاء - الحمد لله
علی الحسان - و یگر ضعفیت باغایتی قوی است و آنہا جواب مکتوب اول نوشتہ شد بیاراں ایں
جاتے یک نوع بیکار طور می باشند صحیتے نیست کہ وابسطه نگرمی شود -

ایں رُقْعَة بِحَبْ میاں شیخ احمد سرہندی نوشید.

۱۶- پیشخواه احمد سرہندی - ابواب کرم یوماً فیوماً مفتوح بادکتائی کے مشتمل بر و قائم و احوال بود رسید فرست مطالعه و تحقیق نہ شد انشاء اللہ العزیز بعد از تحقیق چیزیں نوشتہ خواهد شد - آنچہ در نظر اچالے و دامدہ خود نیک است تعبیر جامہ پارہ شخص و پوست الگہ لعین ثابتہ و تعین در مرتبہ و بحیثیت باشد بسیار نیک است مرتبہ و بحیثیت همای و بحیثیت خاص است تعین حادث اذ انکاس چین ثابتہ ظاهر وجود بزرخ است بین الوجود والعدم دھما الظاهر والباطن کا الذبة بین الطرفین قابل مکن هو التعین الخارج الذی هو من المعقولات الثانوية والمعقل الثاني الیضا بزرخ بین الوجود والعدم فان له من وجہ تعلقاً بالوجود ومن وجہ تعلقاً بالعدم .

اما آنچہ خود نوشتہ کہ آں جامہ پارہ راعین ثابتہ خود تعبیر کردہ و آں پوست را کہ آخر خود را ہماں یافته اید و آں جامہ را از خود بیگانہ اشارت بزرخیہ داشتہ اید - حالی از تخلف نیست آرے شما خود بزرخ مذکور کہ غیر آں است کہ ما نوشتہ ایم شده اید و اتصال بآن یافته لیکن بیگانگی آں جامہ پارہ ازال جملہ بعید است - بارے بہ حال نیک است و آنچہ در رسالہ سلسلۃ الاحرار در بزرخ بین الوجود والعدم نوشتہ ایم غیر اینها است ان شاء اللہ العزیز تفضیل کتابت اول و آخر را جو ایسے خواہم نوشت - سفر و وطن را رعایت بسیار بکنید کہ تحصیل مقامات سلوک پُر ضروری است - مولانا عبد الداودی راویں چند روز بجانب خانہ اش بفرانسیست تا والدہ خود را به بعیند کہ می گویند بسیار دیگر است بعد از تسلی دالدہ خود باز پیش برو و محمد صادق باہمہ دوستیں بدعا مخصوص اندر

ایضا بحباب شیخ احمد سرہندی لفظ متشکلین رقم صد و شد -

کے اما بقاکہ اللہ تعالیٰ - خدمت میاں صدر بجهان استدعا تعلیم ذکر و مراقبہ کر و مرتضی تعلیم ذکر کر و شد - چون مراقبہ خاصہ ایں طبقہ از مقولہ درس و بیان نیست و ایشان ارادہ ہماں داشتند مصلحت چنان وید کہ در خدمت شما تصحیح آں نمائند حصول آں بیٹھو تصریح متعدد است انشاء اللہ تعالیٰ وجہ اتم ظاہر شود - دریں اوقات ضعفت کاتب قوی است فرست صحبت و

سر و بُوگ توجه نماینده شانیز بعد از استخاره بیان نیز پیش از این مرقوم بود که اگر البته باید امد
بیانید و الافلا - شاه حسین نیز همان نوع کند و الدعا

۱۸- به شیخ احمد سرمندی - میان شیخ محمد در خدمت شاخواهند بود و ملتفت باشند و بر آنچه
لائق بحال ایشان است امر نمایند جناب حاجی عبد العزیز و عالقدش بعزم احابت مقرؤں پاد
محمد صادق و محمد سعید و مائور اعزه دعا قبول نمایند - والدعا

مکتوب هر غوب بجناب شیخ المدار رقم فرمودند -

۱۹- به شیخ المدار - جناب مخدومی میان شیخ المدار سالم و غائم در سیر و سلوک باشند سیر فی اللہ
را بحقیقت آنها دارند که بعد از تحریف جذبه واستهلاک در معنی که مستفاد است از هنن اقرب
بد و فیض الی تزکیه نفس می یابند و از جانب ویگر محل ظهور اعتبارات حقیقت می شوند از حال
اینها جزو هم سبقان نیز هوش داشتادان حافظ با تجزیه نیستند اولیانی هخت قبائی لا یعرفهم
غیری علی روایة من قرع بیاع النسبیة بارے ایں قدر می دانیم که سلطان اہل طریقت
و گنجینه حقیقت قطب ارشاد و پیر آگاه خواجه عبد اللہ احمد قدس اللہ سرہ العزیز در فقرات
فرموده اند که اتباع حضرت رسالت علیہ من الصلوات آتمها و اعتقاد اہل سنت والجماعت
و نسبتی باطنی خواجگان بهتر از نعم عالم است پھر و تیا و چه آخرت دیدار لشار آخر صورت این نسبت
است چنانچه بخشش صوری صورت اعمال صوری اسرت والسلام

بیکی از مخدوم زاده ایں سلسلہ شریفیه که بجانب ولایت بود و قلم مشکلین رقم قلمی فرموده
بودند نام او معلوم نیست -

و هم بیکی از مخدوم زاده ایں سلسله حضرت حق سجاده و تعالی از جمیع ثوابیستی ها محفوظ و
مصون و ارو و خاطر مبارک متفرق نباشد - بد و ارواح طیبیه اکابر کلفت روئی خواهد داد - آنچه
می باید آن است که قصد او اختیار آور امکنه خبیثه نمی باید و رآمد باقی تجمعیه امور از آفات محفوظ

خواهد بود - ظاہر است که اعتماد کلی به مت حضرات خواجگان خواهد بود - این مکتبین مریدی ایل نیز درین معنی موافق خواهد بود و اذ ایل برگزیدگان التماس لطف خواهد بود و طبیعت خدمت آن بود که در ملازمت مولانا رسول بشرف ملازمت می رسید لیکن خدا علیهم است که ضعف جسمانی سدراه است - اگرچه بعضی از موانع دیگر نیز هست - باری اگر خواست الله باشد و رفع موانع شود بجان و دل متوجه خدمت خواهد شد مخدومزاده بخورد ایل بندگ قبول نمائند - بحث شیخ ابوالحسن نیز والدر مامع الاخلاص -

الم - همان شکسته دل و در و مند و مسکونم

همان جفاکش و سرور کمند و بیه نیم

این بیت محلاً مارا از اطمینان خود نات خاطر فارغ ساخت چه عرض مخدومی از وصول به مقصد المقصود و چه بیان خار خار چهره دل که تفصیل مرتبه روح است و چه از محصوری از مقام انس به صفات جمیل خواه جمال صوری خواه جمال معنوی شاهد دل را وجوه بسیار است بر وجہه مائل مشاهدی است - آن لطیفه روحی است که راه خاص او بجز احادیث صرف نیست زندگی و مزدگی آدمیان منوط و مربوط بهمیں رفتار است از محبو بیان تفصیل بندگان در ویژه نظر بکرم جوئی و آرائشگی و بعرفی مارامشاق خود وارند - دعا شے نیازمندانه قبول نمائند و متوجهه و فاتحه مدد می نموده باشند - مخدومی مولانا محمد صوفی بحقیقت اسم خود برسند والسلام والآلام -

الم - ضيق وقت مانع تمیید مقدمات مخلصانه شد - لا جرم بکوتاہی املا و کمی کاغذ و یک رطی عبارت راضی گشت چه سخن نه رگاه از هر کس خود بآید - بمحصور اسباب آن فتوحی رو و مدعا تیکه از مدر که سرمی زند قطب دائره ملاحظت است خیالی و تکلفی که لا توقی حال اهل آن است آنها سر انجام آن می توانند و ادحال به تمام معلوم شما است که خلوت غانه اندیشه مارا چشم رو و با وجود تفصیل آنرا خود خواهیم کرد الشمار الدلتاعله دریں چند روز بشرف ملاقات خواهیم رسید والسلام

لهم ا اللہ ولی الّذین امتو ای خر جہم من الظلمات الی النور - بِحَمْدِ رَبِّ الْفَضْلَاتِ وَرِبِّ الْعَالَمَاتِ
و بِسُلْطَانِ تَنگا پوئے صوری دلعنوی حجاب ناپودمارا از مایر باید مبنیه و کمال کرمه و عنایت نامه نامی
مملو از جواہر لطافت رسید و در این ترازو و روح در پرواز آمد - بیت شه
ز هر نکته حسد کافی و گریافت

لزمه خط خاطر آرامی و گره یافته

الحق با همه اجمال و کم سخن نسخه تفصیل آدمیت بود مقصود آفرینش را که طلب مفراصلی و تنفس
از احتملاط به وحش صحرائی باز ماندگی باشد با خود داشت حق بسیاره و تعالیٰ ایں شکسته پائے زاویه
سیاه ولی و کاملی طبیعه را نیز بایس بر ساند

اس کتابت بجناب ملا ذی امیدگاری خدمت شیخ نو شنیر شد۔

۲۴- پیر شیخ ناج الدین- نیازمند مخلص و محب مختصر دولت خواه و آرزومند جی باشد کنم فرموده
و رباب رفتن باگرہ مشورت کرد و بودند استفت قلیلک ولو افتالک المفتون- ہرچہ
خاطر الہام پذیر پر آں قرار می گیرد صراط مستقیم است- باوجو واستخارہ طریقہ مسنونہ است و
آنکہ از خواب ہائے مختلف غریب مرقوم بود بحسب تحریر معلوم شده کہ گاہے ہے مشاور آں صحت
قوائے جسمانیہ می باشد خصوصاً کہ مردن شخصے دیدہ شود گویا کہ طبیعت خود را دیدہ ایں قدسیت
کہ آں شخص را بحسب طبیعت و ضعف مناسبتے بایں راه دریں وقت پیدا شدہ خدا تعالیٰ
در حفظ خود نگهدارو و باکے نخواهد بود و ایضاً لعنه از مقامات را مناسبتے بموت است ہماناکہ
در ایمان مقام صفت افاؤه ازان سالک ہنعدم می شود هن ز آرخیاً ولہی رزق ہنہ نشیداً
فکا نہما زار ہیتا شاید بعضی از مناسبت پا و یگر ہم باشد- بارے موت را باں مقام مناسبتے ہست
و یگر خلا ہرسی است کہ بعد از رفتن جماع واقع شدہ باشد و دریں میاں بعضی از ادویہ حارہ نیز خودہ
باشد لئکے نیست کہ نسبت بمزار حشریف ایں معاملہ واسطہ پر لشائی خواب و فراموش کردن
آں می شود و ہم چینیں واسطہ کیا قسم فرو آمدن از استغراق نیز جی شدہ باشد و ایں ہم سب خواب
پر لشیاں می باشد الشار اللہ العزیز خیر باشد ایں مخلص نیز بغاۃت صنیعت و یہ قوت و فسر وہ

می باشد۔ طاقت یک ذرہ نیروے نمانده حکیم مطلق کریم و رحیم و وہاب است کارہا پر مزاو خواهد شد۔ بر مرضیات خود بدارد و بہماں بپیراند و درسلک اہل رضا محسنونگرداند عنایت نموده بودند که خبر بسیار است که نوشتگان آں خالی از خلک نیست۔ التماس آں است که بر سر تقدیر یقینے که تو ان نوشتگان بسیارند و یکم بسیار بخاری که او در ترقی دارد چوں در خدمت شما است چہر حاجت که ایں جا بیاید اگر از غیب اشارت تے بر سر دونا چار باید آمد آں پیغز و یکم است۔

ع من کیم لیلے دیلے کیست من

مولانا یعقوب را که فرستاده ایم نیز آں نیت البتہ خبرے بیاردو اگر مرضی است و خبر است بیاردو والا فلا۔ و کان ایں معاملہ چنان گرم نیت نزویک است که سردی تمام رو نماید اما خدا نگهداو و الدعا مخالص اگرچہ تصمیم لع است یکن ہرچہ باشد نوشتگان ارسال دارند۔

ایں رقہ بسیجے از طالبان وقت بہ قلم مشکلیں رقم اصدار نمودند۔ عراد از یکے طالبان وقت نواب مرتضوی انتساب نواب مرتضوی خان است

۵۰۰۰ سجنه و تعالیٰ بمنتها مطالب برساند اہل تحقیق حی گوئند۔ آئینہ مدرک، راد و زو است یکے رویش بخلق دو یکر بخالق۔ ہرگاہ کہ روئے بخالق است درمیاں آید مقصود حاصل است و ایں سعادت در ہر کیا آں می تو اند بو د۔ مجدد و پاں سالک باں طوراند الغرض رشته امید ریچ وقتے از دست نہی باید داو۔ بیت ہے

یک پیغم زدن غافل ازان ماہ نباشی
شاید کہ نگاہ ہے کسند آگاہ نباشی

ایں رقہ بجناب شیخ تاج الدین فلی فرمودند۔

۶۰۰۰ پہ شیخ تاج الدین۔ المسلاہ معلیکہ و علی من لد یکم۔ جمیع اہل بیت ان خورد و پندرگ و سایر اعزہ در رفاهیت و عافیت پاشنہ صلیعند کم و یسفیل و ہما عیش اللہ بآق

استهمام باید نمود که زندگانی بجز در هر صفاتی اینی صرف نشود و مابقی زاید و بے اعتبار بدل کروه و مُردار است. حیات صوری معلوم است تا چند و ناخواهد کرد. اهل عقل را فکر آن منزل از ضرورتی است زیاده چه گوید والدعا.

لهم - حق سبحانة و تعالی استفهامت در کار نصیب کند. اختیاط در لقمه پر آگذره و احتساب از خبرور صفات نفس مقوی شوق است سخی و کوشش نمائند که لقمه حرام و مشتبه خوردنشود و صفات ذمیمه نفسانیه از غضب و بد خلقی و شهوت غیر ضروریه لظهور نیاید. خلاصه از مملکات بجز بحسر اخْتَصَارِ وَ الْجَابِجَنَابِ حق سبحانة پیشتر نیست و آنما مفترع و نیازه مندمی باید بود و پیش هر ذرّه از ذرات تو اضع و فروتنے باید نمود و

بے عنایات حق و خاصان حق

مکر ملک باشد سیاه هستش ورق

حکمت قلبی هرگاه بروق تحرک ذکرے شود یا بسمع ثیال کلمه اللہ مسموع شود عبارت از ذکر آن گوشت پاره صنوبرے است آن دایز و کربلی می گویند و از خبر اعتبار بیرون است و ذکر قلبی عبارت از حضور و شهد است پنجاب حق سبحانه هرگاه این معنی وست دهد ول شمارا از خطوط اغیار برپاند و ذکر را گذاشته محافظت او نمایند و هرگاه فرشتیند باز برسد کرا و بروید تازه نمایکه آن دولت ثباتیه پیدا کنند آن زمان ذکر را با او جمع کروه فنتظر الطافن ابے نهایت باشید بعد ازان رسیدنی است نه گفتئی و هر چه لظهور رسید به تفصیل بابنویسند.

ای رقعه قبل مرض موت که امراض مزمنه غلبه هانموده بود بجانب ارشاد پناه مقرب آنحضرت شیخ تاج الدین جمیون شیخ بودند بجانب مشائخ ایمه بعد از وصال آنحضرت فارس سره رسید.

۲۸- ع نیاز مند تو ایم ای نیاز پر دروده

الحمد لله و المنشئ که درین اوقات در عارضه سردی یک قسم تحقیقی هست لیکن گاه گاه از حرارت و بیوسیست دماغی صورت عجب روئے میدارد که بتقریر را است نی آید انشا اللہ

تعالیٰ واسطہ خیر باشد و در اوقاینکه خوش آید عبودیت و شکستگی و نیازمندی هر چیز میسر شود
از محمد و شنا و استغفار و تیمح و تهییل و صلوٰۃ و تلاوت نیک است مگر در غیر تلاوت و صلوٰۃ
رعایت انفما از طریقہ این خانواده است و السلام والاکرام

خارے بیکے از امرت مخلص مستعد کتابت نوشته بود و این امیر مکر راعی الفض و نیاز خاکا
عالی عرض داشت می نموده بود و فرصت جواب نوشتن نشده . در پیش کتابت همیں خادم
چند کلمہ حسب التماس جمعی از ارباب حاجت قلمی شده بود و باین تقریب در جواب عرا فض
مشارک ایه این چند سطر شرف در دویافت . بعد از رسیدن این دو سه سطر مسموع شد که در اطراف
این مستعدند کور تغیر بسیار راه یافت و اثر کرد امید که سرنشته آزاد باعماں خیر استحکام واده باشد
تابرکات این تصرف سرمدی کرد و با وجود بمقتضی ائمہ رب حاصل فقهه الی من هوافق و
یہ توفیق اللہ تعالیٰ درویش راصحوب نیاز نامه خواهد فرستاد و اشارت بروشے خواهد کرد و انشا اللہ
تعالیٰ موافق افتاد و در مفتوح گردید .

۲۹- بیکے از امرت مخلص حضرت و اہب العطیات از خزانہ عجیب اضیاف آنچہ دخواه
دولت خواهان است بر ساند بمنه و کمال کرده امیدی دارد که رقیقه منابعیت که بچوہر و حائیت
عالی فطرتیان را در حرکت دارد . در عرصه شعور بظهور آمده وست تطاول طبیعت و هوار ابریکار و
کوتاه دارد . این یا همه عبارت آرائی است . اللہ حولا تکلیتی الی نفسی طرفه تعین . تمام
است . بیت ہے کے بود ما زما جسد اماندہ
من تو رفتہ و حشد اماندہ

وانکه در الثفات نامه قلمی بود که این بیهی حاصل متصدی مشرح طریقہ شود که بوصل
بمقصود باشد هر چند که نه در خور حال و مقام من است . بیت ۵

در عشق تو معرف و فم از وصل تو محروم
گوگ دهن آلو و د یوسف ندریده

لهمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِرَأْيُهُ دَارُوكَهُ رَفَعَتْهُ اُولَئِكَهُ دُولَتْهُ اُولَئِكَهُ اَسْتَقْدِيمُهُ مُسْجِكَسَهُ
وَدُورُوزَ بَرِيكَهُ حَالَ مُلْكَهُ اشْتَهَهُ عاقِبَتْ اَزْدُوْسَتَهُ وَنُوْلِيشَاهُ بَرِيدَهُ قَطْعَهُ وَنِيَّاتَهُ بَيْهُ مَدارَ
مِيْبَايِدَهُ كَهُدَهُ عَاقِلَهُ آنَ اَسْتَكَهُ عَمَرَ حِيدَهُ دَوْزَهُ خُودَرَ اَصْرَفَهُ طَاعَتْهُ سُقْكَهُ كَرَدَهُ مَتَّوْجَهَهُ دَارَ
خَلُوْبَاشَدَهُ وَالسَّلَامُ وَالاَكْرَامُ

الله تَوْفِنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ مُسْلِمًا نِيَّگَرَدَنَ نِهَادَنَ اَسْتَاحْکَامَ الْمُلْکِ

لُهْبَاعِمِی

خواهی که بصوی گری از خود بری
باید که مو او و هو س از سر په نهی
آں چیز که داری بکفت اذ کفت به دهی
برستگ بلکه بر تو آید نه بجهی

سخن سلطان ابوسعید ابوالخیر قدس سره است که تصویف آن است که آنچه در درداری
نهی و آنچه در کفت داری بدی و از آنچه بر تو آید نجھی مسلمان آن است که او را در برداشت
جز حق سبحانه مرادی نباشد. والسلام والاکرام

ایں رقعته بجناب عالی مرتبت شیخ تاج الدین در اول حال حضرت خواجه لقلم مشکلین رقم
شرف صد و پیاافت.

لهم سپیشیخ تاج الدین - بد انکه سالک طریق حق را قدم اول توبه بصور ح است و اعتقاد
یصحح درست بر مذهب اهل سنت و جماعت - چون مدار ایں صفت برعلم است پس بر قباد
که ملازمت علماء تمام عمل پاکیزه احتما در اینقدر حاجت از درست نه دهی و حتی الامکان تحقیق
وین و ملت خود می کروه باشی مدار ظهور حقیقت بر جذب و کشش الله است و جذب و کشش
موقوف است بر انکه نزاب صفت محبوبی برگزینند و ایں موہبۃ علیا مشروط است بر متابع
سید الاولین والآخرين ظاہر او باطنًا قال تبارک و تعالی افل ان کنتم متعجبون الله

فَاتَّعُودُنِي يُخْدِي بَلْكُوْنُ اللَّهُ وَمِنْ تَوْجِهِ تَامَ بَحْضُرَتِ اَذْتُوْبَيْرَهُ بَأْيَدِيْكَهُ نَفْسَهُ اَذْتُوْبَيْرَهُ يَا دَوْا وَنَهُ بَأْيَدِيْكَهُ
بَنَأْكَاهُ خَفْلَتَهُ رُوْدَآزَ أَكَنَاهُ عَظِيمَ شَهْرَدَهُ سَخْنَتَ مَتَالِمَ وَمَحْرُونَ شَوْيَ وَرَوْانَ حَزْنَ بَدْرَكَاهُ حَقَ بَدْرَهُنَبَالِي
كَهُ لَوَازِمَ بَشَرَتِهِ اَذْتُوْبَيْرَهُ بَأْيَدِيْكَهُ بَهْدِيشَهُ بَصْفَتَ بَعْزَهُ وَاضْطَرَارَ بَرَآئِيَ تَامَجِيبَ مَضْطَرِيْنَ كَارَتَهُ
سَازَهُ وَيَگَرْ بَرَتَهُ بَادَهُ كَهُ بَرَكَسَهُ اَعْتَراْضَهُ نَكْنَيَ دَآزَارَخَاطِرَ بَخْنَسَهُ وَمَجْبَتَهُ دَوْسَانَ حَقَ سَعَادَتَهُ عَظِيمَيِ
شَهَارِيَ - اَما اَذْرَاخَلَاطَ بَصَوْفِيَانَ جَاءِلَ اَحْزَانَهُنَافَيَ - وَيَگَرَ اَذْغَيْرَ خَدَاطَلَبَ نَكْنَيَ كَهُ جَابَ بَزَرَگَ
وَسَرْقَيِ طَلَبَ اَذْغَيْرَ اوْسَتَ - هَرَكَاهُ كَلْمَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبِّ الْكَوْنَى وَرَوْانَ بَنَيْرِيشَيَ كَهُ نَيْدَتَ مَعْبُودَهُ
غَيْرَهُ - بَدَانَكَهُ هَرَجَيْهُ مَجْبُوبَهُ وَقَصْوَدَ لَسَتَهُ هَمَانَ مَعْبُودَ لَسَتَهُ وَهَرَجَيْهُ هَوَائَهُ لَسَتَهُ خَدَاءَهُ لَسَتَهُ
اَفْرَأَيْتَ مَنْ اَخْنَنَ الْهَهَهُ هُوَاهُ لَهُ پِسَهُ بَأْيَدِيْكَهُ وَرَكْفَتَنَ آلَ كَلْمَهُ صَادَقَ باشِي وَمَجْبَتَهُ غَيْرَهُ
رَاهِيْهُ تَامَ اَذْوَلَ بَرَآئِيَ وَقَبْلَهُ تَوْجِهِ خَوَدَهُ دَارَهُ ذَاتَهُ الْهَيَ حَصَرَكَنَيَ -

يَا رَبَ زَوَّلَهُنَچَهَ مَنْ كَدَامِي خَوَاهِمَ

اَفْزُونَ زَبَرَادَ پَادَشَاهَهُ مَيْخَوَاهِمَ

هَرَکَسَ زَورَتَوْجَلَجَتَهُ مَيْخَوَاهِمَ

مَنْ آمَدَهُ اَمَ اَذْتُوْتَرَامِي خَوَاهِمَ

سَخْنَ خَوَاجَهَ اَحْرَارَ اَسَتَ كَهُ هَرَجَيْهُ دَيْدَهُ شَدَوَ وَالْسَّتَهُ شَدَهُهُ غَيْرَ اَسَتَ بَلْكَمَهُ لَا اَهْزَانَقَيِي مَيْ بَأْيَدِيْكَهُ
بَدَانَكَهُ بَأْيَسَ تَنْزَهَهُ وَتَلَقَّدَسَ هَرَكَجاً مَوْجُودَهُ اَسَتَ چَيْهُ دَرَعَالِمَ مَعَانِي وَآهَ دَاهَ وَچَيْهُ دَرَغَيْرَ آلَ مَثَانَ وَ
اَشْبَاحَ اوْسَتَ كَهُ اَذْ اَطْلَاقَ تَنْزَلَهُ نَمُودَهُ - پِسَهُ بَرَتَهُ بَادَهُ كَهُ سَعَيَ كَنَيَ كَهُ اَوْلَأَ حَصَرَتَهُ خَوَدَهُ دَارَتَهُ تَوَيْهُ
عَلَاهُرَسَازَهُ تَاهُولَ دَرَالِ مَقَامَ اَسْتَقَامَتَ بَيَانِي - هَمَمَ تَفَصِيلَ اوْ دَرَهُمَهُ بَهْدِيشَهُهُ اوْ دَرَيَانِي وَحَقَ رَازَ
بَاطِلَ اَمْتِيَازَهُي نَهَآكَلَهُ چَوَوَنَ نَابِنَيَايَانَ بَيَهُ تَفَرَّقَهُ وَتَمِيزَهُمَهُ رَاهَدَادَانِي وَخَدَأَگَوَنِي

رُبَاعِي

سَوْفَنَطَانِي كَهُ اَذْخَرَوَ بَيَهُ خَبَرَ اَسَتَ

گَوَيدَعَالِمَ خَيَالَهُ بَيَهُ اِنْدَرَ نَطَرَ اَسَتَ

آرَمِي عَالِمَهُمَهُ خَيَالَ اَسَتَ وَلَهُ

پَيَوَسَتَهُ دَرَوْحَقَنَقَهُ جَلَوَهُ گَرَاسَتَ

لیس کمثلاً شئٌ و هو السیح البصیر والسلام علی من
اتبع الهدی -

بیکے از مریداں که خیلے از عمر صرف خدمتِ ماؤک کروه بوده اور انواع گرفتاریهای میستی ہے
پوصلان او درین دیده بودند که بخلافت وصفت قدر تربیت و پرورش فرمائند۔ مدتها در ذلت
بیکے اعتباری از هرچه تمام ترمی و اشتیادش و بظاہر نادر بود که با واتفاقه فرمائید بآنکه در تربیت
اکثر مریداں بلکہ بمهہ صفتِ جمال و عنایت غالب بود و ہمیں مخلص بدین فتحم تربیت اختصاص یافت
اما بعد سه چار سال کما بیش صحابه اللہ که از رحونت ہاوسستی ہاکہ غایت الغایت قوی بود و ایں مخلص
از سعی خود و سنت شمشتہ بود و برکت الطاف حضرت پیر و شیخ علیہ الرحمۃ حق سبحانہ خلاصی خشنید
و آن مهر ہا بالا نوع الطاف تبدیل یافت چنانکہ و رجیز بیان نیاید این رقصہ بآن مخلص نوشته شد۔
للہ علیم۔ بیکے از مریداں حق تعالیٰ از قید ہستی و حجاب خود پرستی برہاند۔ قوی ترین اسباب
وصول احتراء و احتناب از آزاد خاطر ارباب قلوب است۔ بزرگان فرموده اند کہ اگر کسے از عرش
بیفتد آن قدر نیست کہ از دلے بینیت القصہ خوں می باید خور و تمام ادب باید شد تا طفل نیاز و عجز
بظہور آید۔ از پستان مکرمت شیر تربیت و رجوش شود۔ بخود پیری و خود مرادی و قلمدری کارے
پیش نمی رو۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَةُ غُچُون خاطر دلی نعمت شما بسیار متوجہ مراجعت شماست
البته عنان بعزمیت بگردانید تا خواہید آمد ما را خواہند گذاشت ہمیشہ و زنگیف طلب شما خواهیم بود
مع بیا و ازول من کوہ ہائے غم بودار
زیادہ میبا غفران فرت۔ والدعا۔

ای رقصہ و فقر و نیستی و تغییر بعلو ہمت و بندگی نمودن بر و فق شرع مشریقت و از حال سکر
که مانع رفاقت شرع باشد حسب تن مناسب حال طلبی قلمی فرموده اند۔
بهم۔ بمناسبت حال طلبی چندان کہ می خواهیم که خود را در خلوت خانہ فقر و نیستی افگنده باید
نایود خود پسازم و شرکایت گرفتاری و خرابی خود در میان نیارم عیسیٰ نمی شود۔

ع. ولی ہمی گوئید کہ من تنگ آدم فرماد کن

شیرین ترا نکھ مطلبے کہ گریباں گیر طلب و قلق گشته از جائے در آرد بدبست نمی آید۔ پیر جام علیہ الرحمۃ می گوید کہ آسودہ تریں خلق در ہر دوسرا غافل چند ند که در نفس آخر تائب و موفق نہیں نہ خوش گفتہ است۔ اگر طلب حقیقی دراں وقت دامنگیر شان نشو و من کان فی هذن لا اعْسَمی ف هو فی الْخُرْدَةِ اعْسَمی۔ بارے بہ حال الحمد لله علی ما الغشم

ع. بلا و محنت شیرین کہ جزو با او نیاساتی

حضرت حق سچانہ با درخود بدارد و بہماں درد برد و بہماں در و محسور کند ہر چند کہ در نظر یا ریک بیناں و عالی ہمتاں حقیقت شناس بود و نابود امور یکسان است حقیقت سر را با فقر آرامی است۔ ہر چند کہ نفس و دل را بحکم بعد و غفلت گاه گاہ حرکتے بہت مقاصد خود می شود و آں حرکت سبتوت تجلیٰ ذاتی و ظہور غیب ہو بیت فرود فتنہ ناچیز می شوند۔

ع. صفت مغلوب را ہوتے بسند است

عائمه الامر بہت امتنال بعضی از عبادات مامورہ و اخلاص در آں بلکہ بہت تحصیل فقر و حقیقت بندگی آدمی محتاج است یا نکریک و فخر ادو با بیست او در سطوت تجلیٰ ذاتی تمامی سبوزند چوں اثرے از آثار شعور نماند و قضا و غیبت بکمال خود بسند دراں مقام استادون نقش و تعظیل است کار بندگی و بجز و مظہر شیون لامتناہی شدن دار و البته بہ حملہ خود را و مقام شعور می باید و اشت پشتر انکہ شعور وہ الگا ہی محفوظ باشند میری اللہ یے نہایت است بیچ و جہ نقصان راضی نباید شد کہ خلاف مرضی حق است حق تعالیٰ عالی ہمتاں را و دست می دار و والقصہ عین الوباب می باید شد عبادات بے غرض و بے عوض می باید کر د۔ قل ان سکنتم تسبون اللہ فناستی عومنی بکھر اللہ۔

امرو اجب الامتنال است ہر جائے فکما یکہ ہست والبستہ بمنابعہت سید الاولین والآخرین است صلی اللہ علیہ وسلم سید الطائف چنید بعد ادمی علیہ الرحمۃ می گفت کہ پیش مون شراب خود دن بر از حائل که مانع رکنے ائمہ کان شرعاً عیت باشد زعنوان اللہ تعالیٰ علیہ این است حق صریح و علم صحیح زیادہ چچ گستاخی کند۔ والسلام والکرام۔

در اینتاب از آنچه نباید و ترجم بخلق بودجه که مرضی شرع است بیکے از سپاهیاں که ائمہ رأ اخلاص می نمود صادر شده بود.

۵۷- بیکے از سپاهیاں - حق جل جلاله و عَمَّ تَوَالَّهُ بِعَيْنِي فضل و کرم معامله نماید و محتاجاً را در پرتو پراغ افزونه خود را هم قصود کشاید اِرْحَمْ شُرُحَمْ کلمه محقق است فهم بیمهل مشقال ذرۃ خیدگار کا - ہر چیز بکاری بدر و بی مشهور است ہے
آسائش دو گیتی تفسیر ایں و حروف است
باد و سماں تلطیف با و شمعت ایں مدارا

سیاست کہ بحکم شریعت غرائب ملت بیهقیاً محدث علی مصدرها الصلوة والتحیة مقرر شده خارج ایں حروف امریست باد و سمت و دشمن و نفس و غیر کردی آن سیاست بحقیقت مرد است بیکے از حضرت عالیه صدیقہ رضی اللہ عنہا پرسید که خلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق سچانہ در قرآن مجید است ایش آن نموده کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ چہ بود آن صدیقہ عارفہ فرمود که کان خلقه القرآن یعنی ہر کجا کہ بحسب قرآن لطف باسته نمود لطف می نمود و ہر کجا قهر قهر، او بنام اخلاق الہیه بود ہے
بود آنلئی کہ عکس خورشید وجود

جا وید و رو بصورتِ حصل نمود

با الجملہ مسلمان می باشد و تجاه منقاد فرمان المثلی
ع ایں مشوار مشوش میان شو

والدعا مع الاخلاص

طالب علی مسافر التماں نصیحت نموده بود اذ برائے او ایں چند کلمہ را نوشتم و ایں طلحہ متوجه زیارت حرمین شریفین زادھما العذر شرافاً و کرامۃ بود. در همان سفر در راه حضرت مدینہ رحلت نمود. وقت مصحوب بر قفا نے خود نیازمندی که لسبیت بخادمان ایں درگاه نموده بود ازان عبارات چنان مفہوم بود کہ برکت نورانیت ایں سفر مبارک و نذکار محمد علیہا حضرت ارشاد پنایی

طالب علم مذکور را رابطہ عظیم پائیں درگاہ حاصل شدہ یو دَاللَّهُمَّ مَتَّعْنَا
بِاللَّمَاءِ طالب علیکے۔ نعوذ بالله من عله لاینفع عاقل عاقبت شناس رالازم است کہ تحصیل علوم
را کہ عمل مقتضاتے آں ہا فرض است اختیار کر وہ عمر صرف تصفیہ ول و تزکیۃ نفس کند کہ جحاب میان
بندہ و آفرینیدگار عزم شناخت بجز و سادوس و خطرات و توجہات بصور اکوان دگرفتاری یہ ہو ائے نفس و
آرزوئے لا طائل بیچ نیست حضرت حق عز و اعلیٰ اذ ہمہ پیغمبر پیغمبر نزدیک تراست ہے
او بہما از ما بسے نزدیک تر

داندہ آنکس کو نہ خود دار و بھر

بازماندگی و دوری از اندیشه هائے گوناں گوں است و سرمایہ اندیشه صفات بشریہ
دقیقی قریں سببے و تخلیص و تفریغ باطن ازیں ظلمات التفات خاطر برگزیدہ از خود رستہ مظہر
رو و قبول گشته۔ قبول او قبول ورد او رد باید کہ و رویزہ دلہائے کنی و بصد عجز و نیاز و رو دلی
پیش آدی ہے گروہ در دلیش می گرد از گزارف

چوں نشان یا بی بج د میکن طواف

چوں ترا آں حشیم باطن بیں نبود

گنج مے پسند ادار اند رہ وجود

و صیحت دیگر آنکہ باہر کہ در باطن او طلب معرفت الہی نیست صحبت نداری از علماء دنیا
کہ علم را و سیلہ جاہ و تفاخر و زبان آوری ساختہ اند چنان اجتناب نمائی کہ آدمی از شیر ہموارہ
توسل بقربات و عبادات نبودہ و صلوات بر سید کائنات فرستادہ از خدا بخواہی کہ آرزوئے غیر
خود را از دل تو بر آ در وہ صورت لہیں الملک الیوم لله الواحد الفهار بظهور رہ ساند۔

سے کاریکہ در و منفعت نیست مکن

یار سے کہ در و معرفت نیست تکیر

والسلام والکرام

رُباعی

۷۴۳-۷ افضل دیدی که هرچه دیدی بیچ است
و آن حمله که گفتی و شنیدی بیچ است

سر نام سر آفاق دیدی بیچ است
دال نیز که در کنج خردیدی بیچ است

این رُباعی از فطرت عالیه و استعداد و لطیف بظهور رسیده، نشان تقریبی از باطن شعله می‌زند شاعر درین معنی اصیل بوده یا مرتبه باصیل چون ظهور کلام ام الہی در باطن کاتب و حی ببرحال طوبی‌له - تقریبی دید جمال اقدس از نعمت جمال است و الا از نسبت دید چیز نمی‌بینیم بجهت تخلی کنه ذات صورت منی بند در هاں تا هر زه برخود نه بندی علامت این سعادت تبرید دل است از مجموع نعم و نیوی و آخر وی و گردنی و بے نیازی از مجموع احوال مشاهدات و انجذاب و قلق و ائمی بجانب احادیث - آرے وجود تعطش مشاهدات با وجود نسبت تقریب از ساده لوحی بجهت ظلم و جمل انسانیه بظهور حی رسید که مورث بک و مکراست یعنی شامد مراد من اینی در برآید و در بسته من ازان جانب کشاید یا از نظر تلطیق محبوب و احاطه ام او یا از حرم اطلاع بحقائق رسید - پاچمه منفرد از آنچه در ای است ازان تنزیه و انقطاع شرط است اکنون آمدیم بظریق تحریک این سعادت عظمی اقرب طرق نیازمندی و دوام ملازمت و رعایت ادب باقصی العیاشت نسبت یکسی که باطن ش توجه راست بجانب امی پیدا کرده باشد و خود را در ای توجیه بر ماد داده و از توجه نیز مفلس گشته باشد و بعد ازان تعلم و کریما مراقبه ازان ممکن عزیزی وجود والسلام والاکرام

این رفته بیکه از مردان مخصوص که در کسوت تماباں خوارامی گرفت از روئی لطف نوشتہ بودند -

۸۴۳- به بیکه از مردان مخصوص - از کار رفته محمد الباقی عرضه اشت می‌کند که خاطر پر پیشان راهنمای مگر ای اینجا بدانه و انته ای حق سبحانه و تعالی علی علیت حقیقی آن حضرت مسالت می‌نماید باجابت

مقبول گردد و امید که فضلاً و کرم آزادی طرف نیز این معنی به ظهور رسد و تا هنگام شرف دریافت آگاهان
گوشش خاطر درین بنا شد مخلص پنایا لغتی وجود و بدل روندگان را دوباری است که با مدار آن دفعه
نیستی طیران کرد و بسوار اعظم فقری رسند خوش وقت آنکه توفیق قبول این دو مسافر غیبی پیدا کند
والسلام على من اتبع الهدى

ایں رقصه در صیحت پرسی بیکے از آشنایاں قدیم نوشتہ بودند.

۶۷- حق سچانه و تعالیٰ بآخودار و از آندیشه غیر خود رهائی کرامت فرماید الا حکم شی
ما خلا الله باطل هے خدا است آنکه نه مُر و است و جاوداں جامی
و ما سوا خوبیاں مزخرفت باطل

حقیقت ایمان کندن و پیوستن است داع

لیعنی از غیر کنی ول بحمد پیوندی

در ویشی ہمان این معنی را از پرسخود سوال کرده وجواب بقطع ماسوی شنیده سکر حال سایہ
را برآں آورده که در برابر گفته که پیش از این اگر ایں حقیقت را می شنیدم بتونیز نے پیویتم العرض
ه تعلق حجاب است و بے حاصلی
پھر پیوند ہا بگسلی و احصالی

زیاده چھ گستاخی کرده شود عذر لقصیر ہر چند که در چیز قبول نیفتد ناچار اشارت کے بان میباشد کرو
خدمت طغیتی که از بے قوتی و صنعت ما با خبر آند و از شیوه تکلیف مبررا اند بیان عذر بآخوند
کرد حق علیهم است که کبر و هستی و کاملی و خویشتن داری و عدم اخلاص و حقیقت نا آندیشه
مانع غایبت - والدعا

بیکے از علماء مخلص که بنا بر ضرورت معیشت بلشکریان ہمراہی اختیاره نموده بودند و دیگر
عصر دیگر ملک ہند تجھیں میعیشت بے ایں چنین صورتے مشکل بود و ترک این علاقہ و رنظر
عقلی زمانیاں مستبعد بی محل جی متوجه عالم نہ کو رخواست که ترک اسباب میعیشت نہاید و بایں

آستان را استان رجوع کند و آن سپا ہے کہ ہر اہ بودند نزد ایشان سبق می خواهد نہ۔ بیکے از مخلصان درگاہ که در ان شہر بود رجوع منود کہ سعی باید منود کہ حضرت ارشاد پناہی منع مشائی الیہ اذیں خیال کنند و تجویز فرمائند کہ ماہم باشیم و درس هم برپا باشد آن مخلص عرضدا شست لوشت متفضمن آنکہ ایں ولو لہ ترک ایں عالم مسطور خوب معلوم غیست کہ مستحکم باشد یا نہ مباود اتفرقہ بار عیال سبب عدم حصول جمیعت مطلوبہ گرد و بلکہ ایں مخلص گمان غالب داشت کہ ایں عالم طاقت محنت نہیں آردو درسے کہ منعقد است بر سهم می خودو۔ اگر ایں عزیز مدرس را از ترکِ معیشت و آمدن منع فرمائید صورتے دارو۔ درجواب آن مخلص ایں رقعتہ لوشته شد۔

۲۰۔ بیکے از علماء مخلص۔ ان بعض الظن اثر حسن ظن بدانایاں آخرت پیں آنست کہ طاعم فناے دنیا و پیے حاصلی اہل آن و جمال توجہ مطلب علیا ارباب بہت از خود و مراد خود گزشنٹ و از نگ مطلب قاصر و پیے حاصل بودن و از دائرہ وجود رستن خبر کرده باشد انکوں صاحب ایں دید اگر در ہر اسی شکر کہ جیسے نیت صحیحہ شرعیہ مجوزہ نیست فتویے در اسباب تحقیقی مقصود مذکورہ بلیند چوں تو اند خود را بودن لشکر قرار و ادھم رزق فرزندان لا تلق بحال تو کل نیست اگر در خود ایں حال را بیاند فهو المراد والابصر درست با مور مجوزہ شرعاً نیت چنگ می باید ز و بالجملہ سر کجا کہ عبادت حق سبحانہ بوجہ اتمم بجهور می رسد و یہم تفرقہ نیست آنچنان را از دست نہی باید داد و شک نیست کہ تعلیم علوم دین از عبادت است خصوصاً وقت کہ متعلم منقاد احکام ویں شود و بصیراً بید عالم در امور شرعیہ عمل نماید باقی علم خدمت مولوی نسبت بفقراً اتم است

درجواب مخدومی ملا ذی اسٹادی میاں شیخ احمد سلمہ اللہ کہ متفضمن احوال میاں محمد صادق و میاں مسعود ہم بود صادر شدہ و چنان بجا طراست کہ اول کتابتے کہ حضرت ارشاد پناہی باسٹادی مشائی الیہ لوشته اند این است و محمد صادق مذکور کہ ولد اسٹادی مشائی الیہ است از طفولیت بعض آثار و احوال عظیم او ظاہر است و در زمان نوشتن ایں عنایت نامہ بغاہیت خود سال بود بنابر حکمتے و مصلحتے ابتداء و کتابت بنام ایں ولد شریف ایشان لوشته شد۔

۲۱۔ ب محمد صادق و شیخ احمد سرنہدی۔ قرۃ العین محمد صادق برخورد از ظاہر و باطن گرد و احوال

چنانچه ظاهر است مستوجب حمد است بہمان حضور خود باشد از غیبت و استغراق اندیشه نیست
 انتشار اللہ العزیز سکر بصحو آید و فنا در شوران در ارجای بد مولینا محمد مسحود از کشف قبور اعتبارے
 نگیر و کشوف صوری محل خطاب و لغرض است سعی کند که حضور مع اللہ ظهور باید و دوام پذیرد.
 هر چند که عالم صاف شده باشد و معلمی نور آنیت نیز از نظر بصیرت استقاطی افته در کار سعی باشد
 که جذب خواجہ و حضور ایشان دیگر است. در این موطن از ماسوی نامم و لشانی نیست و گاهی با کلیه
 و اکثر بالاصالت توجیه است. اکثراً جهت هم را گاهی بجهت وقت و قیمت بجهت خصوصیت که عرش مجید است
 در وهم می آید و گاهی بجهت را فرمی گیرد و معنی دال اللہ من و رائهم هیچ طبیعت ظهور می رسد.
 اگر صور مصنوب و اشکال صوری محول شده اند و بمحض خیال و سر ارب بجهت اعتبار اتفاق و در همین وقت
 نزد دریافت خیالیه صوره هو الا اول والآخر نیز در میان می آید و اگر در وقت فروگرفتن آن توجه
 همراه بجهات را یا اکثر را صور و اشکال بالکلیه محو شود و صفات ائم ظهور رسید و معنی لیس فی الدیار
 غیره دیار و جلوه آید بوش باید بود که کسوت محنوب در میان است لا اقل صفت حیوة
 و هستی اکنون یک واقعیه دیگر بشناسند که در وقت ظهور دال اللہ من و رائهم هیچ طبیعت نیز می تواند بود
 که همچین کسوتی در میان باشد بارے تحقیقت هم قصود در دریافت و ادرأک نمی آید آنچه عشق و
 محبت است و تصفیه سراز ماسوی و آن تحقیقات که در رساله سلسلة الاحرار نوشته شد. بعایت
 عامل ض است درین محبت آن را بگزارند و مدار نبرادر اک متعارف به نهند حضرت خواجہ نقش بندی
 خواجہ پاک نقش و پاک نفس

قدس اللہ ناصرہ القدس

می فرموده اند که هر چه دیده شد و انتہ شد آن همراه غیر است بل کلمه لا آن را نهی باید کرد و میان
 شیخ احمد نیز حال خود را درین صحیفه مطالعه نمایند و بدآنند که تا استغراق و استهلاک در حضور ذاتی و
 وحدت اصرف ظهور می رسد. اصل ای سلسله اسم فنا برای نمی نهند و آنکه ما بپوییم که یک دلجه
 دیگر در میان است این است تحقیقت این سخنان مشنا فهمه معلوم می شود با وجود برائے
 خاطر شما و شیتم و السلام والاکرام

اين رقصه بسيكے از مخلصان درابتداء نوشته گوئند.

لامم۔ به يكى از مخلصان درابتداء بعبارت تيکه ترجمان حال اين بىے حاصل تو اند پود۔ مرغم تکلف است بنار عليه ازان مقوله اغماض عين نواده بدعا کے سلامت قلب واستقامت عمل می کوشد حق سچا و تعالیٰ طاہر را معتقد فنا کے شرعیت و باطن رادر استیلاست حقیقت دارد۔ فوق همه سعادت اين است قبول دعا و ظهور تصرف لازم کمال نیست۔ ۴

تمیاش اصول کمال اين است و ليس

چوں در عمل تمام انقیاد و متابعت شدی و در علم بتعین دیے نہایت وجود تو اذمیال بخا
بعد ازاں اگر تعین نمود هم تو اند ۵

رو در وکم شو وصال اين است و ليس

بعد از ظهور حقیقت وصال صحبت و اصل کبریت احمر است و مفید کامل گو منظر تصرف
نباش۔ بار سے آنچه از سخنان اکابر دین فهمیده ايم و مطلب باطن ما آن است حصول اين چنین
سعادت است رزقنا اللہ تعالیٰ و ایا کھو چوں از عنایت نامه اشرفت بُتے آن می آيد
که قبول دعا و افاده تصرف را داخل مطالب و اشتره باشد پفع آن قلم جریان یافت۔ اميد
گاهایمت بران گداريد که خاطر اهل حقوق خصوصاً والده از شخاور بار تباشد و الله العظیم
که نشرط اعظم در وزو و موهبت الہی ایں خلق است باقی حاکم اند و دان رجدیہ الہی و قوت حال کیفیتی
که اختیار از دست رو دیگر است ما بران اطلاع نداریم اگر پیدا شدہ غذر رامی خواهد القصہ
مدار این راه بر تیز سو شی دنیز گوشی است تقلق و اضطراب و دید بعد و نقصان و مضطرب پودان دل
احکام الہی بتوسط خاطر جوئی و سلیم ولی مقصود افرینش است مشاهده خود در عالم ار واخ رحم بود خواه
ابوالمنظفر که معاصر شیخ ابوسعید ابوالجیر نو و می گفت که هشل ما باشیخ ابوسعید چوں کاسه از زان است
که یک دانه شیخ است و باقی من و چوں شیخ شنیدند تو اضع نمودند و فرمودند که آن یک دانه تیز
ایشانند مایرج نه ایم می گفته اند که آنچه مردم در قطع بوادی و مقادی یافته اند ما و چار بالش صدات
یافتندیم۔ فی الواقع این معنی رایج پیغیر حالی نیست۔ نیازمندی و شکسته ولی می باید آن نیز در اغلب
بار سے از برائے خدا خاطر ضعیفان را بیه ضرورت شرعی شکسته نسازند۔ در جمیع سخنان اول اذمیان الین

مُهُود کی نگرانی شدہ اندکہ مولانا علاؤ الدین مکتب دار می فرمودند کہ یک بار خاطر پر فقیر از فقیر دربار پود و حسب شریعت حق در جانب ہیں پوچھ دیکھ فکر فطرہ درگردان انداختہ سر بر زمین نہادم و عذرخواستہ با وجود سی سال است کہ زیان آنرا در خود بخیم در نفخات در ذکر بعضی از اکابر مذکور است کہ در نصیحت بعضی از طالبائی کر خدمت والدہ را گزارشناز بخیم رفتند۔ فرمودہ اندکہ من سی رج پیادہ بے زاد و راحله کر دوہ اصم بتویم دھم تو اضافے خاطر والدہ ہیں دہ۔ زیادہ چھ گوئیم۔ والسلام۔

ایں رقصہ بیکے از مریداں شرف صدر یا فتح
۳۴۳۔ بیکے از مریداں۔ عرضداشت دو تریں مخلصاں محمد الباقي نبی و اندکہ چھ تو بیدندے دلے کہ
مرات شیون وحوال خود شدہ محظی بدمت آروونہ بامی کہ بقوت فضاحت تمثالي از شکست و
ریخت باطن بوعصہ ظہور بزگارو۔ العقصہ ہماں طفلم کہ نہ از مرض انکا حرم و نہ از بیان ایں کہ بور سر آنم
و باطنہار پوچھ بید طریق ترقی می کنتم نیز از قوئی تریں مرضها است ۔
ہر چہر گیر و علٹے علٹے شود

ایں ہاہمہ یک طرف خود را بر شاہراہ فضل و کرم انداختہ امام۔

تو بعلم ازل مرا دیدی

و دیدی آنکہ بعیب بخربیدی

تو بعلم آں و من بعیب ہمال

رو مکن آنچہ خود پسندیدی

عروہ و شفیعیں قبول است حق سبحانہ و تعالیٰ آثار و برماست آں بظہور رساند۔

مخلصی بعائست الہی و برکت صحبت عالی حضرتی الشیان اندکسب و معیشتی کہ داشت
قطع نظر مودہ پوچھ وریں وقت بحسب ضرورت و حکم سلطان وقت از شرف صحبت دور افادہ
پوچھ۔ ایں رقصہ ہوئے او لوشنہ پوچھند۔

۳۴۴۔ پر مخلصے۔ الحدیث۔ انہا الاعمال بالثیاث ولکل امر عزم ماذوی فی من کانت

هجرت الی الله والی رسوله فهجرتہ الی الله والی رسوله (الحدیث) مبارک باشد
 هر که تهنی کبیسه تر آسوده تر خصوصاً درین وقت که ونیا طلبی و عزت جوئی غمین بیه وینی و پشم از آخرت
 پوشیدن است آنچه ساقاً مرقوم بود ن باختیار ما بود شکسته ولی هاین خلق بیک باز خاطر ندارد
 و رلود و رتحت سلطان شفقت علم التعظیم لامر الله جمال خود را اذما پوشیده قلب الموسمن
 بین الانصیعین من اصلاح الروحین دیقت بهایکیف دیشاد با این تکریم خان بر سر آنهم که
 تعظیم امر والده در اموریکه علماء دین پور فرار واده اند اهم امور است تحقیق و تقوییم بلخ نموده
 ساخته و چیزی اخذ مدت باشند مرضی ولی لغت است آنست که خود را بجانب کامل بکشند و بجهت شکامد و
 معاشی با مداوایشایی در این جانب بگیرند چنانچه بزرگ که والده ایشان و بعضی از عورات
 دیگر این معنی را ظاهر ساخته اند انشاء اللہ العزیز آنچه مرضی حق باشد بر آن قرار باید سخن خواجہ عبد اللہ
 انعامی است که اگر خواستی داده و دادمی خواست غاییش درین میان نازه و محبوبی های رود.

ایں نیزه لائیشی است - مثنوی -

چه خوش نازمی است ناز خوب رویاں

زدیده راندہ و زدیده جویاں

پچشی نان بے اندازه کردان

بدیگر چشم عذرے نازه کروان

اگر نیک و نگری از تو همیں طلب و نیاز مندی دلیله آرامی مقصود المرت نهایت محبت
 آن است که چون محبت طلبی نماند مثنوی -

عشق عاشق چو سرکشد بجمال

باشد از غیر عشق و تاریغ بال

عشق را تبدیل گاه خود سازو

ول ز محشوق هم به پرواژه

ایں جا است که در عین هرا و از مراد نا مراد شوی -

درین مشهد که انواری تخلی است سخن دالم ملے ناگفت اول

دریں روز باراً واعیہ سیر و لایت قوی گستاخ امید است که بعد از چند روز دیگر متوجه شویم
خدمت میان شیخ الہزاد خویشتن دادی کرد و خود را بپولن و ماندن قرارداده از طوبی ملن
یکون معه فیغور فی راعظیها.

بیت ۵

و اغ بے یاری و درد بے دلی

ایں ہمہ بونخود پسندیدیم و رفت

باوے ہر کراہ لازم است الشان عیسر شود غنیمت است حقاد بحر نت اللہ کہ نہ تسلیت ہی یکیم
ہے و اویم نشان دُن گنج مقصود تو

گران سیدیم تو شاید برسی

۲۵- حق سبحانہ و تعالیٰ الطیفہ السائیہ رابر صراطِ مستقیم وارو۔ توجہ راست کہ گرفتار عجیب
ذات بودن و از حقائق توحیدیہ و فروع آں پر ہیز نمودن است بالآخریں ہمہ سعادتہماست
انشار اللہ العزیز صفاتے آں واستقامت و راں روزے گردد۔

ایں رفعہ بجا تب کیے از امراء کہ اطمینان اخلاص می ممود بالتماس و مہماں نہ ملخصے کہ خود را در
لباسِ حملہ امی گرفت فلمے فرمودہ بودند و آں مخلص را دریں التماس میا خرت بود۔

۲۶- به کیپے از امراء حق سبحانہ بمعنیہما تے مقاصد کہ ہمگی امر و فرمان شدن است رساند اعتماد
جز بیان نیست کہ ما و بایست ما پر خیزد و شرع و بایست آں بجا تے ما پر نشیند تحقیقتاً آدمی
کہ بہ نزدِ اہل تحقیق رویح مجدد است مجال مخالفت بمعیود خود ندارو۔ چہ از عالم امر است و
عالمن امر علی را گوئند کہ بجهت عدم قدرت بونافرمانی تھی اذ فعل نامرضی و راں عالم واقع
نشدہ۔ اما چوں تعلق جستی بایں پیکو ہیو لافی پیدا کرد خود را در و گم ساخت و با حکام اوتحقیق شد
تاب بحدیکہ بسیار سے منکرو وجود خود نشدند و ہمکیل محسوس را بخودی برداشتند۔ فانی از خود و باقی بھیو ای
زیستند و بعثے پیشتر فرورد نہیں و نہیں و افر کسب کر وند ہوا تے نفس را خدل کئے خود والستند

بتمام منقاد فرمان او شدند القصره مقصود آدم شدن است که از لوازم آن است انقیاد و سلیم نام
دایی جز به فنا تے نفس دروح پرست بیا پیدا ایں فنا اگرچه موہبہت محض است شرائط دارد و آن
سبق که درخانواده عالیه بعثتی از بزرگان است بجمله شامل شرائط است و بی آنها حصول مقصود
بطريق سلوک متعدد و محال است و آنچه گفته شده همگی مقصود آدمی شدن است بجهت آن است که
ویگیره هرچه از احوال و مقامات است از نتائج است. اگر وریں نشان بظهور نرسد درنشا آخر که محل
ظهور نتائج است بوجه اتم و اکمل بظهور خواهد رسید. سبحان اللہ چشم جاتے احوال و مقامات است
وصاحب دوستی که بفنان تے نفس دروح مشرف شده لاید استیلا تے شهود و چهره مطلق و صفت
لازم باطنی شریعت است. رباعی بزرگوار این است به رباعی

امر و زوریں خانه بیکے رقصان است

که کل و کوں پیش اویسان است

گرد تو ز الفعاف رگه جنبان است

آن ماہ دران کار تو هم نیابان است

غذل تے روحش شده من جیش الباطن نه خبر از خود وار و نه از ماسوی اگرچه من جیش انتظار
حاضر است بر آنچه می رو و کما تقریب عنی الدنا اهیین الی الله والسلام علی من اتبع الهدی
از جمله فنان تے روح آنست که دنیا و آخرت در نظر همت چیز در آید و در کشف عظمت و کبریا تی
حق کرامات و مقامات از خاطر محو گردو. طالیبان و سالمکان راه حق را قدم اول و طريق توبه بصور
است چه چو هراول را که آئینه جمال نمای مقصود است بقدر معصیت و نافرمانی و خفخت و پریشانی
ظلمت و زنگار فرمی گیرد و بقدر ظلمت نابینایی و ترد و ظهور می کند. همه خوابی ها ازین جاست.

مقاصد را بچراغ دودنگ آلو و ده بمعاصی می جوئند. لا جرم بدلالت مظلوم هر اسم المصل در باوریه
جهت و هاویه بطالت می افتد سخن آن عارف رباني ابوالحسن خرقانی است که راه و وسیت بیکے از
بنده حق و دیگرے از حق په بنده. اول همه ضلالت بر ضلالت است. دو هم په بایت په بایت است
آدمی چوں آئینه دل بکمال صفات رسید و نور ظهور ہستی حق نایاب شد محنی یکدی اللہ نورہ من پیشا
روشن می مشود و حقیقت ایمان روئی می نماید. اکنون و هرچیز رجوع پدری می کند حق می کند

قلب المون عرش الرحمن ایں جاست یاں دل ختنہ اسرار و صرف چندیں ہزار دوڑ
 نشاہوار است بخطاب حضرت نبی علی صاحبها الصلوٰۃ والتحمیۃ کہ استغفت قبلہ کت باس
 چینیں صاحب دولت است الغرض چوں بتایپر کسم الہادی ارادہ وصول مقصود حقیقی د
 مشرف شدن بایمان تحقیقی در صاحب دولتے پیدا شد۔ قدم اول آن است کہ در پرتو تو رور
 معرفت و ایمان بہ بلیند کہ گناہ زہر قاتل است و دے یاں زہر بسیار خود وہ وبھلاک نزدیک
 رسیدہ بضرورت پشیان شود وہ راسے در دلش پدید آید و در مقام تدارک آید چوں کسے
 زہر قاتل خود وہ پشیان شده و ازاں ہراس انگشت بگلو فرمی برو و تدبیر دار و می کندتا آں
 اثرے کہ از زہر حاصل آمدہ از خویش بیرون کند ہم چینیں چوں بہ بلیند تائب کہ ہر شہوت کہ راندہ
 است چوں انگبیں بودہ کہ در زہر تعجبیہ بودہ است در حالے اگرچہ شیریں بودہ باخرا اثر پیدا کند
 دوڑے پشیانی پدید آید برگزشته و آتشِ خوف و پشیانی شرہ شہوت گناہ را بسوز و آں شرہ محبت
 بدل شود و عم کند کہ گزشته را تدارک کند و در مستقبل برسراں نشود۔ ہمہ حركات و سکنات بدل کند
 پیش ایں اگر با اہل شادی در بخ بود اکنوں با اہل معرفت باشد پس نفس تو بہ پشیانی آمد و اصل
 آں نور معرفت و ایمان و فرغ آں بدل کر دن احوال و نقل کروں جملہ اندام ہا از معصیت و
 مخالفت و روئے آور دن بطاعت و موافقت۔ پس صاحب ہر نفسے را کہ ایں معنی ظہور نہ سد
 ہر رنجیکی کشید ضائع است و بیووہ باید کہ آگاہ باشد کہ ہنوز از طالباں نشده طلب حق حقیقی منبعت
 از معرفت و ایمان است و نور ایں ناچار آں معنی راظا ہرمی سازد و اگر صورت طلبی در نظرش
 می آید منشائے آں طبعی است کہ بخطوطِ نفسانی خوگر فتہ چہ در شنیدن مقامات و احوال ایں طائفہ
 و بزرگی شاں ایشان خود را و احوال خود را ناقص و ناچیز می باید حب جاہ عن الناس و یا عنده الخلق
 و حرکت می آید و خلقے در پیدا ہی شود امامڑہ نداردا رے شرہ آں دم و بد کہ یقین بداند کہ ایں احوال
 مقامات بوڑیں بشریعت حقہ بھم رسیدہ باشد و در مقام ورزش افتد ناچار از مخالفات روگزاند
 و بوافعات بیارا مر صورت تو بہ بدرست آرد بلے صورت طلب جزو صورت تو بہ بیندہ تا آنکہ ایں
 نیز ہجڑ بوز ایمان بشریعت بدرست نیا یہا ایں مقدمات روشن شدہ کہ تو بہ نیز ازاں جانب
 است چہ ظہور نور معرفت و ایمان ازاں جانب است ایں جاسخن قطب وقت خودی شیخ ابوالحسن

خرقانی رحمۃ اللہ علیہ را معنی دیگر بدست آمد مخفی نماند که توبہ را درجات است. درجه اول توبه اند کفر است بعد از این اذایمان تقییه‌ی بعد از این از صفائی که تحرم این معااصی است چون شره طعام و شره سخن و دوستی مال و جاه و خدر کرد ریا و امثال این مهملات بعد از این از دسواس و حدیث نفس و اندیشهاست ناکردنی بعد از این از غفلت از ذکر حق و اگرچه ساعتی باشد چون درجات ذکر را که عبارت از حضور و آنکا هی است نهایت توبه را نیز نهایت نخواهد بود چه توبه از هرچه ناقص است واجب ولازم است پس در قدم اول پیشیجان شدن از هرچه گزشت و عزم بر انکه در آئندہ آنچه قدرت و اشته باشد بوسراں نیاید از لوازم طلب است این پیش توبه اگرچه در قدم اول ظاهر می شود هیچ وقت از سالک منفک نیست سخن سهل تسری رضی اللہ عنہ که توبه آن است که گناه فراموش نکنی. نظر سے برای معنی هم وارد چه توبه هرگا پیشیجان از جمیع جهابات و منازل باشد هرگز با خرمنی رسید امریک هوالرامی با دل قدرنامی اللہ چون انجذاب از مبد و حقیقی شده نظر باطنی شد برانجا افتاده هرچه ورمیان است گناه و اشته بھی نظر جمیع مشاہده را بر مجاہد هقدم و اشته اند و آن نصوح که صفت توبه افتاده فحولی است معنی فاعل یعنی کثیر النصح و کثرة النصح بھی اعتبار می تواند بو و اگرچه معانی دیگر تبریز وارد و بعضی از آنها این است که حسرت و پیشیجانی توبه چنان لازم تائب گرد و که قدرت براراده اقدام بر گناه نماند و آنچه آن بزرگ گفته که توبه آن است که گناه فراموش نکند مطابق این است و آنچه از سید الطافه چنیده روی است که توبه آن است که گناه را فراموش کنی هم از روی این است آنچاید و اشت حسرت و این جا فراموشی حلاوت فالتصویح مبالغة الناصح بمعنی قوى النصح غایة اشت اذکر شرة النصح بمعنی انهاینصح التائب لحظة بعد لحظة فيحفظ عن استماع حذیث النفس و تلبیس الختام فی اظهار المعااصی المهملکة فی صورة الحسنة —

ای رفعه بکیه از خلفاء و رجواب عرضیه که رسیده بو و قلمی فرموده اند
۷۴- بکیه از خلفاء حق سبحانه و تعالیٰ یو ما فیو ما آثار عنایت و انوار بهایت را در تنز ابد

واد دو سخنی ور باب در دیشی که بطريق را بطریق مشغول بود و در سطوت آن مغلوب و غائب گشته نوشته بودند. این نوع پیزیز با چه لازم است که از ما پسند و را اوقات صاف از اکابر با هم از رو عالیت فقیر تحقیق نمایند و اگر بنام کاه تحقیق نشو دلیل بطريق خفیه بیه و قوت طالبیان بنویسند باز می مصی ما مصی اکنون علاج آن نوع مشغول آن است که روزی چند کار را نیز دنبیوی را بگوش بگزار و بجد و اهتمام تمام اوقات خود را مصروف آن شغل ساز و نا از هر انتبه صور و اشکال عجده نموده بشرف حضور پرسد و در این ممکن یا بد و در اوقات شخصی را متعین کنند تا اورا حاضر باز و اگر در اثنا شغل او توجهات متعدد پر و پرسد امید است که ز و تر عبور نماید اما بشرط طبیعی حقوق عیال دامن گیر او نباشد والا همان توجه اولی کافی است لیکن در اثنا شغل اگر در واژه کشف را بر و بکشند و بپرسیش بعلم مثال افتاد اصلاح و اولی آن است که اورا بگوئند که نقی آن وقارع بگند و نظر خود را از دائره وجود خود بپرسیل نیند از و بهمیشه سعی در صفا و فنا شے خود حی کرده باشد مگر آنکه غمیت دست و بده آن زمان خود را باز بی شور نیز و بگرد و اگر در اثنا شے بی شوری باز صور مثالیه ظهور کنند همان نقی را از دست نماید کلمه بازگشت را که خداوند امقصود من توی و رضایت تو در نقی و قارع دخل تمام است اگر پیش از فنا از دل این بیار و خواص اولیا مر ظهور کند محل اعتبار نساز و که اکثر لطف لطف ایشان است نه ایشان محقق شده که در انسان کامل هفت لطیفه است لطیفه قلبی و لطیفه نفسی و لطیفه قلبی و لطیفه روحی و لطیفه سری و لطیفه خنی و لطیفه انفی و محبر روح مظہر انسان است که جمیع لطف است و آثار ہر لطیفه علیحدہ چندان معنی نسبت آرچه ظہور ایشان مبشر سعادت است والدعا

بیکے از مخلصان مستعد بود که سر رشته و قافق ارادت و حقوق خدمت رانی داشت و ازین سبب متضرر می گشت این کتابت بر اساسه او نوشته بودند هنوز قاصد نبوده بود که لقریب غیر بپیش آمد و این وعده توجیه قریب عظیمه که درین کتابت است بدیگری از اصحاب کهار که حاضر بود ظهور رسید و همین کتابت را بایی عزیز و اند و افوارع ابواب ہدایت و ارشاد برو شاده شد.

۳۸- بیکے از محلصاں مستعد

کاری مکن که وحشت آشکم فزوں شود

صیدی چوں من ز دام و فائیت بردن شود

مرغ دست آموز شما مزار ناز کے دارد واللہ کم بدست ایں همسکین نیز نیست کم پڑانی
است گرم و سرد ایں بیایاں ندیده بالجملہ بناش می باید داشت بستت اللہ تعالیٰ بین چاری
است که اعزاز و اسطمہ و تعظیم او محترم فیض لا یتناہی است ۵

چوں ز مای بغير ما منگر

الحد ر الحذر ز غیرت ما

زیادہ گستاخی است الشمار اللہ تعالیٰ دریں پنج شمش رو ز متوجه شما خواہیم شد پیش
ایں بیک روزیک نوع اشارت شد با آنکہ اهمال در توجہ سجانب شما نکنیم و از همین جانعاتبانه
نیز همت بر ترقی شما بپندریم تقویق اللہ تعالیٰ تقصیر نخواهیم کرد و یکجا ظاهر شد که شمارانی الجملہ
بنگ و زل عده در میان است اینها در چین و قته چه مناسب انتقامے نمایند که از چین الیقتین
بحتی الیقتین رسیده در اونج بقا باشند تزول فرماند نا آثار پیش مشوق در عاشق مشاهده افتد معنی
مارمیت اذ رمیت ولکن اللہ رہی ذوق شود و سه کل ششی هالاٹ اکا وجہه
تحقیق رسید خلافت الیہ جز دریں موطن صورت نمی بند و سلطان مملکت تحقیق خواجه احرار
می فرموده اند که تا پر تو مارمیت اذ رمیت در باطن نیقتند واصل نمی توں گفت کسے را مگاں
نشود که این معنی در ظهور اوار توجہ بدست می آید ہمہ را بتعت ہمگی ویدن و یکجا است و ہمہ را بتعت
یکجا ہمگی ویدن فهمہ این معنی ظهور کان اللہ ولہ یکن معه شی است چنانچہ در ازل
بود بازم را لئے کہا کان و یکجا است و یقین است گنجائش تحریر و تقریب ندارد
والسلام والا کرام

ایں رفعہ بیکے از خلفا صادر شدہ

۳۹- بیکے از خلفا مجتہت نامہ آں خلاصہ محشر گاتہ مشیر از احوال و آثار رسید حق سچانہ و تعالیٰ

با علاس درجات و مفهوم ای مقصود بوساند کشوف ضمیر هیچ پذیر خواهد بود و که وقت بعایت نازک است زیرا همه جهات را نیای منسیاً می باشد که دو بنام قوی و مشاعر آن را بطره مقصود را بقلب صنوبر می باشد رسانید تا کمال حق ایقین ظهور رسید مانیز و بین پنج شش روز متوجه شما خواهیم شد . اشارت خواجه بزرگ برایں است که شمارا و بین وقت تنهائی نگزاریم . هر چند که از بین جانیز غافل نیستم چه تو ای کرد وارا خادم شما ساخته اند یاد او داد اذ اس آیت لی طاری بیان کن که خادیها
الحمد لله والمنة

۵۰- زادکم اللہ تعالیٰ شہود او صورۃ صورت و افعہ چمیل است انشاء اللہ تعالیٰ آن را که فنا سوخته شدن تعینات و ظهور آتش تحلى است بروجہ اتمم ظاہرگر و اندیمی باشد که متفرس و متحبس باشید که توحید وجوه و نسبت سابق چه رنگ پیدا کرده و چه تفاوت یافته اگر رنگ دیگر است و ترقی در درجات ہست پس صورت معنی جدید است والا صورت حال سابق مطلع افتاده بارے بعد از ملاقات متحقق "خواهد شد ایضاً
او بما اذ ما پسے نزدیک تر

این اشارت بکمال قرب است که از صفات سلبیه است و عبارت از عدم بعد است یا تفرقه با عنبار صورت و حقیقت است یا اثاب عبارت از صورت اصرت و یا اول عبارت از حقیقت و قرب مطلق است نسبت بمقید از صفات سلبیه است و قرب مقيد بمقدار صفات بتوتیه بلکه قرب مخصوص تو سهی بشیش نیست العالم و عیب لا یظهر قط . اصل است محقق و السلام

۵۱- ان اللہ یحول بین المرء و قلبه - کا ایسیت جامع مرظهور امور بخلاف ارادت را و ظور حق و فنا مطلق را که شعور بشور نیز نماند خواه مرء را عبارت از اندیشه بگیرد خواه قلب را یعنی لدفع شعور بالکلیه جزو شهود ذات اللہ عیسیٰ نیست و اگرچه ضعیف الحال و رابطه با محنی مطلع نباشد همچنین خواه مرء را عبارت از تعین اول گیری خواه تعین و اگر قلب را عبارت از احقيقیت جامعه که عرش الرحمن است گیری نیز تمام است چه مانع از ظهور آن

حقیقت مراوات و خواطر پر اگنده است و مجموع این ہا صورت تجلیات حق از من لحیلک عینہ
فلہ قلب لہ صاحب دل کسے است کہ بر تپہ عین رسیدہ است و مقرر است کہ ارادہ وجہ باقی
مسخر است چہ ارادہ بے شعور بھرا و مقصود نہیں و ہمیں شعور عبارت از عین است پوشیدہ نہاند
کہ تو چہ کہ نز و فقد ان شعور بعد از ظہور شنصالک راجی باشد با وجود که مطلقًا بے شعور نہیں است
و آسی نیز حاملے است مندرج در علم بے اوبا اوست فی الحقیقت ارادہ وجہ باقی نہیں بلکہ
ارادہ حصول اوست پس آزا کہ منتظر فات الہیہ باطلہ نظر منصرف باشد ہلک اوست چہ آدمی
بوجود دل نسبتے بآدم وارد ہے

ہرگز کہ بصورت آدمی شد خاصیت آمش نداوند
ایں بہمنہ زہر سری توں یافت تا نوبی قیم کجناہ نہادند

از اگر کیا ہے۔ از سهل تشریی پر سید نہ کہ مالیقین گفت اليقین هو اللہ اکابر طریقہ علیہ نقشبندیہ قدس
شیرازی تعلیم ادا و احمد فرمودہ اند کہ طریقہ مادہ و امام حضور و آگاہی است بے آنکہ پر اگنڈ کی عمریت و فتوی
تدبریت مختل شو و نواہ در لباس ذکر و نواہ در صورت توجہ و نواہ بت و سطرا بسط کیف ما کان مقصود حضور
مع اللہ است۔ ہرگاہ حضور یکیفیتی شد کہ شعور بوجود وغیرے مراجم اول شد آن حضور را وجود عدم
می گویند و ہرگاہ کہ ایں معنی ملکہ سالک شدہ مشاہدہ می گویند و ہرگاہ لغت حضور را نیز اذ غو و ندید
بننا سے تحققی مشرف شد ایں جامعی لا یعرف الا اللہ متحقق می شود۔ و دیں موطن نہ
ارواح است ز اشباح شہود بجانب مشاہدہ افتاد ہرگاہ لباس وجود حقانی پوشیدہ بظاہر آید

لے پڑھیں حق ناگاہ زسد اما بر دل آگاہ رسد۔ و داہم بر دل آگاہ رسد۔ و داہم مرائبہ و دلستہ است
بس بزرگ سبب قبول دلہما است و قبول دلہما تپہ قبول الہی است القصہ چوں حال بیں ہنوال است
روزے چند خود را بر قبیلہ نخود و ختن فرض راہ است۔ دیں طریق اور ادا ذکار مختلف نہیں است کہ بعد از فراغ
آنہا بر کارہا کے دیگر بردازند۔ و ز دیہما ہوش در دم است سخن حضرت مولوی خجستہ فرجامی مولانا عبد الرحمن جامی
است کہ اول چوانغ روشن می باید کرو بعد ازاں بطالعہ مشغول می باید شدیہ دل چہ رامے کہ داری دل درود بند
و دل چہ رامے کہ داری دل درود بند

ومجموع صفات خود را چوں چنور دخود نیاید تو اند بود که فضل الله مد و نماید و فضول و اجناس احیام را اعراض پر بینید و بودان اعراض را از معموقات ثالث نماید و دریابد و سرالاتحیان مانع شد را نجعه الوجود در آشنا کار اشود و بربان حال پایی ترا به مرتفع آید. - تباعی هـ

ما حق بد و حشم سرنه بشیم هر دم

از پائے طلب نمی شیم هر دم

گوئند که بچشم سرنوای دید

آں ایشانند من چشم هر دم

و آنکه در راه مسلوک تجلیاتِ الله را بعضی سه قسم نماده اند و قسم اول را که تجلی صوری است نسبت بمعنی دیان و اشتباه و قسم ثالث را که تجلی ذاتی است نسبت بمعنی دیان و اشتباه و قسم چهارم چشمی دیان و اشتباه اند باین طریق که قسم اول را و دشتم کرد و اند تجلی صوری و تجلی نوری نام نماده اند و طریقی اکابر صریح آن نیست از همکار الحاد و حلول و تشبیه خارغ اذفان است الامر در ظهور وجود عدم اسرار غایمه است بعد از این کار از رسیدن نهایت بعضی از آن اسرار متنکشف می شود و تجلی صوری و نوری و معنوی را در آن مشهد ممنون رجی نماید. اکابر در کتب تصریح باین معنی تکرده اند مانیز طریق متابعت پسپده قلم را از کسر از این طریق اذ تحریر آن نگهداری شیم.

بیکری اذ طالبان نوشته بودند

این کتابت را بتقریب بزرگ زاده مخلصه بر وفق استعداد او و نوشته شده که مائل بر انتساب علیاً فی قویید بود نوشته بودند. و چوں نسبت این سلسله نشر لفیه جامع نسبت است

له ادل در آمد اینها در فنا است که محل انوار تجلی ذات است. اینها رفع تعیینات از وجد ذات احمد می کنند: چوں مبد و مرجع همه ایمت حقیقت به یکیا متنکشف می شود مشاهده و منظر است امام نظر در میان نه نیم چوں شوی فای احمد بنی همہ منه قدس سرہ

از راه توحید مقصود حقیقی را هم بری نموده اند و اگر نه تقید توحید را با شیوه ایں بگزید گان جمع نمودن صورت پذیر نیست.

رسالت - به بزرگ زاده مخلصه بحضرت حق جل جلاله و حم نواهه اذ اطلاق تنزیل نموده درلباس روزگار افراد ارواح متحلی شده ارواح را از غایت لطافت قوت آن داده بهرچه متوجه می شوند حکم آن می گیرند و زنگ آن می پریند و از غایت امتزاج خود را ازا نمی شناسند چنانچه عامره ناس خود را از پیکره هبوبیانی اتفیا نمی کنند و ایضاً هر مخلوق ته جمیع عخلوقات را مندرج ساخته چوں ایں چند مقدمه معلوم شد بدانکه هرگاه روح تقید گر فشار می را بخواهند کهلباس تقید و تعلق از پر یکشند و بوطن اصلی خود بود بعضی اذ اذ کار را که حکم بزخ دارد من حيث الوضع مناسب اطلاق است و من حيث التلفظ والتخیل مناسب تقید موش او می گردانند سرعیا او بطيئاً علیه احصب الاستغدا و روئے باش جانب می آردو چوں رشته تعلقش ببدن عمنصری محکم است و معنده کس تو پر قلب صنوبی که معظم از کان اوست می فرمائند در همین شاهراه می در آید تا مشاغل بیرونی رو بانداز نهایات محظی شود قوت الامسه که مدار علیبه دریافت صورت بدان است از هم فروع ریز و چوں

له و رفقات قدسی آیات خواجه ما مسطور است که و اذ کر ربک اذ انسیت یعنی اذ انسیت غیره ثم انسیت نفسک ثم انسیت ذکرک ثم انسیت فی ذکر الحن ایاک کمل ذکر غایبه بازگشتوان طریقی را در مقدمه سخه و بخودی می فرمودند که مرامان خود را به آن بخودی درده ده در راه خود اول خدم بخود کن دانگه بخود لخود بخود راهنم ده

در اشتغال بفتراض و سدن مؤکده چاره نیست صاحب لمعات وی معنی میگوید ترک محظوظ غالباً بعد فراق محب می طلبیده هجرے که بود مراد مجتبی ازوصل هزار بار خوشنز کار بخود را نمی باید کرد بسی و اهتمام می باید کرد که ملکه یاد و اشت حاصل شود آن زمان هر میباشد که خوش آید بگندم اهستا و تو عشق است پوآنج برسی او خود بزه باین حال گوید که چه کن من قدس هذلا الدلائل فضل عن الوصول منه قدس سرمه فضل الدلائل معني عن الوصول منه قدس سرمه

معیت دُوح بادن ثابت است وجود حقیقی پرداز که پر توصیف حیات است تجلی نماید و پوچل
تبس ظاهر وجود با حکام حقائق الٰی موجب تعدد وجود بی نیست حقیقت منکشافت شود و فنا
و سنت و بدیچه تجلی معنوی معیت است و بقا تَّے مترتب بِ آن مردم شریٰ یبصر دُلی یُسْمَع
و کمال ایں آنکہ سے رہا سعی

عشق آمد و شد چون خشم اندر رگ و پوست
تَّاکہ در مراتبی و پر کرد ز دوست
اجزاء وجود من همه و سنت گرفت
نامی است ز من بمن و باقی همه اوست

واز انجا که المکمل یین درج فی المکمل است و رحالت شور بانقیار خود ممکن و ریس مفت هم
پر تجلی نوری که عبارت از تجلی بصیرت نور برینگ بیهیز بی شکل است می توائد مشرق شد چه ایں
فرود منزل است این است و قائق منزل وجود عدم اما وجود فنا در مقام لا یعرف اللہ الا
اللہ است و ایں فنا را فنا تَّے اتم می گویند جناب ارشاد مائب محمد و می و قبله کاہی مولانا خواجی
قدس اللہ تعالیٰ سرہ در اشارت بفناء تَّے اتم ایں بیت می خواندند که
درح و ذمت گرفتاری می کند

بُشْتَ گوئے باشی کہ رویت می کند
می فرمودند که تاثیر درح و ذمم باید کہ آن توجہ و شکستگی را که بجانب حق سبحانہ است
مزاحم نشود تا فنا تَّے اتم گویند اذیں جامعنی آن سخن که اذ خواجه بزرگ قدس سرہ مردی است که
وجود عدم بوجود بشیرت عو و کن را مآذ وجود فنا ہرگز عو و نکند معلوم می شود والسلام والا کرام

له ایں جا حقیقت روحانیت کو منظہر تجلی حق سبحانہ بنهت احادیث است خلور کند خواجه ما قدسی آیات خود می فرمائید
کو پریده شدن و تھی گشتن دل از ماسوئے حق سبحانہ دلیل است برمنظہریت مرتجی حق سبحانہ را بنهت احادیث
کو تسلیل معارف بحقائق اسماء و صفات ایں معنی تغذیه راست واضح باشد کہ گرفتار مساعدة نیز گرفتار غیر است ایشان
و رعین مردانہ از مردانہ اند - منه قدس سرہ

۲۵- دعا گو محمد الباقی در آگرہ گستاخی مفوده ایں کتابت سرمهبر امفوتوح ساخت و تیاز خود را در ضمن عرض مرسل کتابت اندراج مفود الشایع اللہ العزیز مقبول افتاده بہ جنید که ایں پروانجات همیشیم بر محل و کثیر الاجراست و دخل در قبول و چهاریاں او مورثه ثواب لیکن چچوں سابقه محبت و معرفت واشنجدت بیان شیخ رفع الدین واقع است در باب پروانه ایشان زیادتی التحاس اطماد می کند حسن امید آن است که در محل قبول افتاده ثانیاً گستاخی می نماید که مردمی است و وجه احتقاد از صلاح علم و معنی در ویشان و ارتباط نسبتی با کابر ایشان دارد و بعلت اختیار و بعضی حوادث ضروریه مبلغ دویست روپیه محتاج الیه او شده آن در ویشی در باب ایں اختیار بغاوت مفضله و متفرق است - ایں نیز راجحه انتیکه بجانب خواجه حسام الدین مستور ساخته اند جمع مفوده در محل لائق سهل الحصول تحواه فرماید موجب سرور دلهاست مومنان خواهد شد -

ایں رقمه بیشخ نظام تھائیسری که یکی از مشائخ وقت است و بمقتضانه آنچه اذ نبان ہر کب شنوده می شود درین زمان سلوک یتیم یک از در ویشان ہند با وہی رسید خصیص چشتیاں و چوں خود تحقیق عقائد اہل دین و شخص طرق اہل طریق نہ مفوده و با ایں اذ قوت فهم در وشنی باطن در اور اک سخنان طریقہ که باصطلاحی والبستہ نباشد فهم و ذوقی وار و واژ تصنیفات اکابر در مجلس خود حاضر مفوده ترجیح عربی و یا فارسی را از بعضی طالب علماء و علماء زبان دان شنوده قیاس با اول کش سلوک و منشر بخود تحقیق آن مسجیث می نماید و چوں علما مذکور در بیان ترجیحه و اصطلاح مردم غلطہ امی زند پھر فهم سخنان بزرگان از مشکلات است و تحقیقات و تصنیفات شیخ مذکور بدینی ترجیحه مسطوره است درین تضادیف لقصانها و غلطہ اطلاع مردمی شود و بواسطه گرمی وقت دامنیاز شیخ مذکور از اقران خود مرجع فعلی است و نیز بحسب ایں ترجیحات غلطہ امی لقصانها به بعضی اکابر و گوشتیگان اسناد می مفود حضرت ایشان نور مرقدہ بواسطه اطماد حق بالمشافه کلمات الحق بظهور رسانید و نیز ایں کتابت دران باب بشائر الیه نوشته فرستادند و بعد از آن دران سائل مسحوت عنده از بعضی یاران ایں عزیز و پدیده شد تغیرات تقریر می کند لیکن یقین نہ شد که شیخ مذکور که در اصل جو هر عالی وارد پی مقصود برده یا نه حق سبحانہ مشاہد الیه را وہمه طالبان خود را در شاہراه

شریعت دار و بکو و دبود جیلیہ صلی اللہ علیہ وسلم

۵۵۔ حق سبحانہ و تعالیٰ امیتھا سے مقاصد رساند مقصود ازیں ہمگستاخی جزو راج مذہب فرقہ
ناجیریہ کہ متولی اکابر ایں فرقہ کہ طائفہ عالیہ صوفیہ اند منظور است۔ تاہباد اسادہ دلے بغلط افتاد
و طعن ایں برگزیدہ گان را درول جائے وہ دیا خوش در ورطہ بداعتقاوی افتادہ ہلاک شوو۔
الغرض آں روز در خدمت ایشان بیان کردیم کہ کشف هنوت و جبروت داخل در تخلی صوری
است و کشف لاموت شایر بطور صاحب المفاتیح داخل در تخلی صوری است۔ چہ تخلی صوری
نزد آں برگزیدہ عبارت از ظہور حق است۔ در صورت ممکنہ از مکنات موجودہ فی الخارج خواه
از عالم حس شہادت باشد و خواه از عالم مثال خواه ایں صورت نور بے رنگ بے شکل بے حیز
باشد و خواه امر و گیر باشد۔ وزد ابو البرکات شیخ علام الدّولہ سمنافی تخلی نوری است د آں
متسطان ملوک را در بدایت تو سط دست می دهد۔ شما خود عنایت کردہ فرمودہ بودند کہ تخلی
در صورت نور بے رنگ بے شکل بے حیز تخلی ذات مطلق و دیگر در بیان مشہد اثبات رویت و
دریافت پلصیرت می کند و ایں دریں نشأۃ الانوار از خواص تخلی صوری است مذہب ثانی قطب المحققین
و برهان الموحدین خواجه محمد پارسا در کتاب تحقیقات مفصل بیان لفی رویت دریں نشأۃ کردہ اند
از جملہ عبارات قدسی سمات ایشان در اکتاب ایں است ہمہ مشائخ الفاق کردہ اند۔ تضليل
ہمکہ ایں سخن گوید و تکذیب آنکہ ایں دعوی می کند۔ و برآند کہ ہر کس ایں دعوی می کند حق سبحانہ و تعالیٰ
رامنی شناسد و ابوسعید خراز و چنید و دیگر مشائخ رحمۃ اللہ علیہ و تکذیب و تضليل مدعی ایں معنی
سخن بسیار راندہ اند و کتب درسائل بسیار ساختہ اند و کتب درسائل ایشان شاہد است
بریں معنی۔ تم کلامہ۔ مخفی نماند کہ تخلی معنوی در صورت علوم و معارف و اذواق می باشد و فرق
عظیم است۔ بیان علم و صورت مثالی۔ و مراد ایں علم علیم سالک است و تخلی ذاتی عبارت از
ظہور ذات است در صورت است کہ مبینہ تعین صاحب تخلی است و مشاہدہ جمال مطلق کہ
در فنا فی العذر می گویند معنی دیگر دراد۔ د آں عبارت از انجداب روح است۔ بچمال ہستی
حقیقی کہ عبارت از حقیقتی از حقیقتیات ذات است۔ پہ کیفیتی کہ شور بے ایں انجداب نیز نماند

بعور متوجهان بوجه خاص و مشاهده جمال ذات است و پرده همای آن بطور سالگان طریق تربیت
برگاه منتهی به آن اسم شود و مطلق گفتن باعتبار اطلاق اوست از تعینات گویند و تعین عبارت
از آن معنی است که از معقولات ثانویه است زام امر مشکل . داشت آن است و بگیر صور مشابه را
که عالم جبروت می گویند صفات حق ندانند صفات تحقیقیه علم و قدرت صفات اضافیه عبارت
از خالقیت و رزاقیت و امثال آنها است دیگر کشف مکونت وجبروت که با صدراحت شما است
و عبارت از کشف در عالم حس و مثال است بکشف در عالمی است که تحقیقت موجود است
دو بزواد عین وجود حق است نزد صوفیه موحده وغیره بوجود حق است نزد علماء و بعضه از صوفیه و
اگر به ناگاه کسے نه عین و نه غیر گفته باشد نه با آن معنی است که شمامی گوئید آن معنی مخالف عقل است
به آن معنیست که نه عینست من حيث الاطلاق و نه غیر است من حيث الوجود . و آنچه بزرگان در
صفات الهی گفته اند معنی آن در کتب مبین است . القصه اگر شمارادرین سخنان توافق باشد اکنون
تاچند سے از علمان محقق بلکه بعضه از صوفیه را نیز جمع کرده بیان ایں امور نمایم بنده و کمال کرم

در سفارش عالمیکه دولتمرے طلب نموده بود کلمه فرموده اند و ایں دولتمرد و رعایت
پیغامت موقن و وزمرة مصلحابود بحسب ضرورت بخدمت سلاطین مبتلا شد و تا وقت تخریج آنچه شنود
محی شو و میوز او صاعش بخیر مائل است و کثیر العبادات است .

۴۵ - پیکے از دولت مندان حق تعالیٰ و سبحانه عافیت امور را در مستحبات و مرضیات
فرود آردانت ولیٰ فی الدنیا والآخرة توفی مصلحہ والحقیقی بالصالحین ہے

بس گبر که اذ کرم مسلمان کروی

پیک گبر گر کرنی مسلمان پر شود

با الجملہ مقصد عین است ایں کہ ہمیتے بندید و فاتحہ بخوانید کہ حق سر و علی ایں فرود افتادہ عاجز
رامنگتھا ہے ایں مطلب بر سارہ بقیہ المقصود خدمت مخدومی اخوندی بحسب ارادہ شما ایں ہمہ
ساخت قطع کرده رضا و خوشنووی شمارا برقرار نہ کرد و آرام تحو و اختیار کردن پاداش ایں عمل نیت
مگر آنکہ شما نیز خوشنووی و رضائے الشان را بر مرا خود بگزینید احسن کیا احسن اللہ الکیم

اصلی محقق است دال الدعا مع الاخلاص -

۷۵- من از محیط محبت همیں نشان دیدم
که استخوان عزیزان بساحت افتد و است

بعون العبد تعالیٰ بولایت بمعنی رسیدم از جماعت که در مسند ارشاد و مقرر آن عدم عدم مناسبت
ذاتی تاثیری نیافرمت بشمرغان بقصد طازمت طاکه رفتیم . محمد العبد تعالیٰ بر منزل خود و بصفا و نظر آمد
خدمت مولوی بكمال تحریر باطن آن آثار معرفت ازویان شعر ایشان که درین ایام در اهمام آنند
ظاهر و مهود است و سه روز آنجا بودم زیارت هزار فان المحققین و محمد مطرشدین
حضرت خواجه احوال قدس سره در غاطر متمكن بود آنجا تیر نتو استیم قرار گرفت شیکسته و مایوس طی منازل
می کنم تا بعد ازین چیز روئے و بدینجا تمهی اهدافی نموده باشند بمنتهای مقاصد بر سند ناظم مناظم طریقه
در ویش نظر مجدد و ب الاطوار بندگی قبول نمائند فریاد از لفسمانی از کشف برخاسته وایشان از
حال ماغافل نباشند والسلام

صالحه از منتسبان آستانه پدایت نشان بود و تجویز آمدن بحضور شریف نبی فرمودند به تصرییه
از شوهرش حال صالحه مذکوره را پرسیدند و این نوشته را فرمودند که شوهرش نزد او بوده بخواند
و لفهایند شوهر حیران بماند که عورت نه هندی نامرا داشت که فارسی خوب نبی و اند این مضمون را چه طور
توانند فهمیده لیکن حسب الامر ذقت نزد او خواند و معنی را هندی گفت ظاهرا شد که خوب فهمیده و این
صورت در نظر شوهر مذکور از خوارق عظمی می نماید

۷۶- به یکی از ازنان صالحه ملاحظه گلنید که در وقت صفائحه دل هر اقرب نفی و اثبات آنده یا
اثبات تنهای و بر تقدیر یکی نفی و اثبات باشد تحقیق نمایند که نفی معلوم و اثبات مجهول است یا
نفی معلومی و اثبات معلومی است یا نفی مجهول و اثبات معلوم است و بر تقدیر یکی و اثبات معلومی
است یا نفی مجهول و اثبات معلوم است تقدیر یکی اثبات تنهای باشد نیز تفمیش گفند که اثبات
معلوم است یا اثبات مجهول است در صورت اول معلوم جدید است یا قدیم بازی بر تقدیر
له شاید نه سودت هندی نژاده هوگا (زین و آنی)

اثبات تہا کوشش نمائندتا اثبات بھول شود می
و انداعی کہ مادرے دارے دارد

لیکچنے پوہم در نارو
العجم سعی و اهتمام در نفعی می باید کرد و یعنی معلوم در خاطر نبی باید گزشت۔

۹۵- حق بسخانہ و تعالیٰ مأج کرامت و لباس معرفت و محبت خود را بروجہ اکم عطا نمودہ
مسئیم دارو۔ ایں اذ پاور افراط گرفتار را پر تو سے ازان مشروف گرداند و رعنایت نامہ جناب
خواجہ حسام الدین مرقوم بود کہ واسطہ نا تو شتن کتاب بفلانے عدم ظہور احوال و مقامات است
چہ حکایت رسیے را چہ نویسم عجب است نسبت محبت و واد طالب ز داید اخبار نیست مجرد
صحت و استقامت شریعت و صفائی توجہ بحضرت پھوں و غلو محبت و گستنگی از ماسو می
مطلوب است اللهم ارزقنا بحربة النبي و آله

۹۶- پرشیخ احمد مرندی۔ بروا رعیت میاں شیخ احمد و محمد صادق دعائے مخلصانہ قبول نمائندگانی
کہ مشتعل بر شرح احوال مشاہد ایہما بورسید۔ الحمد للہ و المنشئ کہ وسائل را باخونی دارو در خاطر بود
کہ جواب ہر قدر را اعلیٰ حمد و تفصیل بنویسم غایبۃ الامر را مشافہہ مذکور لشود ثقاہے تمام حاصل می
شود بنابر علیہ ترک مخصوص بارے جمل آنکہ حال محمد صادق بنیافت اصلی است و حال شیخ احمد کہ گاہے
تو یہدا است و عبارت غائیت شاہد است از علم بعین آمد و اذ گوش با غوش در اس مقام فوشنہ محل تفتیش
است کہ پا رب مطلعہ احادیث و رکثرت یا تو یہ صوری اگر اول است مبارک است و کمال و
اگر دوم است بر تقدیریے اصلی است و بر تقدیریے مطلع اکنون محل تفصیل تقادیر نیست اگر
سوم است خود الہمہ مطلع است لیکن ظاہر عبارت مشاہد ایہما ناظر و دو دم است الشارع اللہ تعالیٰ
کہ از قسم اصلی باشد و یگر آں دیا علی ملحدانہ کہ فوشنہ پووند و غائیت سفاہت اصلی حاشا کہ قائل
لے مباحی ملحدانہ ایں است آے و ریغایکیں شریعت ملت اغمائی است ملت ماکافری و ملت ترسانی است
کفر و ایاں ہر روز لفڑوئے آں نیاں است کفر و ایاں برو و اندیزہ نیکیتی است

آل مقبویے باشند زنہار اوپ تکہ دارید کہ کارخانہ الی محل استغفار وغیرت است والسلام

ایں رقہ درجوب بعرصہ مخدومی ملادی میاں شیخ احمد سلمہ رہب نوشہ شدہ۔

۱۴۔ پہ شیخ احمد سرمندی بحق بسحابہ و تعالیٰ در مدارج کمال و تکمیل ترقیات بجهہ نہایت کرامت
نمائذ کتابتے کہ قاضی زادہ آدرودہ بومنہ بشرف مطالمہ آں رسید بخاطر واشست کہ مفضل جوابے
بنویسید و روئیت کہ برسر آں آمد آں کتابت رانیافت الخیوفیہ ماصنع اللہ الحق تحقیق و تشخیص
ایں نوع سخنان جز بمشافہہ و حضور بدست می آید۔ چنانچہ مکرہ ابھرہ کردہ باشدہ بارے آں قدہ کہ مجبید
نوشت آنست کہ حضرت خواجہ احرار نہایت رافیا و فیضی و اشته اند و از خواستے قدسی انتظام الشیوال
چنان علوم می شود کہ تاسالک بحقیقت تخلیق ذاتی می رسایں معنی بدست می آید تا و مشاہدات کہ در
مراتب تنزل است بند است گرفتار آں مشاہدہ است اگرچہ بد و اهم شہود استفهامت لے آنکہ
عبارات از اتحاد مشاہدہ و مشاہدہ است۔ و فناستے آنکہ عبارت از استئثار آنست ذریعوت
و حدت آں گرفتار در نظر نمی آید ہمانا کشف بقاء صفت ارادہ و فناستے هروات دین مقام
است فاذ اکشف الاستاراًی ظهرست تھاظھوراً حیینیاً و اند رج العسلہ
بین المآثر والمستند تحصل ما اشارا لیه الشیخون الکامل سید الاسترار ف
وقتہ فطوبی لمن ادرکہ۔ ایضاً مشرب شیخ حلا و الدولہ سمنانی علیہ الرحمۃ وحدت و چوہ
نیست آرے شہو والیشاں شہو و اکمل است۔ فرق آنست کہ جماعتی از علماء اشیاء رامع و حم
خانچے میداند و ظہور الیشاں را در خارج پھوں ظہور در مرآت می گویند و ذوقاً موجود چنیکی
لامنی داند و حضرت شیخ با وجود وقت شہود و ارتقاء ع آں اشیاء راموجو و خارجی می گوئند و پیر فرق
و مگر و رحیقت اشیاء است کہ جماعتی اوی منظاہر شیوں اصل می دانند والیشاں نیز و آنکہ بجهت وقت
حال اشیاء نسیماً محسیاً شدہ باشد امر دیگر است با وجود صفات و افعال را باصل خواهد دا و هلکاً و
مقام لاتبعی دلات قدر از جملہ احوال است و آنچہ شیخ بکیری محدث الدین ابن عربی فرمودہ از علوم است
حال را باعلم نزلعے مہست اما علم را باحال نزلعے نیست ۷

من اذ شہر کلام نہ ازال وہ کہ توئی باہمہ خلق جہاں دار مدارے دا م

لے باقاعدہ انوار کے استعمال سے اسے لمسے مشاہدہ و مشاہدہ پڑھا جائے۔

حضرت شیخ رضی اللہ عنہ اذ ادباً یئے تھکنیں است۔ حق شناسی است در مرتبہ بحق آن قیام
می نہایت و آنچہ شیخ مہمنہ قدس سرہ فرمودہ در جواب سائل است چوں سائل از حال سوال کرو
بودا یشان تیراز حال جواب گفتہ۔ والدعا

ایں رسالہ به المحتاس یکیے از محلصلان مخصوص الارشاط عظیم الفدر شروع فرمودہ پو دند چوں
آن عزیز از خدمت حضور په وطن خود رخصت شد و یکوئے به المحتاس گستاخی نتو است نہ و دا یشان
ناخود تقيید یہ ایں امور نبود بل احترام تمام ظاهری شود بہ ایں سبب ایں رسالہ ناتمام ماند۔
لہا۔ رسالہ ناتمام و رسولک۔ بدان ابیک اللہ تعالیٰ لے بنو القدم کہ طریق وصول بفنائے حقیقی و
است یکیے طریق نفی و دیگر طریق اثبات۔ اگرچہ طریق اثبات دا طریق نفی مندرج ولازم است و
از اصناف طریق نفی یکیے طریق غبیت و بخودی است از لوازم وجوه جسمانی خود و صفات او چوں
پہ کمال ایں غبیت می رسنڈ خلدت حادثہ روئے بہ نور اغیت می هند و مشاعر آگاہی بجانب الٹی ظہور
می کند چوں جذب باطن بجمال آن نور قوت می یابد لے شعوری از لوازم وجود روحمانی نیز وست
می دهد و حجاب بالکلیہ مرتفع می گردد و شجرہ سرداران آتش حقیقی بتمام و کمال می سوزد۔ انہوں
ویں خلوت می تو آند کہ کسوت معرفت پوشاند و بعد از سربر آوردن ازان گرداب دیدی آب
لائیز باب دہد مَنْ أَمْلَأَ إِيمَانَهُ لَيْلَةَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ این وجہ خاص است اقرب طرق
است واسطہ وادوم۔ رعایت وقوف قلبی کہ عمارت از توجہ است بقلب صنوبری موصول ایں
طریق است و ہم چنیں رعایت باز گشت نیز دذکر بوجдан مذکور ہمہ ایں طریق است و ہم چنیں
بردن رابطہ از فضائے سیدنہ بجانب قلب صنوبری بتحام ہمت مُحَمَّد ایں طریق است و ہم چنیں مجرد
صحبت و شست و بر خاست باہم کنان اذار باب وصول نیز موصول بہ ایں طریق است و محسنی
اندرج نہایت در بدایت ویں طریق است خلوت در انہیں کہیکے از اساس طریقہ نقشبندیہ است
بحقیقت ویں طریقہ است چہ ابتدابھت معینے کہ حق را بسوانہ بہ او است متوجہ حق صرف می شود

لہ یعنی حضرت ابو سعید ابوالیجر رحمۃ اللہ علیہ بوجہ شیخ مہمنہ سے مشہور ہیں۔

و در طرق دیگر چنانچه بیان خواهیم کرد خلوت با حق صرف نیست خلوت به انوار مکشوف و صور تجلیات و امثال آن است. و همچنین نظر بر قدم پیه طهور انوار وار و لوح کم است که بیه پا گندگی نظر باشد.

درین طریق چوں سیر ش مستدی است نظرش تمام بر قدم است بدل بر قدم چوں قدم سالک است همان نظر است هر دلیکے است و همچنین سفر در وطن چه سیر ش مستدی است. دوشن ایشت که ابتدائی توجه ایں سالک بوجه ایشت که منبع شیون و منتشر انسان است و سیر ش بهم اهم مرابت طهور نور او است دیگر همچنین سیر اصل صفات ذمیمه از زمین باطن کندہ می شود بیه آنکه سالک خود را در مقام قلع آنها بیار و خاطر را پر گنده و متفرق گرداند پس بحقیقت همان سیر حاصل است بیه حرکت اقدام و همچنین هوش و ردم که عبارت از و ام توجہ است بجهاب حق سبحانه و تعالیٰ آن غنیمتی که ابتداء ایں طریق است آن نیز اذ مقوله توجہ است هر چند که بجهت فضفعت باطن سالک باخبر نباشد. مخفی نهاند که از جمله امور که مناسب این طریق نیست. یکی مطالعه کتب صوفیه و شنیدن سخنان بلند ایشان است چه جمال آن مواجید که بفهم سالک می آید خاطر اور اجود می کشد.

و در دردش ایں طریقی علیه فتوح می افتد جمال ایں نسبت رانی بلند مگو منشی. ازین مقدمه بدر یا ب سلحشور کلات و اشعار توحید آمیز و امثال آن چه نسبت دارد. ایں هم وقتیکه در لباس نغمه نباشد والا خارج مجده است. سلحشور مقبول سماع رُوحانی است که سماع معانی نباشد اما سماع طبیعی که سلحشور نغمه است محل اختلاف است. عامره علماء حرامش میدانند و جمع مشائخ در مقام علاج تجویزش کرده اند نه آنکه اور اذ قربات و اند واللئی گویند و چه دیگر چیز تزویج و تزیین مستحسن شمرده اند.

لیکن معتقدی را اهل آن نمی دانند چه چنوز از رباب قلوب و اهل مجده نشده طبیعتش برسهای نغمه می اند اذ و اذ معانی کلمات و ذوق آن بیه بره می ماند و چه دیگر هر چند که مباحث می دانند اولی ترکش راجی گویند چنانچه از قطب طریق خواجه بهام الحنف والدین مشهور است که می فرموند. نه این کار می کنم و نه آنکار می کنم این مذهب صاحب فتوحات گیه است رضی المدعنه نزد ایں نور انهم سماع نغمه قطعاً روحانی نیست رفت حاصله ایں سماع را رفت طبیعت میگوید و حرکت اور احرکت طبیعیه و میاں حمل هترک سماع نغمه و میاں سالک هترک بحرکت دوریه از استعمال نغمه یعنی فرق نمی نهاد. سجد را ای کتاب اذ پیوند بسطامی که اذ مشائخ ایں سلسه عالیه است می گوید که او کروه میداشت. استعمال

نغمہ را۔ وہ مدد راں کتاب از اقتدا بہ نیاب کہ اکبر ایشان صدیق اکبر رارضی اللہ تعالیٰ اس عنہ می گوید
 و منتهیا تے مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ می نویسید کہ ایشان قائل سماج نغمہ نیستند و سماج مقید نہیں
 راوین خالص می گویند و بر حکم آللہ الدین علی الخالص ترک او منودہ اند مدد ریں کتاب حضرت
 صدیق و سلمان فارسی و ابویزید بسطامی را کہ وافل شجرہ پیران ما انداز کیہا تے ملام مقید می نویسید و ملامتی
 جماعتی رامی گوید کہ در کسوت عامہ مسلمانان اند در ظراہر بہ عکس اذ عامر نہ تاز نیستند و در تمام مقام شریعت
 اند و منابع سنت پھانچہ سر ایں جماعت حضرت رسالت پناہ راصلی اللہ علیہ وعلی آله وسلم می نویسید
 چهل آنکہ سملع نغمہ قطعاً مناسب طریق مانیست۔ و آنکہ جمعیت بہت علاج تجویز کروہ اند ویں طریق
 شدنی شود و چہ آل علاج عباد و ذوی الاحوال و ذوی الاشتغال راستہ مزانج شرب اہل ایں
 طریق از چشمہ مقریں است عباد و ارباب احوال را اذین مشرب نیست۔ و چوں ایشان در مفت م
 لَهُ تَلِهِيْهُمْ تِجَارَةً وَ لَا يَمْعَنُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ دِرَآئِنْد وَ صَبَرْ مَعَ اللَّهِ رَأْعَيْتَ مِنْ كُنْدَ اَذ
 ذوی الاشتغال نیز نیستند سخن بہ طول انجامید و از خلاصہ مقصود باز ماندیم۔ اکنون بر سر مقصود
 بیا نیم۔ و گیرا ز اصناد طریق نفی طریق بے شعوری از صور اجسام عالم است۔ صاحب ایں طریق علم
 را خالی محض می باید۔ سلطان وحدت از درائے کثرت بصیرت را بخود کشیدہ و ظلمت طبدیت غبار
 دیدش شدہ۔ لاجرم در بر زخم بیرون مقصود و در کسوت نور صاف بلوہ گرد آید در تمام عالم حق
 نیز بپا و پہ و از غرائب مقام بپاید عروس مقصود و در کسوت نور صاف بلوہ گرد آید در تمام عالم حق
 را پا پد معری از نقوش و اشکال والوان و تعداد۔ بعد ازین ہر چند کشش قومی ترجیح سیستی مکث آں
 نور لطیف تر دیشم ساکے روشن تر۔ در مقام فنا می جسمانی کہ بعد از کمال لطافت بظہور میر سید بہت
 معینت کہ میان روح و بدنه ثابت است بنیندہ نیز حق رامی پا پد لیکن بہت وجود روحانی جحب مخفیہ
 باقی اند چوں در ہمیں طریق عروج نہایت جہات و معنی نورانیت بلکہ ایں دید را نیز گم کنند بیرون صرف شود
 نہ عالم و نہ خلاستے متوہم و نہ نور و نہ حضور چوں ایں حیرت غلبہ نہایت فنا بر ارتیب وجود روحانی نیز بپسند
 بعد از اتفاق اگر مر اتنے بقار حضور ش بندریج شود و تفاوت ہا در خود بیا پد کہ جزا اوس نداند ایں
 زماں حاصل معرفت ش آنکہ و رعصرہ وجود بجز یک ذات نہ بیند این را لی ریا کے المعنی غالباً این
 است کہ صاحب ایں دید صور عالم را وہم و خیال و اند و منود بے بو و شناسد و اگر از ہماں طریق

اول برايں ويد برسد متغير شود و هي تو حميد المحبة و كشف الغيبة يعني از غلبه مجت و در
اظر کشفش جز يك ذات نماند. غالب بريں سالک ساچيرت استانه آنکه صور عالم را وهم و خيال
گوييد. مخفی نماند که صاحب طريق دوم از طريق نقی اغلب آن است که سراور راه را بطریق بسر
خرشید و اصل اتصالیه است میده و ازان اتصال نور را گاهی کسب میکند و متوجه طريق اول
می شود لیکن پیش از آنکه آن نور مکتب قوت گیر وهم به تبعیت از ظاهر شد از ظالب بهجت عالم می افتد
چوں آشناست نور وحدت شده بوسے مقصود از ورامی صور رفے ارادتش را بخودی انگنه فیظه هر
ما یظهر و می سلکت من مرادیت التکییه لیکن این چنین طالب را بشارت است بوسعت
دازه اگر فضل حق و عسکیری کند و در بجهه تحقیق بر رویش یکشایند بعد ازان که میتمانست چند پرسیده
باشد سر بیان وحدت را در کثرت در باید و مستغرق وحدت صرف شود فاتفحش الشاهد

ذالشهود ذالشهود ذالشهود

کجا غیر کو عنیست کون نقش غیره سوی اللہ واللہ ما فی الوجود
این تخلی ذات است و مخصوص است به بعضی از کمل افراد الشانیت. اینجا از تعیین اول خط
بگیر و چوں تنزل ماید و تا پر تبة شهادت برسد تمام موجودات عینک حشم بصیرت شوند و آینه
صفات اصل گردند. تعیین ثانی نیز علی حسب عینیتیه الشانیت و راحاطه اش در آید. تو اند بو
که عین شانیت اش مشوف شود و خود را عین تمام موجودات باید و در ظاهر نزد تمام موجودات را
مرأت خود به بیند و بینیں تو اند بو که اسم آنها بطن از بجهت فوق وحدت تخلی ماید و سر بر شمه مقصود
لا گم کند

سبحان من عَلَيْهِ الْحَمْدُ فِي ذَادِتِهِ سَوَاهُ

فَهُمْ وَحْنُمْ وَهُنَّ كَمَا لَشَّشَ نَهْ بِرَوْهِ رَاهِ

این مقدمه تخلی احادیث است. و تخلی احادیث اسم ایضاً بزر و به ظاهر علم می نهد. فهُو الْعَلَى
کما کان فظهور حاقال آهیل الشانیت و الجماعتیه فی الولهیات من مرادیت التذییه
و التَّقْرِیبُ عَنْ ائمَّةِ التَّدْرِیسَةِ قَدْ عَلَّ وَأَسْقَطَ الشِّرْكَةَ فِي الْوُجُودِ فَالْتَّوْحِیدُ إِثْبَاتُ
الْقِدَّامِ وَإِسْقَاطُ الْمُحَدَّثَ . ایجاد رویش بیچاره عاجز محسن و مفسن صرف است. بعد از این این
راه را نهایت نیست الله هم لا تقدیر می‌نماید. مخفی نماند که در آشناست این سیر و سلوک بعضه را وقایع و

کشوف وست میدهد چنانچه خود را دنیم اتمام آب می باید. یا باو یا آتش. علی حسب اللطافت. و همچنین آنکه
 آب را مثلاً خشک می بینید و مطلق از شعور میرود. این کشف در اول قدم است. مرقد مهندس گم کردن صور
 دنیم است تو آنند بود که در آنکه چهیں کشف حق در صور مثالیه بخوبی کنند بل در صور جسمیه نیز و توحید صور لیش
 دست دهد. چنانچه خود را در عرض جهان بینید و در نور عرش محو و ناچیز گرد و داد. این مرقد مهندس احاطه شود و است مرطعه
 وحدت در کثرت. چون سخن بعرض رسانید سخن واقعه و کشف راقطع کنیم و طریق دیگر را از طرق نفی بیان نمایم
 بدآن اسعدک اللہ تعالیٰ که طریق دیگر از طرق نفی طریق معراج تخلیل است. و درین طریق نفی صفات پشت
 می شود. و بقدر آن نفی سالک را مناسبت بر اتاب طوبیات از سعادیات و فکلیات دست می دهد. چنانچه
 در آنکه کار خود را در عرض جهان بینید و بقدر ذهنیت بطبقات سعادیات می رسد و بعضی را از ایشان عجائب ملکوت
 کشوف می شود و بهشت و دوزخ و لوح محفوظ و غیرها در نظر می آید تا آنکه بعرض المخلق می رسد و در اواره
 ذی العرش محو و ناچیز می گردند. چون درین مقام تملکیں می باند و جذبات قویه دست می دهد از ما و طبیعت بالکلیه
 می برآیند. تولد ثانیه بظهور میرسد و نور محیط و اللہ من وَرَأَهُمْ مُّجِيدُهُمْ کشوف می شود و بقایه وجودی
 متحقق می گردد. مخفی نماند که این طریق کا ہے در درجات طریق ثانی مندرج می گرد ولیکن چون بعضی را
 خالص بھیں طریق پیش می آید طریق دیگر ساختیم تحقیق آن است که الطریقِ الی اللہ بعد دالناس
 الخَلَدَةِ عَقِیْمَ هر کس را چیزی دیگر پیش می آید لیکن بحسب توجیه سالک منقسم به سه قسم شد. پہلیم کہ توهش
 پوجہ خاص است یا بنوی محیط یا بغلو ق العرش. الْأَوَّلُ هُوَ الْأَوَّلُ. کَذَّ الثَّانِيُّ وَالثَّالِثُ. اینجا است
 که طریق اثبات را طریق رابع ساختیم چه توجیه سالک در بر اسم الظاهر است اول قدم توحید صوری
 چی افتخار میان او و مقصود یا هیچ نیست که نفی کنند و مقصود بر سد. این معنی بحسب نظر اوست نه فی الواقع
 و لمندا از توجیه مرنند و از اثبات اقبالی سالک انجذا بش مقصود قوت می گیرد و فی الجمله از حس غائب می شود
 و نکسته در اقیاز صور می افتخار دنیم دنیم عالم بصور از این مجموعه الائوان از کدورت و محبت و بیاض و صرفت
 سواد و بیرنگی دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةً عَلَى حَسْبِ فَرَاتِبِ الْمُسْرِفِ تَرَدِ السَّالِكِ ظهور همیکند
 لیکن در هر مرتبه نظر پہاں بند است و همان راحت میداند. چون خلیفتش قوت باید و حق در کسر است. قدر
 بیرنگ مشاهده نماید لیکن عالم شهادت اذ میان تمام بخشید. وجود عدم اور نظرش نہ باشد این زمان
 بطریق ثانی در آید. اگر کشمکش هم چنان در قوت باشد از طریق ثانی هم عرض نماید و به طریق اولی اقتدار لیکن

نزویکا بہ اون خدمتازل اوچوں دریں وقت رسوئے پیدا کند و سر برآرد. باز نظرش به طریقِ اول آفتد
ہمہ راحت یابد سچوں ذبیح چکوں نہ نزد و نہ بیرنگی. و تو انکہ درہماں طریقِ ثانی پا خزر سد. اگرچہ در آخر
نظر سالک طریقِ ثانی و رقبہ حضور بالنظر سالک اول یکے است چہ سلوک سالک اول و مرتبہ مراد است
دور جاتِ غیبت و حضور و حیرت و بقا و تنزل اور درہماں مرتبہ هنر اڑاٹ او صراطِ مستقیم است. چوں سالک
طریقِ ثانی را ہم نظر دامت و صراطِ مستقیم دامت می وہد ہر دو نظر کیے می شود فرق بہ وسعت و عینیق
می ماند اگر پھنساں و رضیق خود بماند و اگر ترقی کند و وسعت یابد ہر دو یکے است. مخفی مماند کہ اذاقیم
ترقی ترقی بطریقِ کشف است کہ عالم مثال۔ ان

۳۴۔

من یہ سمجھم و کم زیستی سمجھم بسیارے
از زیستی و کم از زیستی نیسا یاد کارے

من بے سعادت بے دولت عمر ضائع کر ده راشرم می آید کہ نام عزیزان خود بزم چو جائے
اگکہ ازیشاں سخن گوئم اما چوں بعضے از برا دراں مومن را بایں حقیر حسن خلنت شدہ ازیں جہت کہ
بزرگاں را خدمت و ملائفت کر ده وزیارات مزارات کے خانوادہ حضرت خواجہان قدس اللہ تعالیٰ
سرہ می فرمائند۔ غیر حق ہر ذرہ کا مقصود است

زینع لا بر کش کہ آں معبوڈ است

ہمگی ہمت براں دار کہ ترا یعنی با کیستے در دل غیر حق سبحانہ نباشد ہر چہ غیر حق سبحانہ در دل ترا بخود
مشغول گرواند بہ اَللّٰهُ اَللّٰهُ لَمْ يَكُنْ آں چیز را از دل خود دور کر ده چنان کن کہ آں چیز را دشمن خود
دانی ہمیشہ از حق سبحانہ بد نیاز آں خواہی کہ بغیر خود بہ، یعنی چیز گرفتار نگرداں دے
قرایکا ہونا بس در ہر دو عالم

کہ بہ ناید ز جانت بے سعادم

پس اگر معبتدی خواهد کہ مشغول شود پاید کہ اہل را کوتاہ گرواند و حصر کند حیاتِ خود را پیغامیک
و سے و دا آن است دریں نقییکہ آخر انفاسِ خود و انتہ است بید کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ بایں طریقِ مشغول
شود کہ در لَا إِلَهَ ہر چہ غیر حق است از دل دُور کند و در لَا إِلَهَ حی عز و جل و امبعودی و محبوبی ملاحتله

کند چنانچہ ہر را سے کہ لَإِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ كو یہ بدل گوید کہ نبیت یعنی مجموعہ مکرحت و چنان کند کہ یعنی
ترک نہ کند بہمہ حال باسی مشغول باشد قدم اول در توبہ نصوح است و اعتماد و رحمت بطریقہ اہلسنت
والجماعت و عمل ہو جب کتاب و سنت و بازداشت اذہر چیز شریعت ازاں نہی کردہ بعد اذ اقصدار
برادر بع برا دارے فرائض و سنن و بعضے نوافل اذ شکر و ضود و اشراق و چاشت و نماز تجد رامشغول شود چنانچہ مسطو
از کلمہ است حضرت ایشان می فرمود کہ تا حق سبحانہ و تعالیٰ بیندہ بصفت ارادہ تجلی کند آں بنہ و سلوک
اہل اللہ منی کند و مرید کسے منی شود و در رسائل اہل اللہ ہمیں سخن است و چوں ارادت از پیش
حق سبحانہ و تعالیٰ باشد بس امر عظیم است و ازار و اوح طیبہ ایں بزرگوار ان ہمت و استفامت
نہ کر بخوبی کے میں شود و در رسائل اہل اللہ ہمیں سخن است و چوں ارادت از پیش

طلب نمایدہ بے عنایات حق و خاصان حق

گر ماں باشد سیاہ مستش ورق

و ایم نشاں ز گنج مقصود ترا

گر ماں رسمیدیم تو شاید برسی

بالصراب

۲۷۔ حق سبحانہ و تعالیٰ عاقبت امور را در مرضیات خود فرو دارد۔ آنکہ نبیت قرابت خود را ذکر
نام و نشان مسٹور نہ فتیم۔ اندیشہ جزو آں بود کہ طلب بجهت اقرباً ہموماً ایں نوع قرابت نزدیک خود
است و نفس امارہ مارا خوش نہی آید کہ تندل طلب بکشند۔ کار را به خدا بگذراند یم کہ از پرده غیب چیز نہ بود
می کند۔ حق عرشانہ کافی مہمات است۔ علیہ تو کلت والیہ ایندہ۔

۲۸۔ در علوی استعداد شیخ احمد سرہندی بہ کسے۔ شیخ احمد نام مردے است و در سرہند کثیر العالم
وقومی العمل۔ روزے چند فقیر پاونشست و بخاست کردہ عجائب بسیار از روزگار و اوقات است او
مشاهدہ کرد یاں می ماند کہ چراغے شود کہ عالم ہا از در وشن کر وند۔ محمد اللہ احوال کاملہ او مرا بھین پیوستہ
ایں شیخ مشاہد الیہ براوران و اقربا وارد۔ ہمدردم صالح و از طبقہ علماء چند سے را و عاگو ملازمت کردہ ایجواہ
عالیہ والستہ استعداد ہائے عجب دارند۔ فرزندان آں شیخ کہ اطفال و اسرار الہی انبال بچہ شجرہ طیبہ اند۔
البته اللہ نیاتاً حستاً الغرض بجهت کثرت عیال و علو فقر و بے معاشی تفرقہ در اوقات آں جماعت

است. اگر از وجہ چیل کیک ہر سال قدرے معین بآں خانوادہ برسد چنانچہ کاتب قسمتے درمیاں ایشان قرار دهد. بعاثت مسخن است مورث نیر بسیار ہر چند کہ اند کے باشد رکن عظیم اذیرات خواهد بود. فقراب اب اللہ اند ذہماۓ عجب دارند زیادہ جرأت است۔

۶۴- حق سبحانہ و تعالیٰ الفضل خاص کہ دل بیار و دست بکار و اشتن است بر ساند ہر چند کہ درجات ایں دو گنجینہ بے شمار است و بکمال آن متحقق شدن بس و شوار یکن بقدر وسع و سست از ایشان باز و اشتن زیادتی ظاہر است. بشرح کلمتین راعلماء طریقت و تشریعت متعددی شده و از چندہ آن پر آمدہ اند محمل بیان ایں کلمہ آخری کہ تعلق بشریعت دار و مدار علیہما کلمہ اولی است و اصل ہمہ سعادت و ناگزیر تمام ارباب عقل است تکلیف تو یعنی یحوز لا یحوز نمودن و بظهور آوردن آن نسبت بخود و بغیر خود حکمت و بصیرت قُلْ إِنْ كُنْتُ ثُمَّ تُحْبِّبُونَ اللَّهَ فَأَتَيْعُونِي وَيُخْبِبُكُمُ اللَّهُ

وز حاشیہ کتابتے کہ یکے ازیار اس حاضر بحباب مخدومی میاں شیخ تاج الدین نوشتہ بودند ایں سطور مرقوم قدم مشکلین رقم کروند۔

۶۵- پیشیخ تاج الدین - حاطرِ حبیب و مخلصان مگر ان ملاقات فاپنحہ البرکات می باشد باحسن و جوہ میسر گرد و کتابت علیحدہ کہ نتوشم بواسطہ سستی و صحفت بود روزے چند عارضہ و اشتمم ہنوز بتعایا تے آن ماندہ فرمادا زگر فتاری خلق وغیرت حق سبحانہ و تعالیٰ صورت شفقتے از باطن بند پائے خود ظاہر ساختہ بحکم بندگی با ر آں می باید کشید و بین نشانہ آنچہ یوں کس است ہمیں است الشفقة علی خلق اللہ والمعظیم لامر اللہ زیادہ چہ نویسم۔

۶۶- مَلَأَهُمْ عَلَيْنِ كُفُرًا عَلَى مَنْ لَئِنْ يَكُوْنُ دو سال دیگر خواہی ماند و بعد ازاں مختاری حکایت بسیار در صبب تعبیر استمام سابق می کند بارے ارادہ ما آن است کہ تاسی ما توقف کنیم بعد ازاں ہر چچہ ظہور درسد۔

۶۷- تادرمیاں خواستہ کرو گارچیت

اما شما بعد از مختار عبوری با این جانب بکنند و آن جواں طیار را نیز با خود بیانند و در اثنا نمایند
سپر و طیرو از دل او خبردار باشند فعلاً وقتیکه آن صورت را بر کسری دیده بود بعد از شعور حمال دل او بود
او لایقین بکدام صفت حق سچانه پیدا شده بود از حاضری و ظاهری و غیر سچانه هم چنین در کشفه از احوال فی
شیرخانه پیانند الشاند اللہ تعالیٰ افتدی کرد و دیگر مستعدان راه پر هر راه از دست ندهند آن جوان الفشاری را
نیاییست گذاشت که او و لطفاً و قدر آنچه داشت ادمی باید کوشید الشاند کجا خواهد رفت این زمان
فاطر متوجه آمدن او بگفیند.

ب) به شیخ تاج الدین برادر ارشد شیخ تاج الدین دعائے مخلصان و سلام مشائخ قبول نموده ملقت
و نتوجیه حمال فرمادگان با دیر تعلق دگرفتاری باشند

صد طلب دل به نیم نظری تو اخ خرید
خوبال دلیں معامله تقصیری کنند

والسلام علی من اتبع الهدی عزیز من ہدایت مطلق در پرتوهای اذاع البصر و ما طغی
است که باطن ساکن گرفتار ذات بحث باشد نشانش آنکه با وجود درود و دری چیز مقامات و مشاهدات
و در ادب ظهور و نظر سهیش حیرت نماید

رندی چند ند کس نداند چند ند

پر نسیمه و نقد ہر دو عالم خندند

صاحب این حالت پشرط گستنش از این حالت بر مقام بندگی رسیده مظہر اسم الغنی شود
نقاش بنهاست رسد۔ الفقر اذ اتم هو اللہ۔ این است این معنی بے استغراق کشش اللہ و دریافت
آنکه این کشش از دست با و صور کائنات و اشیا حالم بر ایشی نیست میسر نیست والدعا۔

بیکی سادات عالی فطرت که از مقبولان ارشاد پناه بود بواسطه کثرت جاه و دستگاه در زمرة
خادمال دخانیاً همیاً داخل نشد اما از نشست و برخاست که او را میسر شده بود و فائدہ ہائے عظیم
با و رسیده اگر خود ازان و قوت چندان ندارد و بعضی از این فائدگرچه احتمال دارد که بواسطه صحبت کر

پاگندہ برعهم زند آماد بعض و یک مرست قیم ماند سفر خود کے باوجود گرفتاری دنیا استحق نصیحت و محبت بود ایں رفعہ با ذنو شستہ بودند.

۰۔ بے یکے از سادات حق بسحانہ و تعالیٰ بیراث کامل بہرہ مند گرداند۔ هیراث اخنحضرت علیہ السلام افضل الصلوٽ و اکمل الحیات علم و حال و مقام است اکتوں شمار است علم برگانگی و حضور قدرت تامہ و کیل بندگان بودن و لطیف و روّوت نسبت بطبعیان و قیار و بخار نسبت بجیار و عاصیان و غفور و حیم نسبت بشکستگان دنادمان و عذر خواهان و علم برائی خدار سعادت و رطیع شریعت و متابعت سنت و احوال محبت خدا و رسول و متابعان و پیازمندان و محبت آنچہ مرضی خدا و رسول است از متابعت شریعت و تعظیم اہل او و از مقامات مقام رضا و جو شفقت و ترویج شریعت لطفاً و قهر القدر و سع و امکان و آنچہ از لوازم است عمل متعتضداً من آتا فی دیشی آتیده هر دلۃ علوم و حوالہ مقامات بے نہایت پیشگرد و اشاره اللہ العزیز۔

الیضاً بے یکے از امراء عالمیشان کہ بیرکت الطاف مغفرت پناہی ارشاد و سندگانی از صفت خود بعض صفات دیگر بہرہ تمام یافتہ بود.

۱۔ بے یکے از امراء حق بسحانہ و تعالیٰ اذعنایت بے علت خود نصیب کامل عطا بکند۔ اصل ہمین است ہرگاه وریچہ عنایت فرا فتاوہ مفتوح شود ہم سرشنگران عظمت ہم روحش مصیقل محبت ہم دش تسلیم احکام کتاب و سنت ہم نش و مقام استقامت قائم خواهد بود و مقصد آفرینش ہمیں است باقی از معارف و کمالات اگر و جھی روئے نماید کہ دریں اصول محل نیقتہ نور علی نور والاهباء منتشر ا پس طلب پظہور غامت را متعضداً من ا کنتم تخیون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ نامکن است در مقام متابعت میباشد بود اگر بحسب پیشتریت نقصانے دریں سعادت پیدا شود ہمیشہ نیازمند بودہ دریزہ از دلہامی پاید کر و شاید کہ یک دعا دریں میان کار کے افتاح مد للہ و الملة کہ ایں طریقہ رانیک می درزند و بے راز دلہامی سالم رانیک خواہ خود می گرداند اللہم زد و حال کا تب عظیم شوریہ و بے سر انجام است سختنے کہ از و تراویش کند بہیچ مصلحتے نمی شاید متعضداً منے علم خود کہ ایمان برائی دار و سختنے می تو بسند چہ تو ای کرد چوں اشارتے بتحری ایں نوع سخنان بود ناچار جرأت نمود والہم دائم

ک من کیا ایں موعظہ ام مرامی باید کہ از ہر چہ پکان نیک و بد برائے بو وہ اصم تو بکنم و ہمیشہ تکلیف لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِطِيق عَارِمَ مُسْلِمَانَ اس تجدید ایمان خود می کنم تا نفس پا خر سد و ائمیں
و امرگاہ شیطان صورت ایاں بدربم فریاد کہ از صنعت جسمانی و بد فرمائی نفس صرکش از عده ایں کار
ہم نبی تو اتم برآمد تا عاقبت چہ شود۔ ایں قدر ہست کہ کاربہ ارحم الرّاحمین است

کس با توزیاں نہ کرو من هم نہ کنم
الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا

۲۷۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا رہا چنانچہ باید سر انجام نماید ہے
من از تو، سیخ مرادے دگر نبی خواہم
بھیں متدریکنی کو خودم جُدرا نکنی
حاصل آنکہ دل بایار و تن و رکار می باید بُود تصوّف یکسو نگریستن دیکیاں زلیستن است
انشار اللہ تعالیٰ توفیق کامل رفیق باد۔

ایضاً بہیں امر لئے مذکور قلمی یافتہ
لهم ۱۔ ایضاً بہیے از امر لئے مذکور۔ حق سبحانہ و تعالیٰ المحتوظ وار و خاہر بکرم و باطن بنور دل شکستہ د
جان مشتاق و عطا فرماید بالجملہ مجموع اطائف وجود را در صراط مستقیم پندگی حکم دار دو ایں گرفتار را در
سلک ایں آزادگاں محسوس گرداند۔ بمنہ و کرہ۔

ایضاً بہیں امر اسعادت یار نوشہ شدہ بود۔

۲۸۔ ایضاً بہیے از امر لئے مذکور۔ خدام ذوی احترام شیخ حیدر کہ عمر صرف خدمت در ولیشاں و
مقتنہ ایاں طریقت کر دے و در طریقہ مشارع ترک عظم شاہنشہم مجاز و متعین انہ متوجہ زیارت حرمین شریفین
زا وہما اللہ تعالیٰ کرامۃ گستہ انہ بجهت غربت و ناشناختن او صناع ایں دیار و بعد موسم فی الجملہ تفکر و ناٹھے
وار دندپوں بمحاب غرباً و مشق فقراء و مضطربین بالفعل جزو درگاہ نعمات و سیادت طہر اللہ تطہیر و ایست

رُو بَانِجَا آور وہ اندِ الشارع تعالیٰ پر وجوہ احسن تلافی فرمودہ از انوارِ عکرمت مخطوط گردانند۔

۵۷- حق سچانہ و تعالیٰ کے بمنتهائے مطالب برساند ہے

یکے لحطہ از دُوری نشاید کہ از دُوری حسداں بی ہا فزايد
بہر عالیکہ باشی با خدا باشی! کہ از نزدیک بُون مسرا زاید
لَيْتَ إِلَى الْعَبْدِ يَتَقْرَبَ أَلَّا بِالنِّوافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتَهُ فَإِذَا أَنْجَبْتَهُ كَفْتَ سَمْعَهُ
وَبَصْرَهُ إِلَىٰ آخِرِ الْمُحْدِيثِ يَثْلِيثَهُ بِنَدِهِ بِزَوْايدِ عَبَادَاتٍ كَعِيرٌ فِي الْأَنْفِ اسْتَمْنَدَ بِنَ تَقْرَبَ
مِنْ حَمْدِ دِيْنِكَ وَمِنْ شَوَّدَتِيْمَكَ بِوَاسْطِهِ اِلَىٰ سَعْيِ دُوكُشْشِ مِنْ اُورَادِ وَسْتِ دَارِمَ
چُولِ بَدِ وَسْتِشِ بِرْگَزِیْمَ جَذْبِ عَنْایَتِ مِنْ اُورَادِ لَبِسْتَانِدَ مِنْ عَینِ قَوْيِ وَجْوَارِحِ اوْشُومِ مِنْ بَنِیدَ
وَبَنِ گَیرِدِ وَبَنِ رَوْ وَغَرْضِ حَتَّىٰ الْأَمْكَانِ مَرَاقِبُ حَقِّ مِنْ بَایِدِ بُونِ اوْ رَاجِلِ ثَانَةِ حَاضِرِ وَنَاطِرِ خُودِ وَرِنِ جَمِيعِ
امُورِ مِنْ بَایِدِ دَانَتِ وَرِنِجَمِیْعِ خِيرَاتِ وَمِبَارَتِ مَقْصُودِ لَعَائَتِ اوْ رَضَائَتِ اوْ مِنْ بَایِدِ وَاشْتَتِ تَابِنَتَهَا
عَالِیِ هَمَّتَانِ رَسِیدَهِ شَوَّدَ۔ حق سچانہ و تعالیٰ اے آں عَاجِزِ فِرْمَانِدَهِ رَابِرَاوِشِ بُونِسَانَدِ بالِبَنِي وَآلِهِ الْأَمْجَادِ۔

بُشْنَخَسَهُ از مُخلصَهانِ فُوشَتَهُ بُودَ۔

۶۸- بُشْنَخَسَهُ از مُخلصَهانِ - وَفَقِيمُ اللَّهِ فِي مَا يُحِبُّهُ وَيُرْضِيَهُ مُجْبُوبٌ وَمَرْضِيٌ حَضْرَتْ حق سچانہ و
تعالیٰ در کتبِ کارشناسانِ حقیقتِ بینِ مبینِ است۔ خلاصہ تطبیق عقائدِ عقايدِ سلفِ صالحِ مذاومت
عملِ برونق مذهبِ امامی از آئمہٗ حقیقتِ است از فروغِ ولوازمِ ایں سعادتِ مجتہدِ منتسبانِ حضرت
نبوی است از سعاداتِ و علماءِ دین و فقراءَ صفاوی معاشر از بدعت و الحاد و قول و دفع و تکفیرِ مخالفان
و عقائدِ ایشانِ مفدوں است و تم پیش فروغ بآں نور است و سنتگیری نظلوں ایں درفع حاجتِ محتاجان
و غفوِ مجرمان و مسابلہ و رحسابِ زیر وستانِ مگر انکہ امرے از حقوقِ شرعیہ فوت شود آں قادر که ازینِ جملہ
یک شود۔ سعادتِ است بترک بعض ترک کل نتوں کرد۔ وَاللَّهُمَّ عُلَىٰ هُنَّ اتَّيْعَ الْهَمَدَیِ۔

۶۹- حق سچانہ و تعالیٰ اے آں نخلِ سیادت و طمارت را از ثراتِ اصلیہ پر و مند گردانند بمنہ و کرم ان

بَدْتِ عِينَ مِنَ الْكَرْمِ الْحَقِيقَيْنِ بِالسَّابِقَيْنِ خَدَاؤُنْدَ اسْتَأْنَجَ خَوَاهَدَ كَنْدَ بَهْرَيْنِ
وَسَائِلَ بَاهِي سَعَادَتِ نِيَازِ وَفَرْوَتِنِي وَلَجْوَنِي بَانِيکَاںِ بَلْ عَامَهِ اهْلِ ايمَانِ اسْتَأْنَجَ تُوشَقَنِ امْثَالِ ايسِ امورِ
صُورَتِ تَحْصِيلِ حَاصِلِ دَارِ وَلَكِنْ ازْعَالِمِ تَذَكِيرَ امْرَهِ بَظْهُورِهِ رَسَدِ.

مستورہ کے داعیہ طلب در باطنش پر تو اندانختہ بود۔ چون شرف صحبت میسر ش نبو و از عورات
مشغولہ مستغیرہ نبی تو السنت شدچہ ایں چینیں عورات کہ لیا قت صحبت داشتن و فائدہ رسانیدن بستورہ
ور آنہا پیدا شدہ بود و راں شہر، بیچ کیے نبودندہ از رُوئے شفقت ایں صحیفہ برائے مستورہ مذکور لطف فرموند
۸۔ پیستورہ حق تعلیمے وجہ و علیٰ توفیق کامل رفیق گرواند۔ سرمایہ سعادات متابع فرمان اللہی و
پیردی سنت رسول او بودن است و خود را از هرچہ نباید کرد از عضت پ راندن و بدی مسلمانی اندیشیدن
و بتایع یے مدار و بینوی نظر انداختن و خود را از سائر مخلوقات بزرگ ویدن و سفر آخرت را فراموش کردن
نگاہ داشتن است بعد از عزمیت تحصیل ایں صفات اگر قبول خدادندی و رسکلمہ لا إله إلا الله محمد مُحَمَّدٌ
رسُولُ الله را آہستہ تکراری کروہ باشد و در وقت تکرار بفراغ خاطر عالم و عالمیاں را از نظر اعتبار انداختن
شرط خہر علیجہ است حق سبحانہ و تعالیٰ و رہمہ حال ظاہر و باطن ہمیشہ ناظراست و خلیفہ طالب صادق آنکہ
چشم از مخلوقات پوشیدہ ہمیشہ منتظر نظر رحمتے باشد۔

یک پشم زدن فائل ازان ماہ نباشی

شايد کہ نگاہ ہے کند آگاہ نباشی

باید کہ بد ای کہ اصل فرعان ول لقمہ پاک حلال بقدر حاجت خوردن و ترک اخلاق بیوہ گویاں و
و نیاطلیماں کردن است اگر ہزار سال ذکر گوئی و لقمہ ات ازو جہ حلال نباشد مقصودت جمال نخواهد مٹو دہ

صمت دجوع و تہر و عزلت و ذکر بدوا م

ناتما ان جہاں را بجند کار م تمام

والسلام والا کرام

۹۔ سرمایہ ہمہ سعادات پا مجست ذاتی حق سبحانہ است اشاره اللہ العزیز بوجه اتم علیتگرد و ان

بَلْتَ عَيْنَ مِنَ الْكَرْمِ الْحَقِيقَيْنِ بِالصَّابِقَيْنِ -

تُوْمُوكُوا رَا بِرَا دُرِيَا رَنِيْسِتْ

بُرْ كُرِيمَا كَارِهِ بَا دُشْنُوا رَنِيْسِتْ

الْفِصِّيْهِ سَهْدِيْشَهِ اَمِيدِ وَارِدِنْگَارِهِ مِنْ بَأْيِدِ لَبُودِ وَتِيْجَ كَارِهِ رَامَانِعِ اِيْنِ تِنْگَرَهِ اِنْهِيْ بَأْيِدِ سَاحِرَتِ بَالْجَلَهِ
غَمَانِيْجِيْزِيْهِ مِنْ بَأْيِدِ خُورَدِ - هَرِزِيْا نَيْتِهِ كَهْ دَرِهِرِ كَارِشِوْدِ كَوْشُوكْفَتِهِ اِنْدِجَمِيْتِهِ آنِ اَسْتِ كَهْ اِذْهِمَهِ بِلِشَاهِدِهِ
وَاحِدِ پُوْدَازِيِّ دَرِكَلَاتِ قَدِسِيَّهِ خَواجَهِ بَارِسَا اَسْتِ كَهْ جَمِيْعَهُمْ كَمَانِ بِرُونَدِ كَهْ جَمِيْعَتِهِ دَرِجَمَعِ اَسْبَابِ اَسْرَتِ دَرِ
لَفَرَقَهِ اَبَدِ مَانَدِهِ وَفَرَقَهِ بِيْقَيْنِ دَانِسْتَهِنِدِ كَهْ جَمِيْعَتِهِ اَسْبَابِ اِزْ اَسْبَابِ لَفَرَقَهِ اَسْتِ دَسَتِ اِزْهِمَهِ اَفْتَانَدِهِ
خَدَا تَعَلَّهِ لَيْجَرِمَتِهِ مُحَمَّدِ مَصْطَطَفَهِ وَمَنْتَسِيَانِ آنَحَضَرَتِهِ عَلَيْهِ دَعْلَهِ آلَهِ اَفْضَلِ الْعَصَلَاتِ وَاَكْمَلِ التَّحْيَاتِ اِيْنِ
گَرْفَارِ رَابِكَمَالِ اِيْنِ جَمِيْعَتِهِ بِرِسَانَدِ حَقِيقَتِ اِيمَانِ كَنَدَنِ دَپِيْسَتَنِ اَسْتِ -

بِصَرَعِهِ - يَعْنِي اِزْ غَيْرِ كَنِيْهِ دَلِ بَجَنِدِ پَيْونَدِي

عَاقِبَتِ كَارِبَا اوْسَتِ -

گَرِ بِرِوِيِّ عَذَرِ بِزِيْبَتِ بِرِندِ

وَرَنَهِ خَوْدِ آنَدِ دَاسِيرَتِ بِرِندِ

۸۰- حق سُجَانَهُ وَتَعَالَى بَاعْلَى مَرْتَبَهِ الْقِيَادَهِ مَشْرُوفَهِ كَرِدَانَهُ - عَرْغَنِيزِيْهِ بَهْ بِيْكَهِ اِزْ دَوْسَتَانِ خَوْدِ
مِيْ گَفتَ صَوْنِي مَشْوُعَلَّا مَشْتَوَانِ مَشْوَأَلِ مَشْوَمَلَمَانِ شَوْتِوْنَيِّهِ مَسْلِهِهِ دَالْحَقِيقَنِيِّ بِالصَّالِحَيْنِ
الغَرْضُ كَاهِهِ بِجَهَتِهِ حَصُولِهِ بِإِيْنِ مَطْلَبِهِ بِرَاءَتِهِ مَا فَاتِحَهُ مِنْ خَوَانِدِهِ بَاشِيدِهِ اِيْنِ رَابِرِ تَكْلِفَهِ حَمْلِهِ ذَكْنَهِ، كَهِ
مَسْلَهَانِيِّ كَارِبِزِرَگِ اَسْتِ - بِيِّ مُوْهِبَتِ الْهَيْهِ بِدَسَتِهِ مِنْ آيِدِ دَائِرَهِ كَسِيِّهِ اِزاَلِ خَالِيِّ اَسْتِ حَقِيقَتِ
لَعْوَيِّهِ نِيزِهِمِ مُسْلِمَانِ شَدَنِ اَسْتِ تَصْوِيْفِهِ بِيْكِسُونَگَرِيْسَتَنِ دَيْكِسَانِ زَلِيْسَتَنِ - دَالْسَلَامُ عَلَى
مِنْ اَتَبَعَ الْهَدَيِّيِّ .

ایں رَقَهِ بِيْكَهِ اِزْ دَرِوْلِشَانِ عَمَدِ نُوشَتَهِ شَدَهِ -

۸۱- بِيْكَهِ اِزْ دَرِوْلِشَانِ عَمَدِ سُجَانِ اللَّهِ بَنِيِّ دَانِمِ كَهْ چَلُوْسِمِ بَارِيِّهِ كَمَالِ آنَحَضَرَتِ اِزاَلِ دَيْفَعِ تَرَاسَتِ

که نظر و انش ہر سپت رسمے ازاں دریا بد تا الحضرۃ البشائرش و بیان چکونگی آں وقت خود را معمور وارو
لا حصی ثناء علیک خود بزبان حال در خلوت خانہ وجود خود با خود و استان زیبائی خود در میان داری
بلے ترامی سرزو که مستور قباب عرقت را نظر اره کنی لا یحمل عطا یا هم الاعطا یا هم و اگر فضل
از ازاں کوتاه نظر ازاں در میان آورده و خود را لقدر استعد او ایشان پایشان منوده آں رانیز با تو نی تو اند
شروع در اظهار آس عاجز آمده چاره جزو آن منی بلند که بکلمہ جامعہ انت کما آثینیت هنی تقسیم
اکتفا نمایند چیز آں منودن که اظهار جمال خود کردن است حقیقت شمار است الحق ایں خوشتر چوں تو
راز سے را که در خور ندت با خود واری ما نیز راز یکم در خور ماست در میان منی آریم سے

هر که رو ہرنگ یار خوش نیست

عشق رو جوز نگ دلوئے مش نیست

پیغمات چکوئم ایں امانت است که از تو بدار سیده ایں رانیاً مفسیاً ساخته حق را پوشید بداع
ظلومی و جھولی می باید مبتلا شد لا ایمان ملن لا امانة له مگر از نیجا است ها عرفنا لحق معرفت ک
درین مستشهد جمع است زیباتر آنکه از نگ کذب نیز مبر است سے

آزا که فنا شیوه و فقر آهیں است

نه کشف و یقین نه معرفت نه دین است

اگر صاحب ایں مقام شمار شارا ازاں شبیت مائے و منے سلب نماید یعنی از شانے بحالی غرب
نیست عجیب نیست ہر چند که ایں کلمہ نخیر از مقصود فی الجملہ بیکانگی واشت اما چوں سرداشتہ سخن باں جا
کشید و در تحقیق معنی حدیث و خلی واثت عنان قلم و سرت رفت اکنوں وقت رجوع و بازگشت است

ع از ما ہمہ عجز و نیستی مطلوب است

لَا إِلَهَ إِلَّا أَذْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ورین صحیحہ حدیث لا حصی
ثناء علیک انت کما آثینیت علی نفسک از راه تادیل بہ پنج صورت تمیین گشت چنانچہ به تأمل
شافی معلوم می گرد و مجموعہ ہلتے مکارم اخلاق مخدوم زاوہتے آفاق بندگی قبول نمایند بھاں سخن است

سے زبان سیرت ہر کس ثنا گر است اور ا

چہر احتیاج بدانج دیگر است اور ا

۸ - بداینیکہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بو پاک زاد تریں آدمیاں ہیچ خواندہ بود و اہل آں ولایت کے اور آنجاز ایڈہ شدہ دکلاں شدہ نیز خواندہ بودند آرے پدران پیشین ایشان بھمہ پھر کہ آدمیاں رامی پایید داناتر بودند وہترین روئے زمین بودند اما رفتہ رفتہ علم درالیشان نماندہ بود ناگاہ خداۓ تعالیٰ مجدد علیہ وسلم را بیا فرید و ایشانے خود کرد خدار اچھا نچہ پہ ازاں نتواند صورت بست شناخت و فرشتہ رافتاد کہ پا محمدؐ بگو کہ صفات مرا بآدمیاں و جنیاں بگوید و اذ ہر چیز رسمائے من دراں نبیت ایشان را منع کند و مذاہ و روزہ و زکوٰۃ و حج و جنگ باکافراں بایشان تعلیم کند اول فرشتہ آنہار اچھا نچہ خدا گفتہ بود پھیل صلی اللہ علیہ وسلم رسانید بعد ازاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجا عتے کہ پدیدار پاک او مشرف بوند رسانید بایں تقریب خدا تعالیٰ کتابے کہ نام شریف او قرآن است بواطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بفرزندان آدم و بفرزندان جن فرستاد انکنوں بندہ مومن رامی پایید کہ بدلتین کند کہ ہرچیز دراں کتاب است و ہرچیز محمدؐ کہ فرستادہ و بگزیدہ خدا است گفتہ است ہمہ راست است و بزبان نیز بگوید کہ خدا یکے است و محمدؐ فرستادہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چوں ایں قدر و انسنت می پایید کہ ازو ایاں تحقیق کند کہ ما را دراں کتاب چہ فرمودہ است چہ پھر می پایید و انسنت و چہ کار می پایید کرو دراں کتاب فرمودہ کہ من زندہ ام کہ ہمیشہ بودہ ام و ہمیشہ خواہم بود و بھمہ پھر و ایاں کنم و بی بھمہ پھر قدرت و ادم و ہرچیز خواہم کی کنم و ہمہ پھر می شنودم و ہمہ پھر می بیشم بہر کس از رگ گردن او تزدیک ام قمار و جبار م با وجود از ہمہ کس رحیم ترم و تمام عالم را آدم و پیری و فرشتہ وزمین و آسمان و میگ و چوب و ہرچیز دراں یہا است ہمہ رامن ساختہ ام و می سازم ہرچیز پیدا می شو - من پیدا می کنم و ہرچیز نابود می شو و من نابود می کنم لیکن رسدن آتش را بہانہ ساختہ است تا ورنیا ہر کس اور ایشنا سد و کار او را نہ پنید بداینید کہ او یگانہ است دریں کار ہائیچ شریک و وزیر و کارکن و یار می دہندار و ہرچیز غیر اوس ت ہمہ را ساختہ و آفریدیہ است و یگر دراں کتاب فرمودہ کہ پنڈگی من بکنید و آں بندگی نماز و روزہ و زکوٰۃ و حج و جنگ باکافراں است و دیگر حق خدار ان نگہدارید از ما و روپہ وغیرہ و بیچ کس خلکم نہ کنید علم ایں ہا بسیار است آہستہ آہستہ ازو ایاں تحقیق کنید و مگر بداینید کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوش رو تریں و خوش خلق تریں آدمیاں بود ذات او از ذا اہم پاک تر، دل او از ہمہ دلها روشن تمہام اولیاء گدا بیان درگاہ اوئند ہرچیز درآدمی باشد ہمہ را از ہمہ کس بیشتر و اشت دہم چنیں لئے بداینیکہ کے بعد کہ "quam bazar and" ہے۔

خدا تعالیٰ ولی او را خانم نخواسته بود و هر چیزی گفت از خدامی گفت و هر چیزی داشت از خدامی داشت و هر چیزی کرد بقدر است خدامی کرد و الحال نیز هم چنین است و آنرا بد بود و هم چنین خواهد بود چنانچه کسے را هن می گیرد و زین وقت هر چیزی گوید و هر چیزی کند چن می کند ایں مثال بعینه نیست ایں مثال از برائے آنست که بد انید که قرب او برای سچ قرب نمی ماند.

بعد از آنکه جناب مخدومی استادی میان شیخ احمد سرمندی بدرجه کمال و تکمیل بلوغ نمودند و از پس فید عظمت و بیهی نهایت حضرت مقصود عز قدره و مزید طلب کرد آن خنفس حضرت ارشاد پنلی بخود را مدبندی می گذارد و نظر در حاصل خود نمی اند احتدند. مکاتبات بروش نذکوره بخندو می نذکور شرف صدور می یافت و در خلاء و ملا بر وفق این مضمون ناطق بودند و کمالات جناب مشاور الیه راز یاده از انجی سلیمانی کاتب و دفلم آرد از حضرت ایشان شنوده و رضیان اوقات به ایں نهایت نامه نوازش فرمودند.

۸۳- پرشیخ احمد سرمندی حق سپحانه و تعالیٰ باعلیٰ مرتبه کمال و اکمال برساند

دلارض من کاس الحکرام نصیدیك

^{لسان مجدر} تکلف نیست آنچه حقیقت حال است نوشتند می شود. پیر الصار قدس سره می فرمودند که من مرید خرقانی ام لیکن اگر خرقانی و زین وقت می بود با وجود پیریش مریدی من می کرد هرگاه صفت آن بیصفتان ایں پاشدگرفتاران آثار صفات چراچان فدا شد نو ازم طلبگاری نکند و از هر کجا بپونه بمشام ایشان برسد در پی آن نه روند. اکنون توقف و اهمال مانند از استغفار و بی نیازی است موقوف اشارت است.

سے چوں طمع خواهد ز من سلطان دیں

خاک پر فرق قناعت بعد از زین

بارے نسخه حال و اراده ما این ایت خدا برآ آنچه می یابید همتگرداند و از عجب و پندار مخلص بخشد. بقیه المقصود جناب سیادت آباب امیر صلح سلمه اللہ اطهار طلب نمودند چوں وقت فیر مقتضی آن بنود تفاسع اوقات ایشان وادن لازم مسلمانی نه نمود لاجرم بصیرت شما فرستاده شد انشاء اللہ بقدر است بعد از هر چند گزند و توجہ لطف کامل بیایند. والدعا

بعد از ترک مشیخت و شروع در هزید انزواج سوائے پند لفظ مخصوص بهمہ حاضران را در اوّل فرموده بودند که بخدمت استادی میان شیخ احمد سلمہ اللہ برند چوں گیشتن ایں چنین مخلصان بیکت بازگی ازین درگاه بعایت امر و شوار بود ملول شدند. آخر جمیع را بالطاف و ترغیب راضی کرد و فرستادند و آنها که بیه رضامحصن امر عالی فی رفتار منع کردند و دران وقت ایں عنایت نامه تو شده شدہ بود.

۸۲- بیشیخ احمد سرمندی - حق سبحانہ و تعالیٰ بکمال صفا بر ساند. جمیع ازوستان کہ گرفتار بار وجود مابودند. چوں ماوراء میقیق وَمَا هِئَتِ الْأَدْلَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَرَبِّنَدِ مَصْلُحَتِ فَنَكَرُ وَعَقْلُ ما اتفقاً ہے آن کرد که درین پوشکال از مقابله ایں بوقلمونی دور افتاده در تحت اشتعه آفتاب شہو و زندگانی مانند انشاء اللہ العزیز بہ نیکی و پاکی آخر رسید فوائد جماعت و صحبت محقق است و روشن چہ حاجت اطمینان ہے

ما گرفتار بیم بہ مانو کب بیداریز
سنبل و گل بیکنار مردم آزاد ریز

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ جَمِيعِ مَا كَرِهَ اللَّهُ - دیگر دیری است که اذ احوال شریف خود پھریزے دستے لفرموده اند انشاء اللہ العزیز نہیں مانع باشد بعد از پوشکال اگر راه استخارہ باشد خواهد آمد والافتاد لیکن آپنے در استخارہ ظاہر شود بما ینویسند اگر تعبیر خود نیز تو یند نور علی نور. والدعا

۸۳- اللہ تعالیٰ فقرات مساکین و رماندہ را از برکات بیگزیدگان بدرمان نہ برساند. مذکور است که نیازے بد رگاہ ولایت عرض نکروه ایم آرے ایں پاک کلمہ راقصداں ععادق عامل می توانند شد بحمد اللہ ایں قسم خود صورت می بندو. دیگر چہ تو سیم سخن درویشان بحضرت شما تو شمن بعایت بیشتر می است و حکایت او صراع صوریہ بسیار بے جا الغرض ماراحد نووی باید والست و از فضول احترانه می باید کرد.

در ایامیکه ترک مشیخت فرموده اند. افزوا و تهائی بازیادتے می پذیرفت نیز مایاں مشایعت ہا و تعظیم ہا بروش سابق می نمودند اذ خانہ باہل مسجد و رتک تعظیم ہا نئے عمر بدانہ ایں رقص را نوشته مسجد فرستادند.

۸۶- به اہل مسجد. معروض مخادیم می گرداند کہ روزے چند مصلحت خود و راں می بنیند کہ بمقتضی کلمہ قدسیہ حضرت خواجه عبد الحنفی غجدوانی کہ در شیخ را بربند و دو ریار می را بکشانے تھمل نموده آید اکنون التماس آن است کہ ہم چنان کہ کرم نموده مشایعت را ترک نموده اند تو اضع و تعظیم را در مسجد نیز ترک نمایند و رنشست و برخاست و آمد و شد مسجد ہماں معاملہ کہ پرزا حسام الدین و خدمت مولیانا یوسف و امثال الشیان می نمایند بعفیق نیز نمایند خود و بزرگ ازو لہ تا میاں شیخ المهداد بپیش عمل نمایند اشارۃ اللہ مشاب شوند.

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدًى

مستعد روزے چند گاہ گاہ بدین آستان آمد و شد می کرد و بواسطہ کمی اختلاط بخادمان ایں درگاہ و مصاہیان قاصر ہمت و کثرت امیدواران و فرزندان نتوانست کہ تحمل فقر نماید و صلاح در سعی معيشت او ہم ندیدند اصطرار ارجحتے گرفته برائے کسب معيشت رفتہ بود عزیزے از علماء کہ از را و معنی نہ رہا وارند. چون مستعد مذکور قرابتے واشنند کہ مشاہد ایلیہ ازال سفر مراجحت نموده بکسب کمال اشتغال نماید بعض رسائیں نہ که در تر غیب آمدن او چیزے قلمی فرمایند بواسطہ رعایت خاطر آن عزیز کتابتے کہ مشاہد ایلیہ مستعد مسطور نوشته بود طلب و اشتبه و رظہ آن ایں چند سطر را نوشند.

۸۷- به مستعد می - آللہ ولی الدین امّنوا بِخَدْجَهُمْ مِنَ الظَّلَمَاتِ الی النور
ہر چہ نوشتنی بود در صحیفہ بندگان مخدومی مندرج است زیاده چہ نویسم بارے فرصت
وقت بلکہ وقت و نفس راغبیت شروعہ بمقتضیاً آن زندگی می باید کرد. در لغت کہ ایں عاجز
گرفتار را وقت کار ناندہ و اگر نہ بتوفیق اللہ تعالیٰ وریں در روزہ عمر دیوانہ وار ماقم بازماندگی

خود می داشت و در حستجوئے کیمیا تے مقصود تگ و دوستے می نمود وزندگانی فدلئے ایں راه
می کر د جت تعلائے وریں افتاب دگی نیز دردے و آشوبے کرامت فرماید کہ کارِ د و جہاں خود را
در قبضہ اقتدار نہاده از مجموع گرفتاری ہافراغے بیا یم آیین یارب العالمین - امید اذان
برادر آن است که روئے برخاک بہ نہن د ویراستے حصول ایں آرزوئے فقیر از خدا بخواہند که
دعاء الغائب للغائب سرع رجابة آمدہ والدعا.

رسائل

دربيان حقائق نماز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بعد ایام آفتابِ الله تعالیٰ و آفتابِ کا

کہ نمازِ حقائق است و صورت است و ظهورِ حقائق است او موقوف است بشرف
شدن بیوتِ ختمیاری و طلوعِ این شرف لذراہ سلوک بنی بروده اصل است اول توبہ دوم
دَه سوم تو کل چهارم فاعل پنجم عزلت ششم ذکر هفتم توجہ هشتم صبر نهم مرافقہ
دهم رضا و طالب حمله حقیقی اگر مستعد نزول جذب الہی باشد و قابلیت تقدیم جذبه پرسلوک
داشته باشد وظیفہ او آنکہ بعد از طهارت باطن بتوابع نصوح و حناتی کردن دل از آرد و
ہائے نفسانی و روحمانی کہ مقرر ہر است و توجہ بحضرت حق بجانہ نماید توجہ بجملہ بیویانی الوصف
پاک از اختیارات متخن و مستنکرو کلمہ ائمہ و جہت و جھی للذی فطر المُسَمَّوْاتِ وَالْمُخْرَجَاتِ
را شعار باطن خود ز دیکن کر کشش غیبی در رسید و اور از و بستان و معنی و ما انما من
المشرکین بے او در دجلوہ گر شو و چیل اور ای زیاد بدیند تعطیش زیادہ شود و تعلقش فوت
گیرد و حقیقت مرافقہ کہ نماز اس حصول مقصود است بظهور آید طهارت راصنعاً و گیر پیدا
شود پر توجیل ذاتی بزبان حال با او بے علتی دیے نیازے مطلب را درمیان نہ مصنی تو کل را
کہ بپریں آمدن از رویت اسباب است دریا یا کہ لطف حق مد نماید سیند کہ توجہ بز ازو
است خود را از بیں صفت خالی شناسد الله اکبر من ان یہ توجیلہ الیہ - ایں جا
رو نماید ایں زمان توجیل گیر پیشیش آید و ما انما من المشرکین را بزبان گیر بخواهد
حوال و قوال بیش تجاهم از عمل معزول شوند صفت عزلت تحقیق شود و بوارثت قبول خطاب
فتحہ بحدل بخلاف لکھا پیدا کند از عمدہ امر فاذکر سر بلک اذ انسیت بر کا پیدا تشریبہ حق

لہ الیہ پیرے فخریں بھی یہ لفظ الیہ لکھا ٹھاہے میکن از روئے عربیت درست جنیں بلکہ یوں پڑنا چاہیے ،
الله اکبر من ان یہ توجیلہ الی غیرہ (توجیلہ) اشتبہت بڑا ہے اس سے کہ لفظ جان
کے غیر کی طرف کی جائے)

کند و سخا نکم اللہم و محمد کنگفتی گیر و قدم در مقام تسبیح و اتحاد بنه ازین
 جایان زرقی کند که کل کائنات را مُضْمَحِل و ناچیز نیاید کلمه لا الہ غیر ک سراز قتاب نواری
 برآرد این جا خلاصه قاعده درست ام نیتی اش بینگند. باز تو اند بود که واذکر مرابتک
 اذا نسیت لباس دیگر پوشیده کار فرانے او شود خود را بعده قرار داده بمیشتقت عالم صبر
 نماید و را بمن موطن حکمت ارسال رسیل دنیا گنج تکلیف پوشش سازند تغوز نموده بته تکلف شروع
 بقرائت نماز کند فتح دیگر ش او و هر دیصراط هست دشود و بسعادت رضی الله عنهم و
 عنده برسد چون در این وقت ام ملکم شود همد فیصلوت هم داشمون صفت
 حال او شود این است صلواۃ حقیقی - اگر کنه ذات پر او تجلی کند خلاه درین مندل و
 خواه بپیش ازین در منزل فنا حقیقی باطنیش از مجموع امور سر و شود در دنایا فنت گریبان گیر
 باقیش شود د معنی اشتهای سعد ها لا عود له دلنشیش گردو.

رباعی سه

| | |
|---|-------------------------------|
| جانا بسته مار خانه زندے چندند | بامومن کم عیار کم پویندند |
| زندے چندند کس زنداند چندند | برزیه و نهند برد و عالم خندند |
| تو اند بود که فقرش په نهایت رسید و منظر آنم الغنی شود هنوز در دنیه باشد این درد | |
| است که مقصود آفرینش است عبادت روحیه همیں در دنیه است | |
| ۱- در و تو تا بد دلم را درد تو | لیک نے در خود میں در خود تو |
| ۲- در و چند انس که میسد ای فرست | تا تو انم آنچیه بتولم فرست |
| ۳- ذره در د از همه آفتابی به | ذره در د از همه عشقی به |

خدامت مولانا قاضی در کتاب سلسلة العارفین از حضرت قطب المحققین خوش الاسلام و مسلمین
 خواجه حسداز نقل کرد و اند که ایشان می فرمودند که از خدمت مولانا جلال الدین رومی پرسیدند
 که عقل چیزیست ا فرمودند که عقل آنست که پر بیچ چیزی کرام نیگرد و بجز حق سبحانه و حق آفتاب
 که پر بیچ وجہ درک نشود و هم چنین رسم و می حروفت از جانب ارشاد کاب مولانا خواجه
 امکنگی فتد رسه و شدسره و ستماری دارد که از والد بزرگوار خود و ایضاً بیک و اسطه از مولانا اسمایل

شیر و افی نقل می کردند که تخلی در ذات بحث نمی باشد و
دولا بستان پارگاه است

بیش از بیش پر نبرده اند که هست

بلکه اتفاق محققین است که ذات مطلق محاط علم نمی شود سواد اضیفه ای اخلق
او افی الحق جا به گوید که محاط علم ناشدن نبایی معلم میست نه می رساند چه حقیقت علم
احاطه است جناب دلایت آب شیخ اللہ بخش علیہ الرحمۃ که مرید مجبوس حق و مجدوب و
مطلق میر سید علی قوام جونپوری بودند بر مشرب تفسیر و گزنشگی نام بودند و نهایت یہیں رامی
و نشاند الحق ایں چنین است ایں مصنی اثر گرفتاری بذات بحث است و حقیقت کلمه
لا الہ الا الله حضرت خواجه محمد پارسافت در سرمه در رساله قدسیہ از خواجه نبرگ نقل
می کنند که می فرمودند در بدایت جذبه هرگاه توجیه برداشتبیت او بیس قرنی رضی اللہ عنہ
کرده می شود اثر آن توجیه بی تعلقی نام از علائی صوری و معنوی بود و ایضاً در همان رساله
از حضرت خواجه نقل می کنند که هر چه در پدره شد و انته شد همچ غیر است نبایی مقصود نیست
مقصود ذات بحث است او در علم نبایی آیدیه

بنیت کس را از حقیقت است آگهی جمله می کنند زاده است شی
پس خلاصی گرفتار ای جزویان نیست که بحسب اتفاس نبایی وجود دلوارم ای مشتی
شده معنی الفقر لا یعترض ای مرضیه را آغاز سازد صفت گرفتاری و غیر آن را باصل
حاله کنند سیحان اللہ از غیر خوب و در اتفاق مرض غرض بیان حقیقت شکرا و صورت حصلواه آنکنون
بر مقصود بیان چوں بیان صدوره "حقیقی ثوریم شروع و صدوره تصریح نایمهم".

صورت نماز

لیس کم مثله و هو السمع البصیر - حقیقی ای معنی نه در خود حوصله
تشیت ترا این بسکه بدایی که حضرت حق جل شانه بشه چوں و بی چکونه ایست که بر اینچ وجہ
در احاطه ادراک نبایی آید لایل هر ک کابص اسما بایی نیز محیط هر ذرا استش و همه ذرت

عالی آئینہ صفات روشنندہ ہر کجا۔ علیست علم اورست و ہر کجا قادر تے است قدرت
او علی ہنر القیاس ہمہ صفات روشنند کہ از پرده مخلوقات خود کردہ اندیشہ اورست مخلوقات
نمودی اندیشے بود چنانچہ در آئینہ می ناید لیکن آئینہ ہم چنان صاف دیاک از صورت صورت
نه در دوئے آئینہ است نہ در دون او نمودی است بے بود۔ چون مخفی را در بیانی بر تو باد که
مراقب حق باشی و حق را حاضر و ناظر خود قصور نہائی بلکہ چنان دانی کہ ہر چہ در توا است از علم و قدرت
وسائر صفات ہمہ از حق است و تو ہم چنان خالی۔ دبے احصل۔ بل تو بیکم نہ نمودی بے بود
در خارج ہماں حق است و بس لیس فی الدلائل فیہ دیاع۔ و ہم چنان پر صرافت
بیکانگی خود و منزہ از انکہ جسم و جسمانی و جو ہر و عرض پا شد و موجود و غیرا و موجود شے نہ لا الہ
اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد علیہ فضل الصدقة فاکمل التجیات کہ فرستادہ اسم جامع اللہ است
و بحسب حقیقت علیہ او با او کتاب جامع ہمراہ ہماں آئینہ صاف است کہ مجھت خود
با حسن صور و تقیید با حکام و کمار آں صورت جامع در کسورت بشریت در آمد و آسم محمد یگرفت
پس بر تو باد کہ حفظ مراتب کئی و اسی مرتبہ را بر مرتبہ دیگر اطلاق نہیں و احکام شریعت را
نیکت محمد ارمی و سعادت جوز در متابعت شریعت نہ افی۔

خال است سعی کہ را و صفت
تو ان رفت جزو در سیمی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ و علیہ الہ واصحابہ وسلم۔

مختصر بیان توحید

کان اللہ ویم یکن معہ شی کلامے است از مشکلاۃ بنوت علی صاحب
من الصدراۃ افضلها بیکھور رسیدہ والآن کما کان کہ با قیاس از انوار آں مشکلاۃ بنوت
بعضی از اکابر صوفیہ جبراں با فتنہ مخفی است بآں چون دیدہ می شود کہ اکثر منتصوفہ ایں بیار
مداراں سُخن را بر توحید می شنند بے آنکہ از حقیقت العالم لم یظهر فقط بے خبر
با شنند اعاذنا اللہ و جمیع المسلمين من شر ذلک الاحتیاط والاحتیاط

بخارطچیاں آمد کہ کلمہ چند درمیان حقیقت آں علی اس بیبل الاجمال بنویسید۔ بد انکہ کان اللہ ولیم یکن معرفہ شی اشارہ پر تبدیل اطلاق است و تقدیم آں پر سائر مراتب تقدم است ذاتی۔ چہ نزد عظماً گئے کشف مقرگشته ارداح کمل فتیم است الآن کہا کان عبارت است اذ آنکه او ہم چیاں پر صرافت اطلاق خود است ظہور مقیدات جلوہ اطلاق را پر نہ اندھخته۔ در آں حضرت ازل وابد ظاہر و باطن در یکی نقطہ جمع است چوں ذرات عالم جی زمان متعارف ہو ہم الاتصال مجرد ظہور عبیدم می رو نہ دفتر مان وحدت حقیقی بنہوں می رسید پس درمیان بردو آں دریاۓ کے لانہ اسی اطلاق دھیا است کہ اذ کوئی بھی ظہور مقیداً نہیں باہیں سہمہ اطلاقات بے انتہا نزد یکی است کہ فنظر عارف کل شی ها لکھ الوجہ نہ راشم بینید و آنکہ می گویند حفظ ما بین النفسین دل نفس رحمانی است و اہم آنکہ اند نہیں بعارف اصلاح بین از حفظ ما بین النفسین بہتر والا عارف را چہ احیا ج است بحفظ ما بین النفسین او از و منفک نیست چہ در اصلاح بین و چہ در غیر آں گویم الائک کہا کان عبارت است از انکہ اشتپیا نمودی است بے بود۔ پوئیے از و بھود خارجی بشام او نہ رسید ہم چیاں در عالم آر بیدہ بایا کوئیم اللہ تعالیٰ اعلم کان اللہ بعد از ظہور و قتنے بودہ باشد کہ طالع اللہ الآن آن است دالآن کہا کاف بیز ہم چیاں با آنکہ الائک کہا کان یا بی معنی صحیح است و اگرچہ کان اللہ بمعنی اول باشد بمعنی در نظر شہود میں ہم چیاں بود۔

مر باغی ہے

من ایتھم و کم زیستیم بسم ربیا رسے از بیت کم اذ بیت سبیا پیر کارے
ہر سر کنہ اسرار حقیقت گوئیم زانم بند بھرہ بجز گفتاتے
ہنچہ تو کشی آب ده و آنچہ عبد اللہ فرا آب ده۔

معنی لغود

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یعنی پناہ می گیرم جنساً از شر شیطان رانہ شدہ استعاذه پیش از قرأت قرآن چہ در نماز دچہ در غیر آں پر حضرت رسولت پناہ حملی اللہ

علیه و سکم فرض کردہ پر امرت مبتدا بعثت او سنت شدہ شک نبیت کہ آنحضرت علیہ السلام
الصلوٰت و اکمل النجایات در وقت تکلم پر کلمہ تعود با علی مرتبہ محنی آنتحقی پودہ اندوں سے
طريق مبتدا بعثت آن امرت کہ مجرود گھتن این کلمہ اکتفا نہ نمایند و بحسب باطن خود را عاجز محس
شناخته در دفع و مساوس شبیطان نبیه التجا بتعاد بطلق بیارند تاقرأت کلام او خالی از کدو رت
اندیشہ اسے پر آنندہ شبیطان نبیه و سنت و هدہ۔

محضی نہ انذ کہ این قسم تعود از مقولہ تو کل امرت یعنی خدا مئے را بسخانہ و کبیل خود انذ کر دن
و قدرت روی اندو دخود را بخواشہ گذاشتیں این تو کل از فرع ایمان امرت چہ نہ کہ ایمان آمد و باشکه
آفریدیگار جزو کل ملہ است و افسنت آں را کہ ہر فعل و صفتی کہ ازو و از غیر اول بظور می آیدیہ
بحضن قدرت آفریدیگار است وحدت لا شریک له زستکه در خوبیہ سنتی او امرے موجود
است یا البتہ موجود خواہ شد کہ آیا وفع ضریے با بدلہ منفعتے نایا۔

حضرت حق سخانہ بعد از آنکہ سیغیر خود را امر تبخود کردہ می گویند انہ لیس لہ سلطان
علی الذین أهْمَلُوا وَ عَلٰی رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ یعنی پناہ بخدا بیگیر از شر شبیطان حجم
کہ نبیت تصریف سلطنتی شبیطان را برآئنا کر ایمان آوردہ اند و بمقتضی اسے ایمان پر دروغ کار
خود را و کبیل خود انذ کر دن اندیش کشاہ صادق برآئیجہ بیان تعودیم انشا اللہ العزیز مارانیز نصیبے
کامل و زیں بر سد۔

فصل در کلمات قدسیہ احرار بیہ نو شستہ اند کہ ہر ضعیفہ را کہ با دشمن قوی کار انذ چوں بصدق
و بیقین نام از حمل و قوت خود بپروں آبیہ ہر کائنہ بحوال دفتری از بیشیں گاہ موید شود کہ آیا حمل و قوت
بر اعداء و بین و ملت خلبہ تو اند کرد خدمت ہولانا محمد تقاضی کہ از خلص اصحاب آنجناب پودہ اند
نو شستہ اند کہ ایشان پر گاہ در حمیے باہل زمان خود از سلاطین و حکام چیزیے می نو شستہ ساختے
سکوت فرمودہ مظلل می مانند و بعد ازان شروع در کتابت خی تعودند و سر سکوت و تعطیل را ہم
خود می فرمودن کہ ساختے خود را از خود خالی ساخته در مقابلہ کہر یا کے الی می سپارم وجہ ازان می ٹھیک
کہ قلم از بجا سے و گیکر بخاری می شود من قطعاً در بیان نیتیم مقصد از ذکر این سخن آنکہ اگر ہنگام تعود و ارادہ
تلادت بحقیقت ایمانے کہ مورث این قسم تعود شدہ کاملے تحقیق شود بقرب فرانس مشرق خدا

شده چنانچه فاجیره حثی اسمع کلام الله را اکابر تحقیق درایین مقتضام داشته اند و در آن
وقت زبان قاری حکم شجره موسی علیہ السلام خواهد داشت - بیت هے
بی شک آن آداز هم از شفه بود
گرچه از حلقوم غصبه ا شد بود
کلام امام حقیق جعفر صادق علیہ الحجید که فرموده اتی اکرم آیه حثی اسمع
من اهتم کلم را شیخ اشیور شهاب الحقیق والدین علیہ الرحمه هم ازین مقام داشته - بیات
چوں پری غائب شود برآدمی
گم شود از مرد و صفت مردمی
هرچه گوید آن پری گفته بود
زین سر در زان سرے گفتة بود
چوں پری را ایں دم و قانون بود
کردگار آن پری خود چوں بود

رشید = حقیقت مرا قبه انتقال است و صفت ایک انتظار در طلب مقصود و مستقر بگیر ہو ائے او باشد
طالب از حمل و قوت خود بپرو آمدہ باشد و مشاق تقاضے مقصود و مستقر بگیر ہو ائے او باشد
حل ذکر کا - وید حمل و قوت انجیار کوشش است و انتظار استان کشش - ایں قسم مرا قبه
جز عقیقی و قریب الانتهاء اوست نبی وهدہ - لہذا اپو الجناب نجم الدین کبریٰ فرس سره و ربیان
حصل کردار بورت بالاملاکه برآں داشته ایں مرا قبیرا اصل ششم ساخته - لیکن بیندری عاشق را
تعلیم نہی می باید کر و خود را از حمل و قوت خود بآورده انتظار محض می باید بود اما سار مراقب است
که مطلوب را متعید نشکل و مثال و علم و جمال کرده و رعایت تعلیم آرند فرود ایین است و مطلع
هرچه پیش تو پیش ازان ره غیبت غایبت فهم قسم ایشان بیست

لاؤ ہو زان سرائے روز بھی

یا زگشته بھیب و کبیه شنی

حضرت سجاد و نواس لے پیغمبر خود را حیله الله علیہ وسلم فرموده که فاذا قرأت القرآن

فاستعد بالله من الشيطان الرجيم فمعنى نبیت که این امر فخر دالی الله و تقریب الیه است چه استفاده التجا بخسے بردن و در جوار او رفتن است - پس سئی متابع راسنادار است که بعد از دید عجز خود در پیاوه خنی بگریزد و حق را در دفع و سادس بوکالست اخذ کند لعینی به تمام مستغرق انوار او شود و در او ای کلمات و تدبیر مسحای او توجه را پراگنده نکند که او حافظه و کیبل است چنان می باشد لجهور می آرد - حضرت امام همام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ لعنهما می فرمود حق سبحانہ تعالیٰ مثل رائی عینی خاطر غیر رساننگام نمایز در اینجا فریده انسایر بیان اللہ لیذ هب عنکم الرجال اهل البیت و نیطر در کم تطهیر ا در فقرات احرار پیسطوط است که نبیت ما بحقیقت نبیت ایل بیت است و از آنچه ایشان نبیت خود را شرح داده اند روشن می شود که مصنی سخن حضرت امام آنست که رساننگام نمایز در سر ماشان از ملک و ملکوت نبیت نه آنکه اینجا مستند بیکن لباس بغيرت از کشیده اند چنانچه اکابر فرموده اند که در قرب نوافل چیزی خلائقیت مغلوب بجهت حقیقت است سے

چون تو سازی بر ای زمانها بدبار شتمول قا فلم بر قرائے تو وحدت احلاق غایب آید بخت در استحقاق

در قرب نوافل یا با وجود لباس نبیت بغيرت ایشان بر افاده چنانچه ارباب توحید صوری را می باشد - بدای ایا ک الله بنور القدس که این قسم تعریف فتنی را داشت می دهد و نزدیک باین کسے را که نهاد تشقیش در بدایت مندرج باشد بیکن جماعتی را که به لیقیان ایمانی مشرفت اند مرتبه انجیر احسان را می باشد از دست ندینه الا احسان ان تعبد الله کانک تراک فان لم تکن تراک افانه پس در اثنا ملک دست چنان بیندیشند که او ایشان را می پنیزد و این عمل را در حضور او می کنند - پنیزه بعض از عرقا فرموده اند که انسان مرکب است از روح و پیکل محسوس و امر بر استفاده مرنجوی را دست - آنچه نصیب روح بود خود از کلمات سابققه معلوم شد - نصیب بدن آن است که از منظا هر سه مفصل چون رفاه بد و سماکل و ملاسین منتهی و سائر اوضاع کمر و هد ایضا تاب نگاید

در و نئے توجیه مظاہر اسم الہادی بیارداز بجالسان موافق و اوصاف ع مشروع و مسنونه . و لضیب
ذبان تکلم بآں کلہ است یعنی اگر استفاده کاملہ بددست نیاید اذال بتمام شہ باید محروم شد
اگر در خذل جمع محرف پاشند ہمہ رامحرف نپاید گذاشت .

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْعَمَلَ بِمَا فَيْهُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مِنْ التَّبَعِ الْهَدِیٌ

معنی اسم اللہ و سورہ قاتمہ

بسملہ کہ در اوائل سورت پیش علماً خفیہ بجست فہستاچ قراءت است نہ داخل قرأت
و اگرچہ بقول اصح داخل قرآن است بیس قاری در خواندن سبیم اللہ ایں ارادہ می کند می فہستاچ
قراءت خود بنا م اللہ الرحمن الرحیم می کنهم اسم مبارک اللہ اور حرف طالعہ صوفیہ فہنس اللہ
تعلیے ارواحهم سر اطلاق است یکے ذات احادیث و بیکر ذات متفقہ برتبہ الوہیت دیگر
احادیث جمع مطلق یعنی مناسب حال کا تبیح مسامع مرتبہ درم است کہ قبلہ توجہ سالمکان و آرام
گاہ متنشنا قان درب عالمیاں و مالک یوم الدین است .

مرتبہ اول از عبارت داشارت منیرہ است . مرتبہ سوم واسطہ گرانی بیاراں
توقف و تعطیل سائران و مرذلہ پاکان است اکنون شرح ہماں مرتبہ درم کہ محشوی عالی ہمتاں
پاک نظر است . بنامم . اللہ اسم ذاتی است مسنجع جمیع صفات کمال آپنخاں ذاتے کہ او بود
با صفات کاملہ خود و عالم بندو و اکنون کہ عالم از عرصہ عدم پہنگنائے خیال آمدہ او یہم چیزیں
برقرار خود است پیش گاہ بقا و ثبات او راست و بیکار در معرض فنادمات جمل من لا الہ
الا هو لالتفعل کیف هؤلا ماهو اگر ذاقش پرسی لا فکر روا فی ذاته و اگر
از صفاتش پرسی شرعاً مجبور علی ما یفهم منه اهل المسان من العلماه السنۃ
مبین ان لیس کمثلہ شی و هو السميع البصير اگر قابہ است او است چہ مار ظہور فعل
و اثر است و فعل و اثر ازو . و اگر باطن است ہم او است و پیدہ سد کہ محروم حریم شہود است .
در طالعہ کمال او بجزہ است و پیش سرکہ دلیل کارخانہ نہود است در مشاہدہ جمال او بیڑہ است
کہ اقرب من حبیل الورید است و او است کہ فعال لہا بیرون است عرجمن

اکم ذات است به اعتبار افاضه وجود حقائق ملکات را این اسم خاص و اجنب است و بگرے افاضه وجود بشر نشاند کرد پس خپر که رمکش عام است . رحیم اکم ذات اسب باعتبار افاضه سائز ختم تابعه مرد چهار این اکم عام است چه و بگرے نیز تجویق حق بعضی افعالات می تواند کرد و بیکن معنی اش عام غایب است چه همه موجودات در همه وقت منحصر علیه بسته است الحمد لله بالاتفاق علی معنی آن است که پس از جنس استائش و شناس است شخص باشد است . مقصود از این اطلاعات حق است نه اخبار باین علم و لذت نفس الحمد لله نیز استائش است علمائے اہل سنت می گویند که عالم با جمیع ذات و صفات و افعالش در عرصه وجود نسبت بخلاق عالم چوں نقش است و صفحه کاغذ نسبت به نقاش اگر جزوی از نقش نیک ناید بیک آن راستائش کنند بته تکلف است این نقاش است اگر گفتہ شود که این سخن منجر ب مجرمی شود می گویند که اہل سنت در آدمیان صفات خوبی را بله آنکه اثری برای مترتب شود مخلوق می گویند و باین قدر از جبریه ایجادیز بیان نمایند . اہل تحقیق از اولیاء مکانت ب صحبت این معنی مجتمعند اللهم شهدنا علی القول الثابت .

وصل صوفیه موحدہ فتد اللہ تعالیٰ ار وا جھم که از خواص اہل سنت اند با وجود علم اول تحقیق این می گویند که نقش صور کو نیز که بقدرت کامله حق سبحانہ و تعالیٰ در عرصه نمود آمده اند از تجدیبات اکم بزرگوار آن ظاهراند و حق سبحانہ بحسب صفات و شبیون خود در کسورت این ظهور نموده بل برد و بیک ظهور ظاهر گشتہ اند لذت اصحاب فتوحات بکیه عینی شد تعالیٰ عینه می گویند . سبعان من اظهر الاشياء وهو عيناً اي في الظهور چه خفاائق عالم من ظاهر صفات و شبیون اند فی المعلم . پس اگر اللہ ذات احمد است بخواهند جمیع محمد از دیدگر نیز راجع بادمی شود این علم بعائث غامض است پرسنچی محمل تر . پس زر رب العالمین . پس و زندہ عالمیان است ذکر این صفات درین مقام از برائے تحقیق شخصاً جمیع محمد بالله می تواند بود الرحمن الرحیم پختنده وجود است و دینده لوازم وجود از کانچها رج عالم است . ذکر این هر دو صفات بعد از ذکر رب بیت اشارت است بشمول نزد بیت مر جمیع نعم را ملک یوم الدین منصرف و حاکم روز جزا است ذکر این صفات بعد

از ذکر رحمت بشارت عظیمی است مر عاصیان احست را ایا کث تعبد و ایا کث نستیعین یعنی همیش ترا عبادت می کنیم و همیش از تو استعانت می جو شیم در این دو امر دیگر بر راشتر که تو نمی گردانیم تو آنند بود که از این عبادت مراد عبادت اضطراری باشد عبادت اضطراری بودن بنده است پر و فقیر اراده الٰی و مضطرب بودن در زیر قضاوت در این صورت ایا کث تعبد حسیب مسیح مثل مالک بوم الدین می شود یعنی مالک بجمع احوال و اوقات تولی و ایا کث نستیعین تا آخر داخل دعا است یعنی اذ قرباری می جو شیم که صراط مستقیم را نمایی تسلیک برآی صراط نمایم و عبادت خاتمیاری من پر و فقیر رضای تو شود در صورتی که ایا کث تعبد پر عبادت اختیاری محول باشد مقصود ازان اظهار نقیباء خود است و مقصود از ایا کث نستیعین یا همیش معنی که مذکور شد بآنکه این القیاد را هم بخلق و توفیق تو می دانیم یا طلب ثبات در این القیاد اهدنا الصراط المستقیم یعنی بنایی مارا راه راست صراط الذین بالعمت علیهم غیر المغضوب عليهم ولا الصالیلین یعنی صراط جماعت که بر آنها انعام کرده آن جماعت چنانچه هم در کلام والی بکار قصیر شد - نبیین و صدیقین و شهداء صاحبین آندر راه جماعت که غصب کرده بر آنها و هم چین نه راه آنها که راه گم کرده آن - اجماع صادقان و محققان است که صراط مستقیم صراط اهل سنت و جماعت است اذ آنچه در امپایان و نبووات و علموم آخر گفته آن -

وصل : صاحب کتاب فتوحات مکہ - رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ چند بر عقائد ظاهر علماً افزوده - بی آنکه نفعی آنها کند چه خلاف عقاید سلفت صاحبین جزو خلافت و خرافی مسیح بنیت محمد اللہ تعالیٰ اعتقد ما بریں قرار گرفته در مسیبد می واریم که بریں بیبریم و بریں مشهود شنیم . اکنون شرح عقیده آن بزرگ رادر ایامیت نمایم بنایم مارا صراط انبیاء و صدیقان نه صراط آنها که بهم خلق می سینند و از مبدأ خبر که ندارند خواه خلق حرف می سینند چنانچه دهریه و طبیعیه که ایشان مخصوص علیهم آنند خواه بعنوان خفاشیت می بینند چنانچه بعضی از صوفیا که در توحید صوری معطل و محبوس آنکه اصله اللہ علی علم در حق ایشان درست است تمام بخود و امثال خود گرفت اند در دروی توجہ از مسیداً کرد ایند اینه ایشان را خال مفضل آنند و نه مراد آنها که بهم

حق می پنید و بین عالم را خیال محض و شعبدہ صرفت می انگارند مسیدہ ایشان نیز از راه پر آمده
از پیور سو فسطائی می زند و نه راه آنها که وجود دید حق و خلیل خلق را وجود علیحدہ اثبات می
کنند چه راه ایشان نیز شناسه راه انبیاء نبیت مراد از بین راه های معرفت است نہ بایں معنی
که معرفت بین یا خلاف معرفت انبیاء است حاشا ایشان برگزیدگان اند آرے معرفت
ایشان آں وسعت ندارد که معرفت انبیاء پس صراط مستقیم در معرفت با عقائد آں صدیق کامل
دید حق و خلیل است بلکن خلق را وجود علیحدہ نے بل چون وجود صورت در مرأت که نمی نماید
که بہست و بحقیقت نبیت دایں نمود یقیناً درست کامله حق پیدا شده و خلق عالم عبارت
از بین اظهار است و عالم در علم حق ثابت است نہ آں اثبات که علاً متکلّیین در صور علمی
نیت با ذهن می گویند بل شایسته از جنس ثبات خارج یعنی موجود خارجی حسب شیون
وصفات در علم تشریل نموده و خلق عالم ظاهرگشتہ دایں خلق ائم بعد از عود باصل و ظهور
در وجود چون ظهور صورت در مرأت مخلوق و ممکن شده و شمار و افعال ظاهره از ممکن از اصل
است چون ممکن پرده دار شده بحکم لون الماء کوون آناثه مجبوبان را در تصور می کرد که
 فعل و اثر از ممکن است **وَالْهَكْمَ اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**
آیه بینیں با و **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** اکابر تحقیق قدس اللہ تعالیٰ ارواحهم تعظیم ظاهر مخلوقات
را از ادب تمام معرفت داشته اند چه ایں با بحالی جمال مطلق اند.

وصل - بدان ایدیک الله تعالیٰ بنو العبد می که منظریت ایشان مطلق را
نہ بایں معنی است که ایشان عین مطلق قدر تعالیٰ الله عن ذالک علویاً کیمیاً بل بایں
معنی است که بحکم لون الماء لون مائله صفات و افعال مطلق از پرده ایں با بحکم
لون الماء لون انامه هم بگان ایں با ظهور کرد و ارباب مشاهده را دریں اجتماع و کثرت
بصیرت کامله چجز پر نور ذات نئی رفتہ نہ بایں معنی که ذات در ادراک ایشان می آید بل هستی اد
برنده ذوق و مجتہ و استهلاک و ضمحلال می یا بند شملہ اسیئہ نہ فرض کنیم که از غائب
صفات نئی صورتی برآد افتد هستی اور انمی قوال یافت اگر یکی عاشق آئندہ باشد و در
پرده صورت حیثم بصیرتیش شعاع آئندہ را دریا بد و از سلطنت مجتہ و شوق مستغرق هستی

او شود تو اند گفت که جزو ذات آیتنه نبی یعنی خصوصاً که بایس سر مطلع شود که صورت ظاهره بر
مودت آیتنه است و در میان موجودیت بل نبودی است پس بود موجود همان آشیانه
است ولیس و دیه انتهی الکلام و تم

بیان سوره واشمس

والشیس و صنحها یعنی سوگند با فتاوی و فور او در ضمن ذکر تور اشارت است بانجع
تعظیم آفتاب بجهت تور است تا از باب اشارت در پایان که تعظیم منظاہر بجهت ظاهری باید
کردند بجهت نفس منظاہر والقمرادی تلهها یعنی سوگند لقبر و قطبیکه در پی رود آفتاب را و
قتدم پر قدم او بینه در مشغیره مراد ماه تمام است - ایں آیتنه با وجود بشارت سابقه اشاره
است به تعظیم چنانچه که بجهت کمال پیروی اقیاس تور از مشکواه آفتاب محمدی نموده اند -

بیت سه

بنی چول آفتاب آمد و لی ماہ صفت ابابل در مقام لی مع اللہ

حضرت حق تعالیٰ ذکر نور نکرد چنانچه بعد از والشیس و صنحها چه قدر افزون شد
کاند که قریب ها فوری است که از آفتاب بر او منعکس می شود لهذا در قرآن مجید قرباً هم نور مذکور
شد و جعل القمر فیهون ذرل تو اند بود که معنی ایں باشد که سوگند لقبر در وقتی که در پی آفتاب
رود یعنی بینهان خط که آفتاب بی رود - اور و دیگری سوگند لقبر در وقتی کوئی آفتاب چه قرب
او با آفتاب در پی وقتی بیشتر از آفتاب دیگر است و مشاهده است او بستوران قباب غربت
و رایں محل روشن ترجمت بالفشن مستقر قرآن آفتاب است و جهت ظاہر گردنار پر وہ جای
در ایں آیت تنبیه است بآنکه بینا شریعت و تعظیم باشد که شرف و عظمت اور اندانه پس
ایدیکر بسته تا می تحقیر کسی کرده نه شود و تو اند که اشارت باک باشد که هم چنان که تعظیم مطعن بر
الطف نبی باندیکر دیگر تعظیم منظاہر قریب زیارت باید کرد - مراد منظر قبر در ایں اشارت آن است که
قریب زدن مطعن بر مسند و آنکه قبر بر افق شود - والنهار ادا جایها یعنی سوگند بر دز روشن که

غبار طلوع و جاپ ابر و ظلمت هوا نداشت باشد واللیل اذا یغضشها یعنی سوگند پ شب
و فیکه پوشاند نور آفتاب را مراد شب نیست که نور شفق و تابش قدران نباشد چه
هر کیم از می دلخور آفتاب است این شب بکمال شب رسیده تو اند بود که مراد شب خون
پاشد که در این شب نور آفتاب که در آینه ماه ظاهر است پوشیده می شود و در این شب ماه داخل
ظل ارض است بخلاف شب های دیگر و ایضاً تو اند بود که مراد شب ایام بیضی باشد چه
آن شب بجهت روشنی کانه که آفتاب را می پوشد یعنی از خاطر را فراموش می سازد و لبذا
ایام بیضی می گویند یعنی در این اوقات شب نیست بهره روز روشن است.

وصل : صاحب فتوحات بکبه رضی ایش تعالی اعنه آن موعد عارف می فرماید که
این ایام بیضی مثال ظور حق در خلق است چه در این شب آفتاب و قمر ظاهر است و هم
چنین قرکه در آنهم نوریت با حق سبحانه شرکی است در خلق ظاهر است حق سبحانه و تعالی
کو در از اسما خود شمرده الله نور المسموات والامراض و قرآنیز نور گفتہ قال اللہ تعالی
و جعل القمر فیهن نوراً بلکه حق بنظور قدر حسب این آنکه ظاهر است و لمن اراد روزه که آن
پیروز از مقوله ظور حق در خلق است در این ایام معتبر کاره قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مُخْبِرُ الْأَنَّا
ان صیام ایام البیض صیام الدھر یعنی اشارت فرموده که صیام ایام بیض از شما
صیام دیر است و دیر از اسما اللہ تعالی است چنانچه در حدیث صحیح آمدہ لاقیلو الدھر
فان الله هو الدھر - یعنی رعایت ادب فرموده بدهر بخوبی که در این آنکه شرکی است
یا حق سبحانه پس بندہ بمنزله قراس است در روز بمنزله نور قر و حق ظاهر حسب این نور و قدر بمنزله
شمس و لیل در حدیث صحیح آمدہ که الصومُ لی یعنی صوم که صفت صدر ایش است
که عجیز است از تشریه از خدا است صفت من است از نجاست که تحرر در روزه است
شده یعنی ادب آن است که بندہ اطمینان بجز نماید یعنی این صفات خاصه قدرت من بله
صیام نے تو اندر داخل او شد.

و حملت : کلام حضرت شیخ رضی اللہ تعالی اعنه مقتبس از مشکوکه بنوی است یعنی
گوی عقلی و فصر ادران و خل شی باید و او و بلوح ساده بے شائیه تفرق و تکلف مخفی می باید

نود و آنچه بضم فاءَ از نقشان خود باشد شمرد.
و حصل تعظیم شمش تواند بود که بجهت آن باشد که طلوع او که ظهور صبح است مورث ظهور عبادت
پاک است و تعظیم ضمی اگر وقت چاشت اراده کرد و شود بجهت آنچه وقت عبادت مسنونه
بنویس علی مصدر اصل الصداه والتجیه. و تعظیم قدر وقت پریوی او آفتاب را اگر اشارت به لام ک
بداریم چنانچه بعضی از مفسر اول داشته اند بجهت آن است که مورث بعضی از عبادات
معتبره است که صیام غر شهر است. صاحب فتوحات بکتبه می فرماید که هر یا هر سه همان بیست
از حق سبحانه و حبیافت همان علی وجہ تعجیل مسنون و مدت مهافی سه روز و کان رسول الله
صلی الله علیه وسلم بصوم ثلثه ایام من عشره کل شهر صرحة النساء
عن ابن مسعود تعظیم نهاد در وقت روشن ساختن او آفتاب را اگر عبارت از بیان ایام بیض
بداریم بجهت آنست که مورث عبادت معتبره است که صیام ایام بیض است. چنانچه و حصل
سابق بیان نمودیم.

محضی نماند که روزی که آفتاب را ظاهر گرداند بیانی ایام بیض است بخلاف روزهای
دیگر که آفتاب آن روز بار ظاهر می گرداند این چوں رفتی از اثر بموده است و آن از موثر باز -
آن طریق علماء است و این طریق عرف و تعظیم سهل و قابل پوشاندن نور آفتاب را بجهت آن است
که محل فرار غایبیان و آرامگاه ذاکران و خلوات گاه محباں است. محضی نماند که پوشانیدن
شب نور آفتاب را عبارت از ایام است که فور آفتاب در این وقت برگز عدم
شده و چند شاید فخری است که برگز خدمت برآمده و خدمت اثر اختلافه بعضی از اشیاء ظاهره
نی ایام این مشاهد است و ز ظهور عالم که ماجب تعلیم و تقدیس هم چنان در نظر طبع
است بیکن احکام و آثار او که اسماء صفات او بیض ظهور نمود و آن دو هم چنینی همکن و ز تنگی از
عدم شنیدن شنیدن بیکن حکم و اثر او برآمده با احکام و آثار واجب انتشار چگر فته و جای مقصود شد
از این بیان میریاب که والیل اذایق شنیدها را بیانی ایام بیض از دسته و یگر نیز می تواد
حمل کر و چه در ایام اذایق ائمه شنیدن آفتاب است و آفتاب در وی تمام ظاهر بیکن
بجز ظهور بیست منفیه برگز آئینه از نظر عامه محضی شده والسماء و ما بناها - یعنی

سونگند بآسمان و بنای کشیده او بعینی فرد و نہنده او چه بناست او تنور پر اور است او هم چنان در کتم عدم است
در معنی این گفتن است که سونگند بآسمان و فرد او که الله نور الاستئنات والامراض والارجه
ماطعهها سونگند پر میں و پرپن کشیده او این نیز همان گفتن است که سونگند پر میں و فور و نہنده
او بکین تنور سما پیصفت شده که نسبت بـ ما مورث ارتقای آمد و تنور پر میں بصفت که نسبت بـ ما
مورث انسا طاگ شنة و نفس وما سواها یعنی سونگند بـ نفس از نفس بـ نبی آدم و کویه
کشیده او مراد پـ تسویه نفس عطا فرمودن است آنچه اور رابکار آبد از لوازم وجود نفسانی فالهـها
تجویـها و تقوـها پـ امام و نہنـده او بـ بدـی و بـ کـی یعنـی سونـگـنـدـ پـ کـے کـه نفس رـا تـسوـیـه دـاد
و پـ اـنـ رـاهـ بـ خـبـرـ وـ شـرـ بـ اـدـ کـشـوـدـهـ خـتـبـیـارـ فعلـ هـرـ کـیـ بـ اـوـ دـادـ اـکـتوـیـ زـدـ کـیـ کـیـ شـوـدـ پـ اـجـمـعـهـ فـاـذا
سوـیـتـهـ وـ نـفـخـتـ فـیـهـ مـنـ سـوـحـیـ یـعنـیـ بـعـدـ اـزـ تـسوـیـهـ روـحـیـ کـهـ تـبـیـزـ بـیـکـ وـ بـدـ اـخـتـیـاـ
فعلـ هـرـ کـیـ درـ اـوـسـتـ آـفـرـیـهـ توـانـدـ بـوـدـ کـهـ مرـادـ اـبـیـ باـشـدـ کـهـ اـوـ رـاـبـ خـبـرـ وـ شـرـ دـاشـتـ بـحـبـ
اختلاف افراد حباب این قسم هـا اـبـنـ است قدـ اـقـلـعـ منـ مـرـکـهـاـ یـعنـیـ بـدـرـتـیـکـهـ رـشـنـگـارـ
شدـ کـےـ کـهـ پـاـکـ گـرـدـ اـنـ نفسـ رـاـزـ الـلـاـقـ اـخـلـاقـ سـیـیـهـ چـوـپـ کـبـرـ وـ حـسـدـ وـ بـحـلـ وـ غـیرـهـ خـلـاـكـ منـ
المـهـلـعـکـاتـ وـ قـدـ خـاـبـ منـ دـشـهـاـ یـعنـیـ بـدـرـتـیـکـهـ تـاـ اـمـیدـ شـدـ کـیـکـهـ گـمـ کـهـ نفسـ خـوـرـ اـبـعـبـتـ
وـضـلـالـتـ وـ گـمـ کـرـدـ نـفـسـ عـبـارـتـ اـزـ گـمـ کـرـدـنـ رـوـحـیـ استـ کـهـ بـعـدـ اـزـ تـسوـیـهـ وـ تـعـدـیـلـ اـرـکـانـ اوـ درـ وـ
نـفـخـ کـرـدـ وـ اـذـ اـثـرـ آـلـ نـفـخـ کـاـنـهـ هـیـ شـدـ لـهـذاـ بـیـاـرـ کـےـ اـزـ عـلـمـ جـرـ نفسـ وـ بـیـکـلـ مـحـسـوسـ اـمـرـےـ وـ بـیـکـراـثـاـ
نمـیـ کـنـدـ وـ حـالـاـ عـامـهـ آـدـبـیـاـنـ وـ بـینـ نـزـلـ اـنـدـ وـ گـمـ کـرـدـنـ رـوـحـ گـمـ کـرـدـنـ خـواـصـ رـوـحـانـیـهـ استـ وـ درـ
مرـتبـهـ نـهـ اـمـ وـ زـنـ گـافـیـ کـرـدـنـ اوـلـئـکـ کـالـانـعـامـ بـلـ صـمـاـضـلـ خـیـبـتـ دـنـ اـمـیدـیـ خـصـوصـ
کـفـارـ بـاـشـدـ لـایـنـاـسـ منـ رـوـحـ اللهـ اـلاـ القـوـمـ الـکـافـرـوـنـ چـهـ هـرـ کـهـ اـیـمـانـ آـوـدـ وـ بـجـدـ اوـ
رسـولـ وـ رـسـلـ وـ قـتـلـ اـزـ قـبـدـ نـفـسـ تـبـاـمـ جـسـتـ وـ بـصـفـتـ خـاصـهـ رـوـحـانـیـهـ مـشـرـفـ شـدـ بـلـ بـخـلـقـهـ اـزـ
جـنـدـلـاقـ الـبـیـهـ مـتـحـقـقـ گـشـتـ وـ لـهـذاـ درـ کـتـبـ خـفـیـهـ مـذـکـورـ استـ کـهـ الـایـمـانـ غـیرـ مـحـلوـقـ

پہتھ

ای گرده موستان شادی کنید
زیبود و سوسن آزادی کنید

وصل : خدمت مولانا علام الدین کتب دار که از کبار طبقه صوفیا اندرونی سے بملازم سنت
 مولانا عبد الرحمن جامی رفته ازان سخن شیخ مجی الدین ابن عربی کہ ہر کہ از قید نفس نوست و درج اد
 بعد از منفارقت از بدن در تخت فلک قری می ماند اطمینان طامت می نموده اند کہ بسیارے از
 مولانا پی صفت اند ہرگاه بعد از منفارقت در تخت فلک قری بمانند بہ بہشت که خون
 سموت بیع است چوں خواہند رسید - خدمت مولانا عبد الرحمن در جواب فرمود کہ ہر کہ
 ایمان بخدا او رسول خدا آورد او رخنه در فلک قری اند اخت که عاقبت ازان رخنه خواهد
 جست بعض از خواجه مسلسله نقشبندیہ ایں سخن را برہمیں معنی حمل کروه اند کہ ادوار اوقت که
 ایمان آورد از قید نفس بہ تمام جست اگرچہ ہماں کبیں نفس باشد بعض از اکابر اویا فرموده اند
 کہ ہر کہ کبیں نفس خالی از شرک وریا بخدا متوجه شد عاقبت در نفس آخر ایں نفس و بکیری او خواهد
 کرد و پسپاسے از محققین مشائخ برایں ہاند کہ پر کہ ایمان بخدا او رسول ایمان تحقیقی آور و بعد ازان
 ہرگز نہ ایمان اونتی شود و ہر کہ بعد از ایمان مرد و شرده مجرم تعلیم داشته و آنکه شافعیہ
 انا مومن انشا عالیہ می گویند بعضی برہمیں معنی حمل کروه اند یعنی انا مومن تحقیقی انشاء عالیہ
 تعلیی در صحاح حدیث بنویس علیے مصدر پاصلوۃ والتحمیہ - آمدہ کہ ما من احمد پیشہ ران
 لا الہ الا اللہ و انْحَمَدْ رسول اللہ و صَرْقاً مِنْ قَبْلِهِ الْاَحْقَهْ مِنْ اَنْلَهْ عَلَى الْمَنَارِ
 متفق علیہ با ایں ہر ستر شرده کہ بعض از عصات مومنین در درزخ می در آئند و مثل هنگشت
 سوخته و خراب می شود و بعد ازان در حوض حیات شست و شویا فتہ بار وح تازه و دنگانی
 فویہ بہشت و رآئند حکیمت شمود بطبعواها تکنیب کر دند قبیله شود بطبعتها بسیب
 طغیان آں قبیله مر صالح چینی بردا اذا انفعتم اشیقیها یعنی تکنیب کر دند دران و تک
 کہ برخاست بد بخت تریں ایشان کہست ارین سال فتنہ نام داشت با جمعی بقصد پیکر دن
 شتر صالح فقال له هم رسول الله پس گفت مرا ایشان را رسول خدا یعنی صالح علیہ السلام
 نافعه الله یعنی اجتناب نماید از شتر خدا که بمحض قدرت حسنه آفریده شد و آئی سست
 اذ آیات او - و سقیهها و گرد گردید جائے را کہ او آب نمی خورد و نوبت او آب ایشان
 کم فویہ گاه شتر آب می خورد تمام آں آب دامیخورد و لہذا نوبت کردہ بودند کبیں روز ایشان

میخوردند و کیتے وز شتر قکڑ بھوہ پس تکنیب کر دند صالح علینہ السلام را درایں کر آں
شتر اشتر خدامی گفت یعنی این شتر از سحر و جادو سے تو پیدا شدہ فعقولہا پس
پی کر دند آن شتر را قد مام علیہم ربہم بذنبہم پیر، بلکہ بر ایشان فرماد
پروردگار و ایشان بسبب گناہ ایشان کر پی کردن ناف باشد فسقاها پس برابر کرد
خدا بپر ایشان که خورد و کلاں ایشان خستند ولا یخاف عقباها و نی
خود خدا عاقبت این کار را که بلک ساختن ایشان است یعنی پر داشتے یعنی چیز و یعنی
کس ندارد نه از و چیز بے فوت شود و نہ کسے را با او مجاز تعرضی باشد این سورہ را بتقریب
که بعضی از مردم واجب الرعایت صاحب الاخلاقین انسان خودہ بودند تفسیر و تاویلا شد
فرمودند۔

بیان سورہ اخلاص

بسم الله الرحمن الرحيم

ایں سورہ را سورۃ الاخلاقیں برائے آن گویند کہ اذ استماع این سورہ اعتقاد بندہ با فریدگار
از غبار شرک جلی و خفی خالص می گردی فی الجملہ اخلاص سے در عمل نیز دست می دهد اما اخلاص اعتماد
از شرک خفی آن است کہ در الوضیعت اعتقاد بذاتے بند که در عرضہ امکان یعنی گونه مشکلہ
را نباشد۔

والله آن معتقد خود مکن خواهد بود۔ ازان است کہ اکابر فرمودہ اند که التوحید افراد
القدم عن الحدیث و ہم ازیں جاست کہ ابو علی ذفاق رحمۃ اللہ علیہ در توحید حالے فرمودہ
کہ التوحید عزیزم لا یقتنی و یعنی چہ اصحاب رسم و آثار بشیریت بالکلبیہ کا کہ ہے دست
می دهد و انتہ کا البرق المخاطف می گزد بلکہ ازیں سورہ صاحب دوستی را کہ صفات
قلبی باشد توحیدی در پر وہ اعتقاد بدست می آید کہ حال او یعنی مخلوقی را بشیر غیبت سخن پا
مدینۃ العلم کرم اللہ وجہہ کہ الاخلاق نفی الصفات شرک نبیست کہ توحید دریں درجه تعلق
با حدیث ذات دارد و تجلی در تمام احادیث قطعاً نی باشد اگرچہ یہ لعنت احادیث باشد

فِهِمْ مَنْ فَهِمُهَا أَنَا اسْتَرْعَفُ الْمَقْصُودَ بِحَجَّةِ إِذْكُفَرَهُ كَفْتَنَكَمْ أَنَّهُ مُحَمَّدًا بَغْوَكَهُ خَدَا
 چه چیز است و چه میخورد و میراث اذکه گرفته و میراث او که می گیرد. این سوده نازل شده
 قل هوا الله احد یعنی بگویی که محمد که شان ایں است که خدا بیگانه است اور اچه چیز است
 نتوان گفت اور ایسیچ کونه اشتراک با چیزی نیست تا چه چیز گفتن درست افتاد پس مسلم
 شد که در اوقات اشانه بیچ کونه کثتر از جواح و صفات زائد نیست بل ذاته مجرد و هیچی
 صرف است ایں جامحل آن آمد که و هم تعطیل نشده و بے صفت محض گفته شود اوجرم دریے
 آن اللہ الصمد یعنی اللہ تعالیٰ ارجح الیه محتاجاً است و ایں معنی بله صفات کامل و تقدیر
 نیست پس اللہ احد اللہ الصمد بمنزله نیس کمیله شی و هو السیع چیز
 است حاصل ایں توجید آن است که بیگانه ایست که بله آله و جارح و بله زواید صفات
 بنفس ذات خود می داند و می شنود و می گوید و هر چیزی خواهد می کند لعله یعنی ابد ایں
 رو قول یہود است که عزیز علیہ السلام را ابن اللہ می گفتند ولهم یولد وزاید نشده
 ایں رو قول بعضی از نصاری است که عیسیٰ علیہ السلام را خدامی گفتند ولهم یکن اللہ
 کفواً احد ایں رو قول مشرکان عرب است که خدا را همتا اثبات می کردند.

پیان سوره الفلق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَلْ عَوْذِيرِتِ الْعَنْلَقِ بِكُوپِنَاهِ مِنْ گِيرَمَ بِافْرِيدِ گارِصِيعَ مِنْ شَرِّ ما حَلَقَ از شَرِّ آنچه خلق
 کرده است از جن و انس و سائر خلوقات شریه تو اندر یو و که مراد ہماں صبع باشد و شر صبع عبارت
 از شری که در بیداری بجهت لوازم بشیریت رویے می دهد و سردارانکه در صبع شر را صریحاً اضافه
 نکرد چنانچه در غناسیق که شب است که بجهت تصمیم شان صبع که آرای ظہور انوار است
 دباشد که ایں معنی بدل آن است که بعضی فلق را عبارت از خلق و اشتبه اند و مراد اعوذ بر
 الفلق من شریا خلق دانسته اند در آوردن شر عبارت مانع اشارت است، با اینکه
 شر اد بخوبی است کیکن تصریح نشده بلکه ظاہراً مضاد خلوق شده تاراہ بندہ بین الجبر والقدر

پاشد قدر ظاہر و جبر باطن و من شرّ غاسق اذا و قب يعني پناه می گیرم برب صبح اذ شر
 شب و قنیکه و داخل شود تاریکی او همچو چیز را مراد شب تار است و نشرا و شر حشرات و احصار
 که در آن وقت خلود می کند اضافه شر بشب نه بتصادر صور پیش راست بل بجهت مناسبت که
 میان شب و شر است تو اند بو و مناسبت آنکه شب بجهت حد می بخورد می آید چون شاعر
 آفتاب فرد میر و د شب می کند همچوین شر پیش اهل تحقیق پر نسبت الخدام امر است
 نه بجهت وجود امر است.

وجود بخیر شخص است چنانچه در محلش میگین شده والیغاً اشارت تو اند بو و باعکه آدباً فرموده
 آنکه ادب آن است که مدام را بظاہر نسبت نه هند بل بظاہر مرتبه وار نه دانه سیاه
 گلکه رو بشمرند چنانچه در معماصی به بنده از استفاده و کسب خود و انشته بینا ظلمهنا گوید
 نه آنکه نسبت بوجود بد هد و گوید که من منظرے پیش نیستم هر چیز در من است از هائے و بگر
 است یا گوید من چه کنم همه سچلی و نقشیده اوس است مخفی غیبت که از صبح د شب حضور و
 اراده می توان کرد و همچوین از غاسق خلق اراده می توان کرد و اصل لغت غاسق ممکنه
 در پردازی گویند خلق ایس چوین است که پر است از قیوم خود اگر تو و وجود از یک ذره ادو
 شود همان لحظه آن ذره اجده می رو و ایضاً غاست شامل را نیز گویند خلق نیز شامل است
 که الا عرض لا يبقى زمانين و پناه گرفتن از شر خلق آن است که در خلوت
 خانه سر زیاد و جای مقصود نگردد و من شر التفاثات في العقد يعني پناه می گیرم
 برب صبح اذ شر دمندگان در گره با . ایس اشارت بقصد ایست مشهور که بعنه از دختران
 عرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راحم کرده بودند ایس طور که در اسننه نام آنحضرت گره ها زده بوند
 و کلام سحر خوانده بر آنها دمیده بودند و آن اسن را در چاله سیگه نهاده بودند محو ز
 یعن بر لئے کشادن آن گره ها فرو آمد و چه پیش از خواندن معوذ بین اصلاً کشاده نشد و
 و من شر حاسد اذا حسد يعني پناه می گیرم برب صبح اذ شر حاسد و قنیکه بمقتضای
 حسد خود عمل کند ذکر شب بعد از خلق تو اند بو و که اشارت باشند که خلق نیز چون شب
 ظلمافی است اگر چیز اور اتفاق می از بر ز جیت است وزگ و چوگ که فتنه شب نیز بجهت نهاد

که عاده اور آن است در هفت آم پر زنجیت است سایه بزرخی است میان نور و ظلمت و
لذت اور حکم ضرور ثانی می گوید ان الله تعالیٰ خلق الخلق في ظلمةٍ علیهم من
نورٍ لا ذکر لفاظات بعد از شب بجهت بیاہ ولی آنهاست داشارت یا نکه ایشان از
شب تیره تر اند و ختم بر حاسد چنانچه از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا مردی است
اشارت باشد یا نکه چیزی رے در عالم بدتر از حد نبیت بجهت غیبت اگر این دختران نفاذات
بجهت حسدی که به بعضی از ازاد و ارج مطهرات آنحضرت داشته باشند این عمل کرده باشند
در شرعاً فاضی عجیاض علیہ الرحمۃ مسطور است که بجهت آن سحر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
یکسال از عالمشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاصه نه محبوس بودند

پیام سوره النساء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ بِمَا هٰى لَكَ مِنْ كُوْفَّةٍ
مَلِكِ النَّاسِ يَا وَلِيَّهٗ نَاسُ الْهَمَّا مَسْبُوْنَ نَاسٌ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
أَزْشَرِ وَسُوسَةِ كَنْدَهٰ پیش خزندگان اشارت بحقاره و پیش قرقی اوست بعضی از آنکه بر فرموده اند
که دشمن را چندان عظیمی نمی باید نهاد - چنین می باید شمرد که در مخلوق بیت او و خل دارد - و ایضاً پیش
ضمیر کمال عجز خود را نیز ظاهر کرد این است - پیش خزندگان شیطان در وقت ذاکریت آدمی است -
برگاه بندگی شود او در وسوسه می آید و هرگاه حاضری شود پیش بر می خورد الی که وسوسه می
یوسوس فی صد فیر النَّاسِ مِنْ الْجُمْشَةِ وَ النَّاسُ یعنی آن شیطان بکسر وسوسه می
اندازد اور دلما کے آدمیان از جانب جن و افس

وسوسه که از جانب جن و افس می اندازد تو اند پوچد که بجهت دید قریت و فعل
در ایشان باشد این وسوسه سه قسم است سیکنے مجرم و خواطر و جنجالات است این نسبت بچے
است که بتوپیت اللہ تعالیٰ ایمان دارد یا نکه خالق افعال عباد حق است بمحاذ نیکن بنطاہ
عقل و حس مشاهده می کشد که افعال عباد مریوط باختیار ایشان است و در آنکه خالق
انعال عباد را داشت چنانچه معتبر نسبت بهم آدمیان و چنیان می گویند و بدتر از این است

عمل خامه حالتیست بـ کیب و گیر چه معتبر که فعل بنده را با قدر حقیقی تعلیل کر اور اینم
چنین آشناییده که هر چه خواهد بود عامة در معاملات ازین سهی ذکر دارند سوم آنکه بنده
را با لوہیت آشند کنند چنانچه فرعون و شد او را کردند - دفع و سوسه اول آن است که حق
را از خلق جدا نمایند و فعل و صفت خلق را سایه فعل و صفت حق بدانند و ربویت را احبارت
از ظهور رب بصورت مربوب اختقاد نمایند ازین جاست آنچه شیخ اوحدی فرموده است

ماجنبش دست هست مادام

سایه خبر ک است ناکام

پس استعفاذه بر رب انسان مناسب ایں است ازین معنی و سوسه دو مذکور مرفق می شود
لیکن استعفاذه به ملک انسانی آن است که بجز ایشان ظاهر شود بـ آنکه شبیه بـ سوسه دوم
است آنکه ظهور قدرت را در ظهور تمام اختقاد نماید تا بیان او و معتبر جزو بـ ظاهر و منظر فرقه
نمایند علاوه پیاوه بردن بـ ملک انسان است که مرتبه جمع است تا خاکه شود که مدار شبیه ازیست
است آنکه لاتهنی من احیبت ولکن الله یهدی من یشان چون سید دلله
آدم را این حال است ریگرسے را چه رسید ایضاً ظاهر شود که هر چند که قدرت و فعل و منظر
او است خلق و تاثیر و منظر اینست عالم در هر آن مجدهم می رو د و مثل آن ظهور می آید و
خلق و تاثیر به تمام از مرتبه الوہیت است بـ این سخن و سوسه سوم مذکور مرفق شد بلکه به این
تفرقه ظاهر و منظر دفع شده بـ صورت فرعون و شد او را با لوہیت گرفته بـ دندنه حقیقت
ایشان را لیکن استعفاذه به الله انسان در دفع او مناسب است .

وصل : و سوسه ختام از سه قسم بـ پیوی نبیت یا بـ محیصت می اند از و یا دل بـ بنده
را در تصرف خود آورده مملکه خواه طر و خپالات می کند بـ آنکه خود محیصت شود یا بـ بکفر می اند از د
نحو د بالله من شرم . در قسم اول التجا بـ رب بردن مناسب است اینست چه محیصت و اسط
سوت می شود چنانچه بعضی از اکابر کشف و تحقیق فرموده اند که عصاوه در دوزخ علی میرند نه
کفار که صفت ایشان لا یمیوت فیها ولا یجی . است و ربویت و اسطه و جهاد
جیات در قسم دوم که مملکه و سخره شیطان است التجا بـ ملک بردن مناسب است

و در قسم سوم انجبا باله بردن مناسب است.

ترجمہ دعائے تنوت

ترجمہ دعائے تنوت : مقصد و ازیں دعا غرض صفات ملیقہ مسلمین کریں است و این صفات را وسیلہ نزول رحمت بیان کیا و خود را فضل حمایت ایشان افکنندن پرگان گفتند کہ خوبیت را در بیان ایشان در خواهی و از ایشان داند وستاں ایشان فرانگانی گردید که جو دانی کہ چکونہ رسوائی - پس مصلی در تمام مناجات می گردید کہ حشد اوندا ما جماعت مسلمانان ترا بدد و گاری و آمر زگاری می گیریم یعنی پیشیہ و کار ما این است و در ہر چیز کے کہ از مخبر صادق بھائی رسید پبل تصدیق می کنیم و بزرگان اقرار می آریم کہ امنا و صدقنا و خدا منی ذوق خود ترا می دیم - بل در پس پرده اسباب اعتماد ما بر تسبیت جملہ کیفیات در خاصیات سخن فرمان تو اند و در ہر چیز کے میکنیم و شکر تو بھائی آریم و کفران نعمت تو نبھی کنیم کہ آن چیزوں نعمت را از دیگر کے شناسیم و شکر کے بھائی آریم و کفار فجار را باس جیات از بر می کنیم و ترک ایشان می گیریم خدا اوندا ترا عبادت می کنیم و بر لئے تو نماز می کنیم و سجدہ می آریم و دریں نماز و سجدہ بیوی کے قوسی می کنیم و دریں سعی سرعت می نمائیم و اسید رحمت تو بیداریم و از عذاب تو می سہریم ان عذر ایک بالکفار ملحوق ایں جملہ از تند دعا شے خیر مسلمانان است یعنی عذاب تو بکافران پیوستہ باد و ایشان یعنی گونہ حب دائی میگردد بلکہ دعا بحقیقت همیں است و اسی حقیقت از صفات دعا و استلام والا کرام -

بيان آیہ و ترجمہ

آیہ اینہا نولوفتم وجه اللہ

کہ از کتاب برکات الاحمدیہ الباقیہ معرفت به زبدۃ العالماں نقل شدہ از نسخہ مجموعہ شوراء
تمی کرد نے احمد نوشتہ شدہ و در خانقاہ حضرت شاہ غلام علی معرفت
پیر خانقاہ حضرت شاہ ابوالغیر است رحمہما اللہ تعالیٰ ام خوندا - (از ص ۱۷۳) او را
سرچھڑا کر کوئی کامیابی نہیں

بِرَكَتِ خَيْرٍ : وَدِرْ تَحْقِيقٍ كُوْبِيْه وَهُوَ مَعْكُمْ اِيْنَا كَفَتْمَ تَهْبِيْتَ فَرْمُودَه اَنْذَكَه سَرْعَيْتَ
خَيْرٍ هُوَ حَقِّ بِسْجَانَه وَلَعَالَه لَيْا شِيَاه دَرْ غَابَيْتَ خَنَادِلَطَوَانَ اَسْتَ خَيْرِيْتَ اِيْسَ دَرْ يَا فَتَهْرَقَتَ
اَسْتَ بَرْ پَيْه بَرْ دَفَيْ بَرْ تَنْزَهِيْه طَلَقَيْه دَلَطَلَقَيْه صَرَفَتَه آنْ خَضْرَتَه دَنْزَلَاتَه اوْلَبْصُورَ عَلَمَيْه وَبَوْدَنَيْه
آلَبْصُورَ بَارْخَه مِيزَه الْمَوْجَدَه وَالْمَعْدَه وَمَاهِيَه الْجَامِسَه بَيْنَ الْوَجَدَه وَالْعَدَمَه فَانَّه مِنْ خَاصَه مِنْزَلَ الْعَلَمَ

از آنکے بیرونیک باچنیں صورت ہم مشجعہ ہم منزہ خیر و سر
در چینیں موقوف است بر شناخت آنکہ آں صورت علمیہ را کیم نسبت محول ایکی قیمتی بحضورت
ظاہر پیدا پشیدہ کہ آں حضرت در کسوت آں صورت پاگانہ و آں صورت آئینہ اسما صفات
اویشدہ - و اسما صفات او عین اوست قو معکم فی العلم والعبین روحاً کان او مثالاً او جسماً
یکیں صیحت خانہ علم پیغمبر محبیت اعمال است با صور جنابیہ از اشجار و قصور بر مذہب
محققین کہ قصور و اشجار آں هوطن را بالذات با عمل یکے پیگو بند - پس چنانکہ عمل در موطن
عرض است و در موطن چوپر - آں ذات متعالیہ در مرتبہ منزہ است از تعین و تپیز و اشار
و جبار است و در مرتبہ قابل این امور و محبیت ایں خانہ عین پیغمبر محبیت نقطه جمال است با دارہ
موہومہ فی الخارج بس چنانچہ نقطه را با دارہ کیم نسبتی واقع است کہ واسطہ خود دارہ در
خارج و ندو نقطه در کسوت دارہ شدہ ہمچنین ذات حق و غیب سلطان اور ایقدرست کاملہ اش
کیم نسبتی پر تنزلات علمیہ واقع شدہ کہ سبب ظہور آں تنزلات در خارج و ندو آن ذات
یکیں اسما صفات در کسوت آں تنزلات شدہ -

پندرہ شمشتم: وہم پتھریب محیت مفہومہ من الایتۃ المذکور قلم فرمودند حضرت
واجیب جل شانہ بے تو ہم حلول دا ٹینیست و بے شائیہ چونے دیگوں لئی در ہمہ جایا ہے است.
سخن ساق کو ترا امیر المؤمنین علی است رضی اللہ عنہ کہ ہو مع کل شی لا بمقارنة وغیر کل شی لا
نہ را بیتہ۔ اگر ٹینیست می لو دلا بد مقارنة می لو دیغیریت صورت نہی بست دا گردہم شخص
می لو چا پچھے حکما چے جیسا نیہ بیگو یہد میخت دا است نہی آمد د ہر کا بندہ روئے می نہ د آدازہ المجز
در ک الا در اک اریں مقام است مریدان وجہ طلاق و مشما فان غیب ہویتہ بیگو یہد

کہ ہر چہر دیدہ شد و دانستہ شد ہمہ جیسا است بلکہ لا نفعی آں می بایک کر دیکے اذ عارفہ رومی قدس سرہ پر سید کہ حقیقت و عقل کیست فرمود حقیقہ آنکہ بے ای وجہ و جہ مدرک نہ شود و عقول آنکہ بے ای وجہ وجہ بیدا و آرام نیگرد و مصرع

تفقی است بے نہایت درود است بے نہایت

برکت سیفتم : پر تقریب بیان کر پیدہ فایہما قولوا فشم وجہ اللہ فرمودہ انداگ خطاہی حقیقت
ایں معنی پر تو انگلند چوپرے فرض کیں کہ ہر چہر پر صفات آئینہ مترتب می شود از صفات است و تزویر
و جیسا بروزات او مترتب می شود و ذات او مشائلو جب تماشہ کی صور می شود بے نیا قی صفات
بس ذات او در خارج عین این صفات آمد و یعنی فرض کیں کہ ہر کیب ازین صفات در
نجماں تو صورتی است، چون شبیر کہ صورتی علم است در مشائی و بعد از بیں فرض کیں کہ این صور
نجماں تو مشکس شدہ اندرال چوپر یعنی کیب نسبت مجبول ایکی خلائقی کاں جو ہر پیدا کر دہ انکے سبب
نمائندگی ایں صور شدہ بیں پھر صورتی از بیں صور کہ مرداری در انجما آں جو ہر است و بحقیقت است بہا
جو ہر ادا در دہ آں جو ہر با این صور است ہر کجا ایں صور است ولیکن آں جو ہر منشہ از بیں صور
در خارج بہے کے از وجود خارجی بمشام این صور نہ رسیدہ پیش از بیں نیست کہ بقدر این صور صفات
آں جو ہر مشاہدہ می افتاد و پر ہر چہر دے نی آری بہا صفات میں بہ صاحب آں صفات
او آ در دہ می شود اگر مہار سال پر وادی کی وہیار ارجیں پیدا ری تا جذبہ از جذبات الوہیہ کی رو
پہ توبیار و صورت اشباح و لار و لار را از نظر تو ناچیز نگہ داند و مجتبت ذاتی کہ مکواہ سرتست
در جملہ زیبید و نسبت مجبول ایکی خلائقی کہ مقوم اور اک و متفقہ ایسی آں نیست است و تعبیر از ایں
جزوہ اور اک سبیط نمی توں کر دیدا نہ شود مرید و وجہ اللہ نخواہی شد مشنا سائی آں خود کجا۔

برکت سیشم : در عینما حقیقی معنی کریمین نہ کوئی تباہی این چند فقرہ تکمیل نہیں ولیکن تحریر
نمودہ اندر قدر اللہ سرقا ملہا سے پاک است خداوند کے لفیض اقدس خود ایشیا اور عرضہ طمود
آ در دہ و شیوں خود را در پر دہ آن نہور از تنگی کے خفا و بیرون پر آ در دہ و خود را در مرأت آں عقبا
در نظر خود جلوہ گر کر ده در تنگی کے وحدت اونٹشان اثنتینیت نیست بہ طلاق است از دارہ
اطلاق پیروی نہ چکرند اش مبتواں گفت نہ چوں قادری کہ بے کیب کلمہ کین خفیگان خواب عدم

لما پیدا کر دسر ایمیه شوق رجیسترنده کانیه وجود در بر ارشاد داشت از ساده لوحی عکس خود را در پندار و
پندار وجود رسم آور دند ناگاه صدر ائمه و پیغمبر حکم اینها گفته بگوش شاپ رسیده دید یا قتنده که محبت جو
یه دو گانگی صورت نه بند و جبرتے در کار آمد جمال عکس بشارت وجودی دهد ولایت محبت
اشارة بعدم میکند وجود عدم را در هم مینخشنده وجود را فراموش کردند و در مقصود را برخود بینند
کریم مطلق جمل شانه بشارت اینها تو اتفاق دجه اللہ در بیان آورد و گفت و فی انفسکم افلام
تبصوف - تیز گوششان شناختنده که حجاب خود خود می خود را از بیان می پاید برداشت هنگام
این دستت برداشتنش ارادت برداشتن مقصود رسیده نیمی از راه عروق در دزیده و نکوت
دوست را در تجاویث قلبیه افکند بیچاره از پلے در افاده کشمکش معشقون در کار آمد و جما
نواب از بیان برداشت و ملطفه من الملاک الیوم در گرفتن چول بیازی در بیان بود رهی
در احتجاب اهرا و صدر ائمه فاعلیت بگوش جافش رسانید - خود صبحی سر برداشت
و خلاصه من عرف نفس فقه عرفت بر بود ریاض آور دلیکین مصنی والحمد من در ائمهم حبیط فاقه در جا
آورد از یک سو و رع نفسک و تعالی و از یک سو قول و جهک شطر المسجد الحرام اضطراری
در کار نهاد عنایت اگر تمجیب المضطر اذا دعاه پرده حجاب را که لازم وجود است علینکه خاتم
پیش چشم پیش نهاد صورت قاب قوسین بظاهر رسیده این سخن آخر نهندار و - (تمام شد تفسیر
و فایبت - پیغمبر - و - اینها تو ا)

شرح ربانی

رسالہ شرح ربانیات سلطنه الاحرار
ک درستله ه تاییت شده

بسم الله الرحمن الرحيم

سبحان الله ربہ حنف امتعال عالی رتصور رسیده از جمال

از قدر لطف اقتضی صفات مشحون
وزیر سر بر تیش جهان مالا مال

نیایش وست ائمہ حسن و حسین را داشت که جهاب سراپرده عروقیش انوار خلود را داشت
و سکان قیام بجز قوش خلود نور اند و اگرند در باطن او بیانی سے خود و پرده کشف متحلی گشتند.
آوازه کماش بجوش جهان و جهانیاں که رسانیدند را داشتند دریناس عالم جهاب باطن نظر آگیا
خودشند را وزتاب آفتاب جلا شدند نام و نشانی از ایں و آن نمانند را داشت که در کسوت
رسانی محبت پیگانه و آشنا است. هم این محبت اذ اسریمیست بیان سبع عان
الذی است محمد احمد بالائیم است اور ابا خدا کیاں چه فیض است او قدر تیم است لیکن
کمشله شیخ و هو السیمیع البصیر صلی اللہ علیہ وسلم و علی آللہ واصحایہ تسیلیماً کثیراً کثیراً
اما بعد نموده می آید که چوں دیده می شد که بعضی از اهل روزگاران بجهالت پیشی فطرت داشتند
استطاعت و بازماندگی از وصولی بحث کنند ارباب معرفت مقاصد عالمیه علییه صوفیه را نوع
دیگر دریافتند خبرات و الفاظ ایشان را حتی الامکان برغیره مات مخرب خود فرد می آردند و بعضی
از ایں مدعيان بنا بر اصلیه چند فاسد بر بعضی از آنها که قابلیت تاذیل ناقص ایشان ندارد و
صورت قیصری در میان می آردند بعضی از مطالبی کی زرگواران را یکم مقتبس از باطن مبارک
ایشان بشیریه واضح و بیان و اثی در ضمن چند ریاعی ایجاد کرده شده پر چند که اند که از آنها
در کتب معتبره قوم خصوصاً در رسائل حضرت سعاتی پیاہی ارشاد داشت گاهی محسنه و محسنه
مولانا عبد الرحمن جامی قدس اللہ سره السلامی تلقیقیه کامل مبین است غاییه الامر لازمی چند
با آن مطالب در میان آمده که دست تصرف ارباب بطلان از ای کوتاه گفتند خنی سیحانه و تعالی
حقیقت و چود واجب و ممکن در بین ظاهر را در باطن و سرینیانی و معنی کان اللہ ولهم
یکن شیء مغفله و ضمیر الان که ما کان را بسته عان مستعد و مستفید ای صادر
و اخراج کرد انس بمن و کمال کرده و آن اسباب المحرر محمد ایسپا تی اذناه اللہ تعالی عن ظلمات
نفسه و ابعاده با اذن رحمه الله محمد و آله. من تلاک الریاعیات

۱. گویند و چو کون کونست حصول
۲. نویسند و خبر از کون نکرد داشت قبول

وائلد که درین پرده انسان الغیب است بر دفعی حصول
می- بشناس که کائنات رو و در عدم اند
ویں کون متعلق از جبال و دیم است باقی همکی خود را فستدم اند

غرض ازین دور باعی انطهار آن است که باسوای حقیقت و علی جزو در علم ثبوت ندارد
و موجود بحقیقت جزو اجنب نمایی و تقدیس غیر است و آنکه عقول کون و حصول باسوای صفات
می کند و کابین دمایت در خارج مبدارند مجرد دیم و پندار است- پس فی الحقيقة کون که
در عقول مضاف، با ایشان می شود کون است متعلق به کابین دمایت یعنی مجرد در ک عقلی است
بیله آنکه تجربه به اصلیه داشته باشد چنانچه ماقص المعقلي صورت مفترض در آینه را کابین
در آینه پدر پاید و آنکه متنکلین وجود مکنات را کون و حصول بیگویند امریست مطابق داقع و
متلزم آنکه مکنات را جزو در علم وجودی نباشد چه هرگاه در اسطه ترتیب آثار خارجیه جزو کون
حصول نیز اثری از آثار خارجیه است پس این مقصد که کائنات را وجودی جزو کون و حصول
نیست کنایت است از آنکه ایشان را وجودی نیست هر چند که غرض متنکلین این است و
لهم ادر ر باعی اول گفته شد که درین پرده انسان الغیب است- ر باعی اقل را معنی دیگرے
رسیت بغایت لطیف- آن معنی آن است که وجود کائنات فی الحقيقة جزو کون و حصول
نیست ماہیات مختلفه که چندین زنگ تعیین را قبول کرده اند حصولی جزو در علم ندارد و صفات
ثیبوں داجی در خارج علی دامت است، ذات ایچنار پر صراحت پیرنگی خود- پس اگر علوم
با این که افتخار ماهیات، بالخلیپه محدود می شوند پس افاده این معنی که وجود کائنات کون و حصول
است مطابق نفس امر است- آرے بالتجدد عقول بمنکام تعبیر کمکون خارجی ییکے از دو نسبتی می
باشد- یکی نسبت، ماہیات را بظاهر وجود- دیگر نسبت اور اباظن وجود لیکن بافت هر کیم
را در ای دیگر دخل است و این انتو یکم می شود که نسبت مدرکه نسبت است بخازج شبیه غیر است
حال و عمل دیکین در مکان- و مکان و محل شخص اعتبار- چه غیر است ذارت از نظر عقول ماقصه
پوشیده است- آن کون را کون خارجی داشتن و آثار خارجیه را بر ماہیات مترتب ساختن
تصوف از دیم است- ازین تحقیق داشتن که ماہیات در وجود حلی محتملاً شدند بعدم نه لغای

و اگرچه آن فاعل بوجب باشد پس شیخ محقق صدر الملة والذین القولی و تابعان او قدس اللہ سرا
هم بجعل جا عمل را عبارت از کاپیسٹر موثر باعتبار افاضه وجود خارجی داشته باشی بجهولیت از
ماهیات کردہ اند - بغایت اصل است - اینجا سخنے باقی است آن چنان آن است که کون و
حصول مضاف به هر مرتبه که باشد از مستقل است ثانوی است و اثری از آثار او چوی واسطه
ترتیب آثار تو اندشت - میگوئیم کون و حصول تعبیریست از لبیت که ماہیت را بصفت علم است
نی انتیقیت و وجود بجان نسبت است بل صفت علم بل ذات حق چه صفت در خارج عین دا
نسبت اچنین کون خارجی تعبیریست از لبیت ماہیت با ظاهر وجود - اگرچه متنگوییں وجود را
عین واجب نمی دانند بلکه حقیقت وجود را می دانند اگر از این سرآگاه می شدند وجود را
همان شیوه که واسطه قبول این نسبت شدہ اندھی داشتند بلکه ذات واجب میداشتند و
وجود را به اتفاق مشترک معنوی می گفتند - آگاه باشی که به این بیان که کردیم بجعل حب عمل
در ماہیات بطریق ایجاد پیدا شده بخاره حکمانیک دریافتہ اند که علم واجب واسطه وجود ممکن
است غاییه الامر وجود خارجی را وهم کردہ اند - هندا - آن خدمت کلام شیخ محقق صدر الملة والذین
لازم است - بار خدا یا مگر گوئیم که حضرت شیخ جعلی را که بتایار در اذیان است و آن استناد
به فاعل است بی ملاحظه قبول علمی آن را گردیده اند -

۴. بنگر کرده در دل بیرونیش نور در دل زیج پیچی بصید نوع ظهور
یا بینه اند اند اند ظورش باطن
۵. تمحیی کرده کوی را ابتلاء در داده
حوادث شده نسبتی در دل اپر دل در پر دل عکس آن عکوس افتاده

مرباعی اول و تصور مخفی کان اللہ و لم یکن معه شی است در باعی ثانی در بیان حقیقت میگوین است
تا دهنیت وجود کاپیات به وضوح پرسد و آثار حنارجیه مشاهده به اصل خود که حد احی است
تمعالی و تقدس محقی کردند - هاں طالب تحقیق آپینه فرض کرن گزوی معمرا از کثافت و کدوست -
هم ظاهرش بصیغه و هم باطن و ظاهرش به اشکال مختلف متفاوت تشکل - یکین وین اشکال جز در
مرگات باطنی اش ظاهر نه - ظاهرش هچنان ابرصافت گروتیت نمودنیست - اکنون ظاهر مرگات

راظاہر و جو کو کو طرف خارج است بدان۔ و باطن وجود کو جہت حکم است تصور کن۔ و گزوئت ظاہر را تعبیرے از دحدوت ذاتیہ وجود و رخاطر آرداشکال مختلفہ اور اغتیارات و جیثیات آں بھیگر۔ و ایس جیثیات را و اغتیارات را در خارج عین ذات بدان تصورت کر وئیت اور اک رعیارت از دحدوت و اطلاق اوست ثابت یا بی و المعاكس ایس اشکال را در مرآت باطن حصول صورت علمیہ آں اغتیارات تصور کن اینک معنی کان اللہ و علم سین محدثی چہ ظاہر وجود کو وجوب و صفت خاص اوست پھنساں پر کرہ و لیگانگی خود است یہ چکونہ کثرت پرایم کون عنقش ملکشہ۔ اکنہ معنی تکوین را در باب مکون عبارت از آن است که حضرت مرآۃ تعالیٰ شانہ بقدرت کاملہ کا صور متفقشہ در باطن را نسبت محوال ایکیفیتی بخطہ هر خود بخشدہ کہ بواسطہ آں نسبت عکس آں عکس پر مرآت ظاہرا فتاویٰ یعنی بواسطہ کا نسبت چنان می نماید کہ آں عکس را وجود کے در خارج است۔ اگر کسے بگو یہ کہ نبیت کہ متفقشی ایں خلوت است از لوازم ذاتیہ آں صور است چنانچہ ددہر صورت علمیہ نسبت بمحلوش می بلینی پس قدرت را چہ تائیر میگوئیم کہ قیاسی غائب پر شاہد میکنی ہر صورت علمیہ کہ تراہما حصل است صورت علمیہ مقدور است کہ از قدرت کاملہ کیا اس آں نسبت را در بر کر ده بذات خود صاحب آں نسبت نبیت لا یعلم الغیب اکا اللہ آگاہ باشی کہ وجود کائنات در ہم فتاویٰ آثار خارجیہ از افعال او صفات مستندہ واجب شدہ۔ اللہ المشترق فالمغرب فایمانا تولوا۔ فیم وجه اللہ

۶۔ تصورت و حق آئینہ عکس نما است

ہر صورت و ظہور شرط و گریست

۷۔ آں کسکب نسبت پاگشہ عیان

حق موجود است قادر مطلق اوست

۸۔ حدوث کہ نہ باشد بد و آں پایندہ

سبحان اللہ زہرے خیلے باطن

۹۔ آنچا کہ حق است جملگی بے سبب است

کسکے کہ وجود او بجز وہی نبیت

ایں نسبت بباب از بی و پیدا است

در نہیں بل حق جز بیچ مدال

و ایں رشت خیال محبہ و ہم آں دگان

تماثیر کئے بہ حدوث آیندہ

ایں است وجودے عد مش ذ ایندہ

از کن نیکوں جزا این وش بیں عجیبات

نسبت بحق اکنہ کسے بے ادب است

ایں چار رہنمائی درپیان آن است که بحسب پہنچہ است کہ امام است ہرگاہ قادر ت
 فعل مقتضی بحق شدہ انتساب کے سب بصور علمیہ چیز معنی دارد۔ بدآنکہ صور کا یہ امر
 کوں بظہور رسیدہ اندومی رسخند لیکن حادث اللہ پر بی جاری شدہ کہ پڑھو رے رامش رو طلبتو
 ویگرداشتہ رسیدہ انتساب پسکے ویگر خیارت ازیں شرطیہ است۔ پس کا سیاست پہنچہ مرا اسباب را
 عبارت ازیں شرطیہ است مرآں اسباب را قادر ت فعل چلہ بحسب بحق است۔ الور و تبریہ
 راتماشیرے نیست و گاہ محکم می گوئیں و ظاہر و چودیخاہندہ جیشیت تعیین و تعین با حکام
 باطن و کسب این وجوہ تعیین خیارت از تعلق ارادہ حادثہ است بظہور امرے و آں مقید
 را در ظہور آں امر مدخلتی جزو آں تعلق ارادہ نیست۔ بحد تعلق آں مقید بعد ممی رو دو
 مقید ویگر قادر است کاملہ تامہ بظہور می رسدہ با جملہ مجموع حادثہ مر بو طا قادر است کاملہ مسلطۃ
 است قادر ناقصہ را ہیچگونہ مدخلتی دراں غیبت دلہ ذر العتیخ الجی الحسن
 الا شعری نور اللہ مر فدا ایں معنی است غرض از رہنمائی سوم و اگر کسب اسباب
 خیارت از چنگ ن دن است بہ اسباب چنگ زدنے مستند بر علم بہ تماشیر اسباب و
 بعلتے ایشان پس کسب امرے دست و سبی و نسبت دادن امور و تبریہ بحضرت حق سجادہ کے
 ادب است ہر چند کہ لافٹ اعل فی الموجود وغیرہ۔ ایں معنی است غرض از رہنمائی چهار مر لفظاً
 ۱۰۔ ہر صورت علمیہ کہ ہستش گوئی زان ہست کہ بوجے صلی از دے می لوئی

معلوم کہ ہل است وجوہ علم است جمل است اگر جزاں کہ وشن می پوئی

۱۱۔ ممکن کہ خرد در حذیش بخشداد در بد و نظر بہ سینیش فتوی داد

او در ہستی و ہستی اندر دے بود بیچار بہ آشتیاہ نامے بنهاد

در رہنمائی اول اشارت بد فع مشکلے است کہ بر مقدمات سابق فارد می شود۔ بیانشیں است
 کہ از سخنان گردشہ تچار مفہوم شد کہ ماہیات راجز در علم و جو دے غیبت یعنی صاحب آثار حنارجیہ
 مشاہدہ می داند رہ بخود کوں و حصول چیزیں ایں دانش گردشہ و حال آنکہ عقول حکم پر جو دماہی است می
 کنند و پے شنک آں سکے است مطابق واقع دفعش آں است کہ ماہیات میکنند و پے شنک
 آں سکے است مطابق واقع فطر رائی در مرآت پر ای است و مرائی حضرت پیغمبر قدس سرہ العزیز

در فتوحات می فرماید ماہیات است در حلم پر زنخی بین الوجود والعدم ولهمذا اعیان ثابتة می گویند . شان و همیں پر زنخ را حال می گویند از دبیتے موجود است و از دبیتے معدوم . موجود حکم پر وجود ماہیات همان اعتبار است نه با اعتبار نفس شان غایتة الامر عقول ناقصه از بین سه آنکه از نه می شوند . گماں می برند که باطن ایشان حکم پر وجود ماہیات کردہ تجھیص که مرئی بصورت مرآت است آمده .

۲۱ - از صفاتی می ولای فتنه حسام در هم آینیست نگ جام مدام
همه جام است نیست گوئی می یا مدام است نیست گوئی جام
لشیخ ابوالحسن الاشرفی قدس افتد مسرو زیبا اشاره نمی کرد که وجود ماہیات بین ماہیات
است یعنی وجود ماہیات همان است که در خارج پر صورت ماہیات برآمده یعنی آنچه عقول
از آن تعبیر بهستی میکند و بعد از دریافت در اشیا کوون و حصول که از آثار خارجیه اشیا است
پر اشیای مترتب می شود آن ذراست آن اشیا است .

۲۲ - این صورت علمیه که در جلوه گری است از خال و خلشن جمال مقصود بر می است
اور آن مرکب است مرآت خود است در شیوه پیش از بصری است
یعنی صور علمیه که در عرصه ظهور نموده بپیدا کردہ اندی پاتتعین و مبینز می نمایند مقصود که مرتبه وحدت
است و آن را تحلیل ذاتی گویند جمال از آن تعین و تبیز بری است این صورت همیشه در آن مرکب است
یعنی اور اس که است که اور آن و مرکب می شود چه تعین و تبیز از آن
ساری است . از آن است که هر چه مرکب می شود اقل حق مرکب می شود و بعد از آن او این
اور آن مرآت خود است نه مرآت حق . آنکه در بدایت توجیه به جهت بر زنخیست که بین الادن
ثابت است مرآت حق شده صورت معنی ممتاز آیت شیعیا الا و رأیت الله می شود
لیکن درین مرتبه نامدن بشه بصری است . برین قیاس کن سایر تجلیات را اذ آنچه ذرا مرآت
از از از می شود چنانچه عالم را همه کیک نور صاف می بیند و حق می باید بایا عالم را نبینز می بیند و آن
ساخت می باید . بالجمله هر چه متنبیز می شود و با موجود که صورت تعبیت دارد آن مقصود و نزد
نبیت . ایضا .

۱۲- در علم دو درجه است بی شبه در ریب یک وجہ به شاہد است و یک عجیب

در درجه شاهد سه رنگ است و تغییر در درجه عجیب نشان است و عجیب

از مقدرات گزنشت معلوم کردی که علم را دو درست است یکی ریش پویحدت است
که عجیب است یکی ریش نخود است که شاہد و حاضر است یکی ریش پویحدت است
ویحدت شود ظاہر داشته ویحدت خواهد بود که در کمال یگانگی و بساطت است پس
اگر هزار مرأت فرض کنی که هر گز اختلاف و تباين در صور او خواهد پیدا شد و هر گاه مرأت
خود شود با مراییه و گیراختلاف دنای خواهد بود چون زای هر گز است باین مقام نافذاده صورت
این معنی که خارج مخلو است از باهیات مختلف از صفات مختلف در باطنی منتمکن گفته
چگونه تعقیل این معنی توانی کرد.

۱۳- این علم بسیط بی تغییر است و نشان

چون حاصل تازه ندارد نتوانی

این ریاضی اشارت به آن است که تخصیل حق بمعنی بند است که تعیین اولی است و بزیاد است زائد
نیست ولی این راجحی ذاتی گفته می شود بجهت اوراک بسیط محل است آنکه ظهور
اوراک بسیط در مقام استهلاک می باشد نه تخصیل اول اگرچه هر چه مدرک می شود اول حق مدرک
می شود تضریش آن است که ثابت حاصله از اوراک بسیط در هر مرتبه که باشد همان نیست
است که اول حاصل شده تا این جزو در جزو دو مراد اوراک نیست و بند هر گز از این نسبت برخود
است بلکه این نسبت متفق و وجود بند و واسطه فیض اورست ولی این نسبت نیز در نظر عالم
محضی است چه ظهور اثبات بعده است و آن نسبت را اثبات در وجود نیست.

۱۴- از حضرت ذات هر استهلاک است

استهلاک کے که از تصریف پاک است

آنچه اچھے محل و افسش اوراک است
این ریاضی اشارت است به آنکه از تحلی ذاتی بجز استهلاک نیست بلطفاً اوراک بسیط اور همان است
و اینها اشاره است بر آنچه بحسب از اکابر گفته اند که اوراک بسیط مسمی بمعرفت است و اوراک مرکب
مسماً به علم الصلیل.

۱۶- اور اک بسیط موطن خو و فن پر جا ہستی است دار د آنجا ماوا

ایں است تفاصیل کے دریں موطن قدس ظاہر شدہ چفت عزیزی وحدت ہبھا

۱۷- ہنگام شعرا زین مفت ام عالی ہر چند کہ ہبھت نہ است فرش خالی

ایں است نتیجہ عالم جمالی در پرده نوریک طبوعے دار د

۱۸- بیکن با پر کہ نور آں باطن پا ک ہر لمحہ نیقتہ نہ مفت ام اور اک

تا یافت شود نتیجہ استہلاک در دیدہ ہمیں کون حصولی ہاند

۱۹- پا رب چک کند کلامی بے چارہ کن کوئی حقیقت نہ شود آ دارہ

۲۰- ہستی بحال قرب از دستور است کون است حصول در دش سیارہ

رباعی اول اشارت است بہ آنکہ اور اک بسیط ہم موجودات را حاصل است تفاصیل
آن است کہ استہلاک نہ در ضمن اور اک مرکب حاصل است۔ و گیلان را در ضمن اور اک مرکب۔
و گیر استہلاک در غلب مسبوق است بہ علم مرتبہ الوہیت و بعد از تنزل نیز مقید بحال علم
است۔ و گیر از امجد ذات مدرک علم برزتبہ الوہیت مربوط است بر علم بممکن من حيث اند
مکن کہ من عرفه نفسہ فقد عرفت ربہ۔ و آنکہ بعضے حکماً و بعضے از مشکل بھیں علم با فردیگار را مر لوط
بعلم بممکن نہ اشتبہ از خطاب است چنانچہ ظاہر است۔ رباعی دوم در بیان آن است کہ
در وقت تنزل از مقام استہلاک است ہر چند کہ جمال مقصود کہ مدرک بسیط است روئے
در خفا دار دا حال در علم مندرج می باشد و ایں معنی را در پرده نور بزرگ طبوعے می باشد و اور اک
آں نور اور اک مرکب می باشد۔ رباعی سوم اشارت است بہ آنکہ وظیفہ طالب حب بھیرہ آن است
کہ خود را بہ ایں اور اک مرکب تکرار و پہنچنے در مقام نایافت خود شیشند چند آنکہ مقام استہلاک
نمکین یا بد و از سکر حال یہ صحوہ آید چنانچہ باطن ش غرق لجہ فدا شود و ظاہر ش حاضر یا نچہ سر و د در
رباعی چهارم ظاہر است۔

۲۱- خواہی کہ جمال غیب در دل یابی زینہار طلب نکن کہ مشکل یابی

در ذلت خدا تفکر آمد باطل در نکر چنین مشنو کہ باطل یابی

له می گویند از اینجا است کہ از معشووقی گزشتہ پ نفس عشقی آرمیبدہ - ممنہ قدس سرہ

چه در دل یا فتن کرد آن را علم می‌گویند خواه بسیط باشد. آن علم خواه مرکب بذات متعلق نمی‌شود
رباعی پنجم طاهر است بہنها بنت عرونخ تامر تنبه وحدت است و فرق آن حیرت و نادافی است
پس معنی لائق و افی ذات اللہ آن است که ذات اللہ تعالیٰ اصولیم به، سیچ علم نمی‌شود. حاصل
آنکه ذات من حبیث ہی متعلق بسیچ اور اک نیست۔ **سَوَاءَ أَضَيْفَتِ إِلَى الْحَقِّ أَوْ إِلَى**
الْخَاقِ كُفْتَةً نَهْ شَوَّدَ كَهْ بِرَادْهَ فَعَدْهَ بَرَادْهَ يَا شَدَ. اور اجزوے باشدند نعمتے جزو آنکہ ہر چیز بہ نعمت
بسیط کر بسیچ گونه نعمتے درونه باشد. اور اجزوے باشدند نعمتے جزو آنکہ ہر چیز بہ نعمت
و وصف مترتب می‌شود پر نفس او مترتب نمی‌شود. نمی باشد گھر بہان اعتبارات ذاتیه او
در خارج نیست گھر بہا پچھہ بعد از ظهور اعتبارات ذاتیه اش میگویند نقص هستے است که در
خارج امرے بازند که متعلق علم نبود۔ و خوش گفت عارفے که ذات اللہ ﷺ علّم و
کلہ ارادۃ ای مَا لَأَيْتَنَا هَیٌ مِنَ الشَّيْءِ وَالصَّفَاتِ وَإِنْ هُمْ عَدْم
نمایی است که محبان ذات را بسیچ گونه تسلیم نمی‌شود و معنی بیعت :

در یک دم اگر هزار دریا بکشی گم باید کرد شنید لب باید بود
از ایشان ظهور می‌رسد چپ طلب بسیط بہنها بنت را با مرایہ کی که لفظور کمی نمایافت لازم است این است
که سخن ارباب علم صحیح ایل جبرت و عاجزان از ادراک را طریق دیگر است اپننا.
۴۲- خواہی حق را غیب می‌داند عینی بنشیں که محال است که دیگر بیعنی
می‌کوش کدیلے صورت تحقیقی را در منظر موہوم متصور بیعنی
ایں رباعی اشارت است به آنکہ چنانچہ ادراک به بصیرۃ جزو در مرآۃ تزلات نمی‌باشد و بیت نیز
جز در مرآۃ تزلات نمی‌باشد

۴۳- حق نقطه جماله جهان دائره دال
بیے دائره آن نقطه بیامد بیامان
آن دائره صورت حلم نقطه است
دال نقطه در ذیجاوہ گشته عیان
۴۴- گر نقطه جماله بیو ذات نقط
دال شکل نمود اعتبار است نقط
گرد و چو جهان که چند مرآۃ حق است
خط و نقط و دائرة مرآۃ نقط

۴۵- غاییش آن تزلیل علمی و این تزلیل عین - مشهد سرو

این ریاضی اول تئیله است و نمودن صورت و قصور می‌بهم غایبت الامر نقصانش آن است که نقطه را باقطع نظر از دائره صورت حقیقتی است مثال هر طبقی آن است که نقطه را ذات مجرد او خص کنی و صفات موجود اور از حضرت اشرف و جسامت و حرکت اعتبارات ذاتیه که در خارج عین ذات او باشند و در علم مغایر - چنانچه در ریاضی دوم اشارتی به آن کرد و شده - البضا.

۲۵ - هر چند که دائره ز دیگم است نمود در نقطه عرض دائره شد مشهود
گویند که در نظاره کشف و شهود اعیان همه عارض اند محروم وجود

این ریاضی اشارت است بآنکه وجود مکننات زاید است با مکننات نیکی برخلاف آنچه منتکلیمین میگویند وجود معروض است و ما پیافت عارض

۲۶ - گر نقطه بحوالان گه خود آفی در پیوں کشد از دائره و از خط سر در ظاهر علم اگر کج در است شود در باطن علیمش نبود بسیج اثر

این ریاضی در ضمن این مثال در بیان آن است که صفات اجسام حیر و هم نمودی بیست و میزد و علوم جز صفات حقیقتی هی بسیج بیست تقریبی آن است که نقطه به هر طریق که حرکت کند ابتدا در حس مشترک جز صفات موجود نقطه بسیج نبود - نبی اند صورت خط و دائره جز تصرف و هم بسیج بیست تیصدیل و تعبیین نشل هوقوف برداش بیار است عرصه اور آک کانت و حوصله رساله گنجائش آن ندارد بسیج نباشد این قدر خود میدانی که از ترکیب چهار جسم پیزگاپ چه مقدار احوال و اشکال مختلف در رسالت سبعد و مراتب غیر رایت بظهور رسیده از همین جا شعبده نموده اند بباب البضا

۲۷ - هان تازه کنی غلط کم از کم دافی این باطن را پیوں نه ظاهر دانی ظاهر بدن که بخیال روش هر چند کنی تحسیلش نتوانی

این ریاضی نصریح است به آنکه حق بحانه و تعکله با صفات ذاتیه خود در همیش مراتب اجسام ساری است - مقوم صفات و همید اجسام جز صفات حقیقت واجب بیان بیست چنانچه در ریاضی سادق در ضمن مثال میمینند

۲۸ - هر جایستی است که نبات است جاده هستی چوبیات خود علیهم است قدری از هست چگونه علم و قدرت افتاد

۲۹- در پر شکل که که رنگ هستی پیدا است
لیکن یک نگ بے تردگشته

این دو ریاضی نیز در بیان سریان حق است با صفات ذاتیه خود در جمیع مراتب اجسام ریاضی اول ظاہرا است ریاضی دوم منفی عدم ظهور آن صفات است. تفسیر آن است که عدم اختلاف در اطوار جادات مشتمل صورت علم دارد و قدرت ایشان را زلف فهم غافی راهنمای گزندگان آب شناسابه اراده خود متوجه پستی میشود و بدانتش خود از بلندی احترام میکند الی اینکه ذکر شرط مقاصد و ارادت و تدبیرات متضلع برآں صفات جو نام است را ظاہر ساخته و اگر نه هر کجا وجود داشتی است البته علم و قدرت و خبر آن هست پچ صفات ذاتیه از شی مترنغان فکا کشد بالجمله حق را در منظر اجسام منزه از صفات اجسام بدان یعنی کمثله شفعت و عدوالسبیع البصیر.

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ۳۰- هم شبه هم منزه خبره سر | از تو اے پیر نگ با چندیں صور |
| پوں نقطه که در داره دار د مسکن | حق روح جهان نفس آفاق بدن |
| منظمه نگزار چنگ در ظاہر زن | ظاہر دشی صفات نقطه است |
| وال لیس کمثله در و خبره زن است | این ظاہر بیهی مثل بیان بدن است |
| گاهی نهض است گاه و نیس قرن است | روح است به اعتبار اطلاق وجود |
| آن لیس کشند سمعی است و بصیر | ۳۱- هم پیر نگ است یار و هم نگ پذیر |
| آن جمله غنی است و ماسوی جمله فیض | این سمع و بصر حجز او ندارد و دگر بے |

ریاضی اول اشارت است به آنکه حق سعادت و تعالی ا در مرتب کا بینات با اعتبار صفات ظاہر و منظر ایشان به سالی روح است در بدن چنانچه گزشت. ریاضی دوم اشارت است به آنکه همانچه روح کا بینات است نسبت به اطلاق وجود به سال بدن است. این دو فقره بیان آن است و ثابت آنکه در هر کیم است و همچنین ما حی نمود بدن بل ثابت وجود بدن متفقند آن است که ما ورثی ایمن و الله من و رانهم محیط. شک نیست که آن صفات محدود اثبات را منظر بده کا بینات است فا فهم و تأمل نیست بروح باطن است و همیں منظر خود در عین آنکه خود را

در همدمی بسیند بهمه در خود می بسیند در عین اثبات وجود ماجی نخواست - مرباعی بیو متفصیل ترین
معنی است .

۳۴- تشریه فقط از علم سوی ادب است
از ملطفی و سمع صاحب دل بجهیز است
در باطن خود تمام آیات اب است
در ظاهر آیات بسی تشیبیه است
۳۵- تشبیه را که بور تشریه بیش نیست
در اکثر تشریفات تو جهیز نیست
این نکته ز تشریف محسن باید
سهی است در روز اگرچه پیش نیست

متضاد مرباعی آول ظاهر است . غرض از مرباعی دوم آن است که هر که در مقام تشبیه صرف است
یعنی صفات حق را منحصر میدانند و رصد ذات ظاهره از خلو قافت اکثر آیات المی بنا بر اعتقاد
ادلی تو جهیز است تعالی اللہ عن ذکر علوی بکیرا . و اگر نفعی تشریه باید معنی می کند که ذات حق تعلق
در اے ذات خلو قافت نیست و حق را وجود علیحده نیست پس اور حق صرف است و حق
او باطل چنانچه ذات هر کیم در اے ذات آن و گیر نیست اگرچه صورت هر کیم که فی الواقع
خلوق همان اوست در خارج کا الصورة فی المراۃ است در اے آن و گیر اوست پس
یک آیینه است که در وی صورت ممکنه مختلفه می نماید و فعل و صفت ظاهره ازین صورت تمام
از ای اینه است و آن ذات حق است اور اصنافات و افعال بلازها بیت است در اے

این صفات و افعال

گاه کوه قاف و گه عنقا شوی
گاه خوشید و گه در بیا شوی
تو نه آن باشی نه این در ذات خوبیش
ای بروان از و همها در پیش پیش
از تو اے پرینگ با حینه بین صور
بهم مشبه هم منزه نجیه سر
و اگر نفعی تشریه از صفات اجسام و لوازم آن می کند همچو نفعی تشریه نقطه جماله از دارگی پس غافلی
است از و فائی علم بخیر . نعوذ بالله . اگر باین عقیده اثبات صفات دزیا ولی آنها می کردہ باشد
هذا . فانه خلاطه فاصل بین الحق و الباطل .

۳۶- چون ظاهر علم پرده متضاد است
این مشت بیان سر بر سر نابود است
و انگاه نظاره کن که حق موجود است
از نقش دمے بسوی بسبی نقش گیریز

این ریباعی اشارت است به آنکه حجاب مقصود نقش صور علمیه است که در مرتبه دوم مذکو می شود از علم که نجات و خود را به شوری و غمیخت در دادن را مقصود است در آن موطن باطن تنفس

نوار قشاده است.

۳۶. هر س تو نه بیست زا نهار نقش
شند ظاہر د باطن تو در کار نقش
لئے خیر و حب عال نقشبندی بعلب
کان سان شودت شکست بازار نقش
متقصود ظاہر است

۳۷. چون نقش نهاده رو بی بی نقش آری
زاں لوح وجود نسخه برداری
زنهار که دل بزرگان نسیاری
نور بی بی رنگ تر جانش گرد
این ریباعی اشارت است به آنچه سانچا گزنشت که بعد از استهلاک و ضمحلال نور بی بی رنگ نجات
نشسته بی بی از متقصود میدهد اما طالب صاحب بصیرت می باید نفی آن نمود کند و از تجلی صوری
که در آرده ایں نو دیگر است به تجلی معنوی که در کسوت صفت اطلاق است بگردید هر چند
که به نفی او نفی نه شود بلکه قوت بگرد با محل صاحب ایں نسبت را لازم است که سعی و استنام او
در نفی پاشد قطعاً به اثبات مبنی بر نشود ازین است که فطب المحققین خواجہ عبد اللہ میفرسون
که نسبت ما بغایت محبوب است از نفس توجه محبوب می شود چه توجه و اثبات جریان نور
بیگنگ نمی باشد لآنکه روانی ذات الله حقیقت است آن نسبت استهلاک سر و ضمحلال
او است در غلیبت ہو بیت بجذب و تصرف غلیبی چوگی ایں معنی فرار بگرد و ام آر ام دست
و بد مذاہست تر جان از میان پر نهاد خواست گردد مطالعه کثرت در وحدت یاد وحدت در
کثرت که رد ای که بکریا که عمارت ازان تر جان است در میان خواهد آمد هر چند که به سان
ذات است نسبت به مدلول که نزد ادرآک دال توجه مدر که مدلول است عاشقی که نخست
مشوق می شنوار گرفتار معنی خبر است که - یادنہ هم - الفاظ مذکور او نیستند
آن است که ادرآک دصل میان تر جان و حق است بلکه حق عین آن ادرآک است

له ازین ریباعی معنی نقشبندیه را دریاب - مشفت مس سره

وَلِرَصْفِهِ تِزْجَانٌ مُطَالِعٌ بِجَاهِ خُودِ سِكِينِهِ

مَا كَيْثِمَ اندِرْ جَسَانٌ تِيزْجَانٌ تِيزْجَانٌ
چُولِ الْمَتْهُودِ اندِرْ جَسَانٌ تِيزْجَانٌ

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

۲۶- آن سبیر نگی چو پر تو انداز شود بس راز نهفتہ را که عنماز شود

ہر جانوںے سنت پر کشید چکہ بہ خود دانگھ پیٹے انکھات ہر راز شود

ایں مرپا عی اشارت سنت بائیکھ آن نور پیرنگ چوں وقت پايد پر تو انداز دو چکہ کا بینات رافرو
گیرد و در فور اینست او سریان حق در مرائب کا بینات بخورد سرد و معنی ہو الا اول دلآخر والظاہر

والباطن روشن گردد۔ سرا ایں معنی آن است کہ چپل حب صادق بحضرت ذات ہم خذب شود
پر دہ مجبو باں مجازی از میان بر اقتدر صرف محبت در جلوہ آید ہر گاہ ازان مقام تنزل نگاہ لطفت

آن محبت ذوقِ جمال مجازی را از میان بر انداز دو چکم محبت در جلوہ کاشاہ غیب ہوبت از
مقام خود تنزل منودہ در کسوت نور پیرنگ متخلی گردو چوں ہر چپل مدرک عیشود پر تو انداختن آن

نور پیرنگ آن است کہ مقرول بہزاد راک آن نور پیرنگ مدرک عیشود چنانچہ عیش از مقرول
آن اور راک صورت ممکن مدرک می شد ایں معنی بعد از وقت گرفتن محبت است وقت گرفتن

محبت پر تو اتر استنلاک و انجذاب است دبعداز پر تو انداختن در بجہ دیگر آن است کہ در
چکہ کا ثابت آن نور پیرنگ را ساری پايد نہنظر واحد و صور اشیا اچھوں سرا بے بے نور۔ در بجہ

بلہ بیکن خی قدماء مدرک نیست و تر جان اصل امتنف۔ لاذ هو۔ زاں سرے بہر گر شتمہ جیب و سرتی۔ نسبت آن تر جان
نبات نسبت حرارت آفتاب است بہ آن تاب کہ پر کوئے ظاہر شود چنانچہ کوئہ وقت حرارت حرارت ما میں آفتاب
نمی دارد آن تجیلی نہ۔ و اصل سر آن تر جان را میں ذات دارد۔ نمی امہ داند۔ اعلیٰ کہ ماے دار لیکن شوف اں و ہم
در مداری اور ایک انصارے بحضرت ذات است کہ خارج است او فائۂ تقریر تحریر۔ انصارے بے تجیف
بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس بیک گفتم اس را نناس نہ اس غیر از جان جان شناس۔ نہ ایں
اتصال جان و سرو و اصل راست نہ اور راک اور را۔ لا تدرک الابصار دھو پیدوک الابصار۔ سند فتد اس سرو۔

شہ نبید ایو الحسن فاروقی گوید بہ حاشیہ کتاب بیں عبارت بلجور بکہ نوشتہ است تعلیم شده بیکن در حقیقت این دفعہ نہ است کہ بہ

| | |
|------------------------|-----------------------|
| ایں بیج سکون نہ شدہ | اتصال بے تجیفے قیاس |
| بک گفتم ناس را نناس نہ | ہست رب ناس با جان ناس |

دیگر آن است که علم و قدرت مظاہر از صور را بآی نور بدین میل بنور آی نور ذو است کیم ذات
وصفات پیک ضفت گرد طعن الملک الیوم لدینه الواحد الفهار

۲۹- گرد و دوچار نشود جان مالا مال
گوبیند که جوں رسندندی به کمال

چشم از پر سو سرمه مازاع کشد
گوش از همه جانب شنود با گنگ تعال

منتهیان طریق نزول می گویند که کمال ندل مقصود نهایت احاطه شود آن است که صور محسوسه
شار آلمپیه و شرها و تپه ها هم ترجیح چیقت شوند و فائدہ آن نور پرگانه دهندر زهر کیب و آر
فعل بصر و بصر کیب سرا بینه سیحان الزی لَمْ يَعْصِرْ فِيْنَا مَنْ جَاهَلَ و قال العجز عن
درست الادراک اذراک و من عالم فَلَمْ يَقُلْ بِمِثْلِ هَذَا الْفَوْلِ - ایں عالی عالم باشد
لیکن تمامی ایں بخند مقدمه دیگر است بیکے فرونقتن صور بحیث البطن المبطون و بکر بودن صور از ظاهر
همادشیون و بکرانضبان خلاهیه احکام گذاشتند -

۲۰- مکمل زندگانی کے عدم ناکثیریہ نہت
و احیب سچلوہ گاہ عیاں نامنما وہ گرام

در جیز نظر که این همه نقش غریب چیز است
بر فوج صد و سنت آمد شود خاص و عام

آنکه اینها در درجهٔ حریت ماندن خوشنترانی بیشتر قابل وعده‌اند. فلم را از صورت علم کشیدن

مناسب حال

در بیان کنندگان نشستم همیں پنداشتتم دادم

زین پندار گوناگون وزیری و انش پشتیبانی نمود

- ۲۱ - اگر شنیده بپر نمود بیکار داده گرد
این است مصنف نام کشید سئمیعه بشنو

درست نوئے کس پلے طرف است
بیشین و بہہ ہر طرف مشوف زگ دو

مله این جایگانی که خدا نمود موجودات و صور آشیا بمنزله مشکلات است هر کس پیغام را داشت نویز بزرگ که نموده اند در شجره
لیپه فرد و سیپا انسانیه است در فلک دنب کوئیا که کیه است در خشان بمنزله فتاب است در حشر آن شجره که روح انسانیت
نمیتواند نسبت پیغام را خلیفه اوست که بصورت ضد خود را نماید و اگرچه چنوز محو تیش فی ذات اللہ نہ شده باشد
پھر چند که او سرمشکلات نویزی است اثنا بیت اور اکیل اقراصیه پیغام و پیغام را کیم افزونشی در دهست که معنی نور عین نور لائی شان
او است بیجا فعل لغزش اقدام است چنانچه علی الله بسلیما بپیه روح خنی را که بعضی از ظهورات روح انسانی به خدا ای که گرفتند
بهدی اللہ لنوره من پیشام - منه قدس سرہ

۲۲- یک لحظه سرے بجیب هستی در کش حرفی آنگوئی را خطا پرسکش
اگر مرد بی بہ نامزادی خو کن یعنی که نگار نیستی در پرسکش

رباعی اول اشارت است بقرب نوافل و قرب فرانچ بیت اول اشارت بقرب اول
است و بیت ثانی اشارت بقرب ثانی - رباعی دوم اشارت به غیبتی است که حاصل قریب است
و خود را بخوبی دور کشیدن نیستی هست تم تکین است در فنا و استهلاک که اهل فتنه
بعد اجمع را می باشد باطن شای غرق لجه فنا و ظاهر حاضر پاپجه می رود و اقرب طرق فتوحات
این صفتی طریقی علیه نقشبندیه احرار بیه است -

۲۳- این سکنه که من ذدم نیام فقر است دیں روشنی از نور تمام فرماد است

برنجیز و ره خوا جد حسدار بجیر کان راه ذسر حد مقام فقر است

اقرب و اعلی طریق مشائخ قدس اللہ اسرار ہم طریقی علیه احرار بیه نقشبندیه است - اول در آن
ایشان در ادراک بسیط است که غلبہ جهت حقیقت برخلافت است و محل تحمل افوار ذات
است و ظهور وجہ خاص است یقیناً این معنی را که مغلوبیت اور اکات مرکبہ و ظهور تباہی
صحیح سعادوت وصولی است - حضور و آنکا ہی میگویند وہرگاه در غلبات کشش و انجذاب
اور اکات مرکبہ تباہم از میان رخدت بخوبی دلیل پر تبعیت و آنکا ہی نیز شحوتے نماز تعجبیه پر فنا
و فنا فنا می کنند تو اتر این نسبت را وجود عدم میگویند و بلکہ ظهور این نسبت را بنواز
خطیم می شمرند

و صل اعدا اگر تو افی کرد کار مردان مرد و افی کرد
از اینجا است که در پی وقتی میگوئند وجود عدم منجر بوجود فنا شد ہمانا که از فنا فنا
صفات بشیریت بیخواهند وہرگاه حق سچانہ بر شخص عنایت نہیں کے سمجھید که در پر تو آن نور
دید ندار که حضور با حضرت پرتیے است از وصف حضور ذاتی آنحضرت بخدا شر فنا کے حقیقی
مشرف شدند از ایشان نہ تمام مانند نشان بہرچ پر ایشان مشروب بود تمام پر اصل خود رسید

هـ این اشارت ہر جا در کتب دار ق شده دیا غرض واحد است و وجہ خاص ہاں مدک بسیط است که تقدم
سلاک است و چون حقیقت اور نسبت با ذاتی ذاتی است مُشفت دس مرد

ایں مقام مفت می تھا با اللہ است. ایں جو دراوجو فنا می گویا ہے وجود فنا بوجو دلنشیزی
ہرگز خود نہی کنند یعنی عادت اللہ پر ہیں چاری است فانی یہ اوصاف فرش مرد و رشد می شود حالہ تکمیل
ناقصان دریں منزل است ایں کشف را کشف علیہ می گویا ہے۔ تعبیر تجسسی ذاتی د شہود
ذاتی یا و داشت ہمیکنند و حقیقت ان تعبد اللہ کا نک تراہ دریں موطن میدانند در و بیت
ہخروہی رانیز دریں منزل اثبات می کنند فرق میان احسان در و بیت پچھوں فرق میان مشاہد
صاحب جمال در وقت صبح در وقت اشراق آفتاب میدانند و میدانند و میگویند ہرچہ
کہ انکشاف ذاتی صفت بصیرت است اما چوں حق سبحانہ خبر دادہ کہ مسہ پارہ چشم را مد نحلے
خواہ بود۔ آہستہ و صدقنا۔ اگر می گفت پیشانی شمارا مر خلے خواہیم داد آں زماں نیز ایاں
می آور دیم و شہود ما نظرت فی شع الاؤ رأیت اللہ فیہ او قبیله او معرفہ را پیش از اطلاع
برصول ایں طائفہ و تصدیقی برآں ہمول چند ایں اعتمادیے نہ می کنند و کم معاینہ لایاں اطلاق
نمی کنند چنانچہ بعضے کردہ اند ہمی اہتمام ایشان را کشف علیہ و خلبات آن نسبت کثیرہ صفاتیہ
بنزرا ذرا ایشان مخومی شود۔ از صفت فعل حجز داشت و سچ نہی بینند در عصرہ وجود جزر کیف است
بحث در ذرا ایشان بصیرت شان نہی ناید ایں است نہایت مقام انیجاد اولیا ایت یا
ستیکت المنهی۔ ڈلیس و راء العین دار پ فڑیہ

۲۴م۔ آمد چو ربانی و پچمارا ذ عشرات خالش شدہ خامہ دریں بنتہ دوت

۲۵م۔ اند یشنہ چوار بیعن خود برو بسر ماہم سختے را کہ لشہر حش گفتیم

در تفرقہ اش چوال طناہر ملنگر

ہر چند کہ ہست کل بیوم فی شان

۲۶م۔ اے خواجه دریں نامہ بیسے اسرا است فہم ز مقید خرد شوار است

از کون و پکھاں مقید اتش فرداند مجوعہ ماسسلہ الاحرار است

تمت الرسالة

لوزدہ تواریخ اذ اتس ام ایں رسالہ مبارکہ کہ حضرت مؤلفت قدس اللہ سره

در شبیے املائشہ کو ده

لہ ہو الحکیم افتتاح المصدر ہے لا کسی حکم موجود ہے درکلم نقشبندی گہ اللہ تعالیٰ لے بقاویش پیدا کردا
کہ وجہ عکس مرأت الصفا ہے حنفی جو دمولی گہ فیوض علیا ۱۷ نعل کلم خواجه پارسا ۱۸ ہے
ظل حی موجود ۱۹ ہے مل ظل حی دجولی گہ لحنظ وجودی ۲۰ المسنا فی بصور حدوثی ۲۱ نظم و حب
۲۲ مجملی اسرار احباب توصید ۲۳ تحریر فصوص حکم ۲۴ فصوص الحکم بے شغل ۲۵ لب مقدرات
تقریز فصوص ۲۶ فیض وجود ہبہ الدین ۲۷ شیخ کمل بادا ۲۸ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ اَتَیَّمَ الْأَنوارِ

وَاهْلِیہ

١٩٦

جعفر

۱۹۴

مجموعه کلام باقی

مجموعه کلام (۶۹ صفحه)

خواجه خواجهان و قبله را سنتاں - صاحب تصرف افسوسی آفاقی
حضرت خواجه رضی الدین محمد السباقی مشهور به حضرت
خواجه باقی باللهم قدس اللہ سرہ الافتادس

| روز اشاره | نمبر شمار | عنوان | تعداد صفحات | تعداد اپیات |
|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|
| ۱۳۰ | ۶ | مشنوی قبل از زمان در ویشی | ۱ | ت |
| ۶۲۵ | ۳۳ | مشنوی گنج فوته | ۲ | گ |
| ۱۱۶ | ۵ | ستقی نامہ | ۳ | س |
| ۲۲ | ۱ | سلسلہ پیران طریقت | ۲ | ضیمہ س |
| ۹۵ | ۲ | تاریخ تولد پیر د پیران بکار | ۵ | تاریخ |
| ۸ | ۱ | تاریخ تولد خواجه محمد عبد اللہ | ۶ | تاریخ عدم |
| | ۷ | روایات ۲۹ م و فرد ۳۰ م | ۶ | ب |
| | | تحقیق طلب سه روایات و | | |
| | | چهار قسم | | |

مشنونی قبل از زمان در فیضی

در بیان آنکه وجود صوری انسان پر حنپ که از عالم خلق است باحسب ملی از حفظ قدس است
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۱۳۸ اشعار)

- ۱ من و هنینم که نمود من است جایے دگر قص وجود من است
- ۲ نقطه غرباب جماعت منم دانه سیراب نراحت منم
- ۳ اپر و کے پیشانی من دلکش است قطره بنیانی من آتش است
- ۴ عقل نمک ریزکباب من است خون جگر نام شراب من است
- ۵ مردک دیده پهند دلی ام گوش نصیحت به رضا جوی ام
- ۶ دیده میت اع سردگان من شور دو عالم په نگداں من
- ۷ بخمر مژگان سرچوگان بس است گوئے توجه نمک چان بس است
- ۸ ناد مشکم شکر بیخته در تر سرپوش نمک بیخته
- ۹ برس هر بنده گمرا نده ام در بن هر بوسے شکر مانده ام
- ۱۰ خامره کلید بیست در تا خشت من گنج دو عالم همه درشت من
- ۱۱ شکر آنوده بد رکده ام خوش تماش ای بستان من
- ۱۲ رشک بهار است زستان من غنچه تماش ای بستان من
- ۱۳ در پیه سیخون تهند جوی است حرف من اکنون پسخن گرفی است
- ۱۴ برس هر تکسته علم می کشم هر دم دیر لحظه ستم می کشم
- ۱۵ دیده عالم په تماش ائے من بلیم دخنچه په سودائے من
- ۱۶ گریدرم در بد ریسے نیستم زان خودم از دگر کے نیستم
- ۱۷ از نمک ساده خبید من است گوہرے اذکان ضمیر من است
- ۱۸ صفحه خاطر درق خوبیشی ام تاج مکمل سرد دیشی ام

آہ چچ گفتہ دے خانے نہ زدم ^{۱۹} دستہ کوتہ پہ تما مے زدم
 بہرچ پر اہستہ از و دیدہ ام ^{۲۰} رینہ زخوان کر مش چپیدہ ام
 کردہ بہ بہنگام بیان ادب ^{۲۱} نرمی و سختی پہ فسون و غضب
 زال بید بھیان کے پئے تقییر من ^{۲۲} ساختہ مصتاڑاں گلوبیر من
 خورد و کلان حسرم اشاد ^{۲۳} آہیں انڈ فرشتہ نژاد
 پیر و جوان خوشہ بک داشہ اند ^{۲۴} یک کفت سرچو شش کریا شہ اند
 در نظرت ہر مرہ چپیدیں کثرتیت ^{۲۵} احولیت باعث ایں گزٹریت
 بخیز و زملے نے نظرت راست کن ^{۲۶} رشتہ خود را گمراہ است کن
 شیر شکاراں سیجھی نفس ^{۲۷} بہیدہ چند بین نہ زدنے کے نفس
 اے نمک بے نکاں در دلم ^{۲۸} شورش شور بیدہ دلاں حاصلم
 هتش سودا سوئے مغزم دو پید ^{۲۹} آبزش رہواہ مرا پے بہ پید
 زخم دلم مر سهم آں دو دش ^{۳۰} رینہ اماس نمک سودا شد
 هتش و آبے کہ در بیں منزل ہست ^{۳۱} چشمہ رہ غتیر بسل است
 خاک بشوعل بہ گرافی مئنه ^{۳۲} پشت تغافل بہ جوانی مئنه
 بیے غرضے شیع نیفر و ختنہ ^{۳۳} بیہدہ افسانہ نیا موختنہ
 بخیز و بہ سودا بے شکارے بتاز ^{۳۴} چند نشینی پئے کارے بے بتاز
 سست نہی پکے خاکے بچیر ^{۳۵} دست دل دامن پاکے بچیر
 در بیانے ساکھہ دنیا و عالم دنیا پیچھہ است و اذ آنے مطلقاً است
 ایں سہہ سر رہ شہ پرتاب دی پیچ ^{۳۶} جسند غم بیہدہ چچ چیز است یعنی
 غار غنیان اند نگاہے بیکن ^{۳۷} از پئے غارت شدہ آہے بیکن
 اے خنک آہنا کہ از بیں ہستہ اند ^{۳۸} دل بکستان دکو بستہ اند
 دست بہ فرماں سجا بے زده ^{۳۹} آتش خود را کفت کہلے زده
 سوختہ اے حند من قتاب را ^{۴۰} بستہ بہ آتش گزر آب را

- در بُن دندان تو کل نشیں ۲۱ خار مشوده شتم گل نشین
 دست طمع از دل خود دور کن ۲۲ کل بی خود حسنه ز نبور کن
 گر مگسی دست ملاحت بیگیر ۲۳ درینه ره در سم سلامت بیگیر
 بوسه پر خوا نظر نهاده انتقان ۲۴ ند زپول گیری خود باختن
 همل پیشخون کش امش دهی ۲۵ پنیزم بوسیده په آتش دهی
 آب شوی جسدر فنا کنی ۲۶ آب شوی جسدر فنا کنی
 و حشم زبان مائده خواه تو ۲۷ مائده در کام سخن مائده
 مائده در کام سخن مائده ۲۸ گوش بچ آزاده دهی مائده
 ایں بهم پیچ اند و کفاایت بکن ۲۹ دست سوئے خوان عنایت بکن
 رازق پر خواجه د در ویش اوست ۳۰ چیست پیش بیش، پیش پیش و دست
 هم بخششی هم که پیشتر می رسد ۳۱ چکمه ازان خوان کرم فی رسدا
 از خود و آشام کنار آوری ۳۲ گر پیش سنگ حصان آ دری
 سنگ دهی خواهش ناپود را ۳۳ سنگ پیشی لب مقصود را
 پادر کان پسر احسان رسدا ۳۴ روزی پیوسته فرادا رسدا
 بادشود با نفست در رود ۳۵ در پیست از رود سبکتر رود
 خواهش عالم بمه بر سرمه ۳۶ در به ہوس پائے طلب بر منی
 خاک شوی در گذر آبر دے ۳۷ باد شوی در طرف جستجوے
 خچپه بیهود گیت گل کند ۳۸ آپنجه ته از تست تعف فل کند
 سخه دگوئے ملاحت شوی ۳۹ دست خوش سنگ نه امانت شوی
 بر بد و پرنیک بهمه ناظراست ۴۰ صاحب عالم بمه عاضراست
 از همه سو بانگ نداشت رسدا ۴۱ باشی که چهل روز قیامت رسدا
 بسر دیوان حسابت بر د ۴۲ شحنه پیش پیش نداشت بر د
 خواهش اگر پیش و گر کم بود ۴۳

پر سرچہ پاے چوپ بنا دن است ۴۲ خواہ یکے خواہ دو افتاب دن است
 جانب خوبان نظر مانگت دنست ۴۳
 زندگ و بیمار بود مرد نست
حکایت

بے خبر بود گرفتار خویش ۴۴ جوش زدن از گرمی باز از خویش
 مرحلہ پمیودہ بہ سوداے زر ۴۵ کردہ بہ بہر باویہ در گزر
 ناگه ازاں حب کہ بد پیشانیش ۴۶ بود و خشک ز پیشانیش
 گوشہ پیشکے بہ شکارش رسید ۴۷ طرف تکابہ پیش کارش رسید
 خواجہ سودا زده دبپا نشد ۴۸ عاشق آس توگس متانہ شد
 آس ہمہ اسباب یہ کیک جو فروخت ۴۹ خرس بینا مدد را برقی سوخت
 رقص کنائ گرم تنانے خویش ۵۰ نے سر سوداے ز پوکے خویش
 ہم سفرے داشت بہ سوداے خام ۵۱ شد بہ ملامت گریٹش تباخ کام
 آمد و گفت ایں چہ مستی کہ چہ ۵۲ بے جھت ایں بادہ پرستی کہ چہ
 کیک نظر است ایں ہمہ غولی کمن ۵۳ با خرم از تو فضولی کمن
 چوں سخن سر دیر گوشش رسید ۵۴ گفت کہ اے در دل رینگ تا پید
 بے خبری از من و کردار من ۵۵ رو کہ نہ فی خشم اسرار من
 شعلہ دیگر بہ چڑا عشم رسید ۵۶ باد میجا پہ داعشم رسید
 شد چو بہ دل رینہ الماس خوار ۵۷ خواہ یکے ریزہ دخواہ ہے ہزار
 در خشم را بہ گزافت آوری ۵۸ بر سر تھمت ہمہ لافت آوری
 مردم اینک خبیر جمال من ۵۹ دادن جان شاہرا احوال من
 چوں دم آخر نفس گرم داشت ۶۰ دست اجل از خشن آز رم داشت
 گمہوں نفت دگرامی سپرد ۶۱ سروی و گرمیش نما می سپرد
 باقی از افسانہ مردم خموش ۶۲ در تو اگر چاشنی ہست جوش

درنه بر و آتش می دام کن ^{۸۵} ساقی خود را نشے رام گئ
 تا په تو یک حجصر عنایت کند ^{۸۶} حاصل کو نین کفایت کند
 ساقی ایام می آمد میدا ^{۸۷} جصہ همی حب ایم می آمد مرا
 دست بر آور پر مئے لاله زنگ ^{۸۸} شیشه ناموس بیگان بر نگ
 تاگر امر و ز به را ہے شوم ^{۸۹} قابل تخریب نگاہتے شوم
 عشق بشارت دو فرزانگی است ^{۹۰} عشق نہ از تجله دیوانگی است
 عشق کمال است بر ہرسو کجا است ^{۹۱} عشق عشق ای صفت کیمیا است
 عشق نجازی لقب او نہاد ^{۹۲} صد در آزاد سوی رحیقت کشاد
 دست من آکنوں بگرسنگان است ^{۹۳} روز خشیتین سخن گفتان است
 روز دگر رونق دیگر دھم ^{۹۴} حب و دلیش و تو نگر دلهم
 کوشم و حبند ناحیه بر دیوار سرم ^{۹۵} موج بر آرم پر ثریا رسم
 چند دگر سنگ کنم قوت خود ^{۹۶} در صد و سودن یاقوت خود
 پانچ بہشت نفس محل کنم ^{۹۷} ہر چہ بگویند تجسس
 کام شوم مشهد پر دل خورم ^{۹۸} جام شوم زخم پلا پل خورم
 دست مرائیه مسند بر پیدا ^{۹۹} بر در در بیو زه احمد مجدد بر پیدا
 بر سر آن خواں کرد کر بیان نہند ^{۱۰۰} شاد و گدا را ہم کیسان نہند
 ہمت پیراں مد جیان من ^{۱۰۱} لطف عین زیار پئے فرمان من
 ار کد بہ ہمسانگی مردم است ^{۱۰۲} اگر ہم و دیانت رہیش خود گم است
 عشقی سخت دان روز من است ^{۱۰۳} در دل شب شعل سوز من است
 زینت دل رونق ایان من ^{۱۰۴} موئی من محمد من - جان من
 خود تو بگویم که چیزیت ^{۱۰۵} خود تو بگویم ایں پوچھیست
 اے تو نگ پاش کباب دلم ^{۱۰۶} چاشنی انداز شد اب دلم
 می شکافت ده معنی توئی ^{۱۰۷} شاهد و ساقی و متفقی توئی

روے زمین آب وجود از تیافت ۱۰۸ پُشت فلک حیمه جودا ز تیافت
 پنجه نور میش جلد پردار تو ۱۰۹ ثابت دستیاره پسے کار تو
 اے که سرعشی مجازی تراست ۱۱۰ خواهش ایں شعبدہ بازی تراست
 پاییت اقل ادب آموختن ۱۱۱ دیده هم دونحق و سوختن
 بے ادبی راه نمود ہواست ۱۱۲ درندہ ہوا از چه و عشقی از بگات
 گر نیر مانس است ۱۱۳ اسخن گوشش کن
 درندہ گوبیت ناموشش کن

حکایت

در طرف روم یکے ماہ بود ۱۱۴ لاکی نظر ره و دخواه بود
 شهد و شکر را بهم آینه شد ۱۱۵ پرسیر آن کان نمک ریخته
 شاهزاده آینه نگنده ز دست ۱۱۶ رسته ز منبت کشی هر چهرت
 در ہوس زینت رخسار خویش ۱۱۷ کرده حواله ب ادب کار خویش
 عنبر احسان عسل یافته ۱۱۸ غالیه عسته و جل یافته
 باد بیجا پیز ز هفت گریش ۱۱۹ ساخته از گرد تکلف بریش
 سرد قدش در روشن روح پاک ۱۲۰ در حشم تعظیم بوبیده خاک
 ماہ که سحر حلقة بگردی نهاد ۱۲۱ صبح نگر رویہ زمین چول نهاد
 چونکه بنفسه سر تعظیم یافت ۱۲۲ دست دماغ اذکر مش سیم یافت
 سنگ دور دنیز بر ادب نشست ۱۲۳ لعل شد و بر سر سنجش است
 خسر و عاقل ذم بے باک زد ۱۲۴ آمد وزخمی حبگرش چاک زد
 کوه کن از تلخی من کین خویش ۱۲۵ شیر بہایا یافت ز شیریں خویش
 خپچه نفس در قفس خویش کرد ۱۲۶ چشم ادب کیف و نفس پیش کرد
 آخر گلبانگ تجسسی گرفت ۱۲۷ دست کشاده دهن گلی گرفت
 ساده بخ رفت به عما نیش ۱۲۸ شب ہے افسون پر پیش نیش

آن صنم اتفصه ادب کشیش بود ^{۱۲۹} بر بد و بر فیک خوش اندیش بود
 گفت که اے سیمیرا ایں شیوه چند ^{۱۳۰} نخل بر و میبد تو قمیوه چند
 دست بده شاهله گری باز کن ^{۱۳۱} گرمی بازار خود آغناز کن
 گل په شب تیشه منور کرد وید ^{۱۳۲} خشن شے بله زردوگو هر که دید
 گزئ خلاک این همه آهسته نیست ^{۱۳۳} دیده خور شید فرد بسته نیست
 وقت کمال است شستن که چه ^{۱۳۴} آخر مر نیست شکستن که چه
 لازم خوبی است ستم کیشیدت ^{۱۳۵} معنی نماز است کم اندیشیدت
 ز هر گیا ار بخشند باک نیست ^{۱۳۶} در نفس ما تو ترباک نیست
 شورخ ادب چوں سخن بزم گفت ^{۱۳۷} گرچه پراشافت عجیب گرم گفت
 کرد ب از سه ترش ^{۱۳۸} معنی بخوش
 گفته حسنه و نکته به نکته به گوش

تمام شد فتوحه قبله از زمانه در دیش

تعداد اشعار

(۱۳۸)

شیوهی بحث فقر که در زمان درویشی نظر نداشته شد

حشدا ونداد بفقرم را بخواه
که از ناکامی خود کامسیا بیم
خواه دفتر و قصر از رعنای گم
شوم در ففتر در پایه شاهی
ذرا شوب داشتم پرچمی
گهی زیب هردو بالاتر گزینم
پیشش ایم از مونج تفنگ
پیغمبرم در گفت از در شاهو ای
ز جوش بینه چوں گردم سبک بیر
پیا باقی چیز ازیں گونه پستی
صدوف چندی گرفته در کنارت
صدوف بشکن ز در بیان گو شهزاد
عروسی طالب ایں گوشوار اند
ییکه در پرده گفتار پیزیز
اگر شد پرده نازی پیاچه باک است
چون پرده گی بیرون شنا بد
طلیب بیدار شد و قتله قبول است

کنم از گنج فقرست آگه انگ

توضیح باری تھے غرامہ

بِنَامِ آنکه در پیش از وجود است
خودی فارغ از نگاه حبّهایی ۳۰
چون بزم پرده را پیکسی شد که وہ
میلے انجام پرسیده چند کوتاه
زستیلای عشق ناگفته است
شده و قبیل ناپاینده چند
پسی کمیاب می پاشد درین کو
کجا آن عنده بجز ایوب
وجودش مونج الکی بی پا بد
پریتند مونج حسن عشق بکیست
ذکر نحر است چه افس چه آفاق
عجب سحر است خود رخود شناور ۳۱
اگر علمی است از علم خدا بیست
درین محمد کثیر است را چه کار است
اگر قدر است و گر علم دارد از است
همان اهل نسب بی چند و چون است
ز بجز خود اد کو تین جو کے
سبوئے نه که از جو هر چند سر
سبوئے خاک داشت اد ندیده
چو کب صاف خالی از کنایت

لطافت علیک نور لا یز الی
 چچ عکس است این قدر از اصل مصور ۰ ۴ چ نو است این هم سجان ذی النور
 ذہب سے قدرت کرچندیں بیش و کم ساخت
 ہماں بر وحدت خود پائے بر جا
 اذیں کثرت نیفزا و اعتبار شش
 حادث را بذاتش غیریت کارے
 بنام ایزدے دریاۓ نے سند
 اذیں دریانی دائم حپه گویم
 چو من در نیتی گردم حقی گرد
 خبردار این این بحر پر از نور
 تکاب غیریت پرا و کشیده
 در آن پر وہ که دریا خاص خود بود ۵ چنیں دائم که خود غواص خود بود
 چو من در مونج دریا ره تو ردم گئے در فرق و گه در جمع کردم
 چو گویم زیر چو گان ارادت
 بشارت با دنیم را سعادت

مناجت

طلسهم جبرت و زمان نزدیک
 فرج بخش و مانع یکے تمیز ایں
 مشععبد حنفه پر ما و کردم
 نہاده ز حشم جبان نازین را
 کشیده از میتہ الہیں جائے
 ز شبیطان گوئے رسوانی ر بوده

خدا و مذا ا دریں چاہ فرش گیر
 حلاوت گیرد لہمے سند پر ایں
 سرانے سر بسر خوزین مردم
 ہم منقاد الہیں یعنیں را
 پرساری ر سیده فرش نامے
 قبول گچہ از شبیطان شنوده

ہمساہیں رافتند ندی بے قبیل
 و آتش زاده دلپا آدمی زنگ ۶۰
 من بے چارہ از دستش ز بونم
 گئے و خشم دگه در آرد و خوار
 گئے و خلوت شبیطان کشد و خفت
 گئے بر و مئے کارم پرده آرد
 گئے نازد پئے کسب کمالات
 گئے این نافتبول از بین عدالت
 ز در دشی کشت شرح و بیانے
 گه آید در سکوت و در تفتکر
 که جا تشن غرق در بائے وجود است
 زمانے در منابعات آور در دئے ۷۰
 که از بھرچ پختنم ز هد کارم
 از بین غافل که دنبئے بیعنی را
 بیعنی دوست را پرورد و ده نتوان
 گئے در عشق بازمی انگلند گوئے
 دل اندروست نظارہ نہادن
 پر آمد دو دش از لفب مجده
 چوبیت رفتنه رفتار و فامت
 چو چشم پر خمار افتاد و چارش
 کشت هر گان خوزبز از کناره
 نگاه آتش افروزد جنوی را ۸۰
 بسوزد خرم صبرش سکون را

لہ ایک سخن میں بول ہے: نگاہ آتش افروزد جنوی بار بسوزد خرم صبرش پر کیا ر

زنخستانِ حُشندَه از فتوحش
 دهم سر شے بیفروز د چرا غش
 نه دلیش ماند و نے دل نه تند بیر
 بایں آہنگ تک کے دل خراشیم
 بلطفت خوبیش کردی ر و تناش
 بدمی دیرانه کردی ر هنمونش
 شکستی خوار بخت ز پر پاپش
 پچند بین دیپو و د بخانه کردی
 د بستان بلارا در گشت دی
 ۹. بجند منگاریشیں تعییم کر ز دی
 د مے طرفه د بیدی در دما غش
 بشیر بین عشوده دادی شکتش
 مل نا کر ده کل کسرا ر بودی
 آبی یعنی که می مالست د بیدی
 ر بودی صبرش اذول کاشش از دست
 مدار بیو و تابودم تو بودی
 بنو می گفتم از تو می شنیدم
 تو بودی راحت جان دول من
 بہر جا در نیت می تو بودم
 ۱۰۰ غبار اشک د کچند بین ساله گفتم
 بیسان بیججه صند دانه بودم
 بہر جا نیچے د هسر سو نشانے
 شعویے در دل رسسه نهادی

فسون از د ولیت تریاک رد حش
 شود افسانه روح و دما غش
 پیشنهاد نے خوز بزار شود چپید
 درین د کان سودا چند ماش
 غبارے را که بنهادی اسکش
 بخت از خلوت افگندی ژوش
 فرستادی درین خلقت سراپیش
 بصد بیگانه هم افسانه کردی
 مجتبت نامه در جنبش نهادی
 باستاد بوس نیلیم کردی
 نیم غزه سرداری ببا غش
 عنان عقتل بگرفتی ز دستش
 طریق عشق بازی را نمودی
 خود از هر سو عجیرا فشان سیدی
 لباس چنعت پوشیده سرست
 بحمد اللہ که مسجدم تو بودی
 اگر در دیر و گرد کصبه بودم
 تو بودی حلی چپند بین مشکل من
 همیں سرگرم سودائی تو بودم
 اگرچہ این شخون ستانه گفتم
 دور دزے کا ندرین سبب خانه بوقم
 دلے پر کیب بر آورده د کانے
 در تو خبید برد و بیش کنشادی

بندور خرمی صد زنگ پوشان
بجسم از میان و شمن و دوست
درین مصنی زار باب قیاس
"ذالمق" گو و "سبحانی" تو دانی
ازین غش نعت بدستی پاک بهتر
چیلے گرفروز پر چه عار است
ز بوئے خواهم از یک لب خوش آهنگ ۱۰ کر هم تا بسم براند از دهم او زنگ
نه از صحراء خبر نایم نه از کاخ
می گر پرده پوش ای خوش آید
غريب افتاده ام بیه بیار و غم خدا
بکلاں گاه هیچبا نم در آور
پی گفت و شنودم پر نیارند
"من" "و ما" در وجود خود خواهم
عذاب گو ر تسبیح کلام است

د جود رستم پر قیشت بوزال
بروں رفتم و خود چول آنہ از پوت
و گردانی که من حق ناشناشم
مرا بردار خود کم نز جسمانی
چو من بیه اغفاری خاک بهتر
درین دریا که ناپیده است راست
ز بوئے خواهم از یک لب خوش آهنگ
عجیب است که ایدم در دیده گستاخ
دانغم خود من روشنی می نماید
درین فیروزه کاخ آدمی خوار
تو اے سیکین نواز بیچ پرور
چودر گور استخوانم را گزارند
که من زنگ ریا و شک نهانم
مرا بجا صلیبه لئے تمام است

بحب نم زان شهد و نکته دانی
تو دانی بجن کاری که دانی

حکایت

ز دنیا وز عقبی اگونشه گیگے
شنبیدم که می نایید پریے
جنون در کاوکا و سینه اش بود ۱۰ ہواز خلوت و بیرینه اش بود
ہمانا بود اول می ربو دش
جمال خود همانی می نمودش
و مادم می فند دش بیقراری
شگاف سینه می خارید و می گفت
سر شک از دیده می بارید و می گفت

له اکی نسخه بر بوئے خواهم از یک جوش آهنگ

نهانی ہر دل کے راقبیں ذوق اپیست
 سچارے می دو دنو بیدی انجیز
 ازیں شش در کشادم پینیا بد
 بحث ناشنوجانے سنت در من
 ہمیں در آزو می کاہد دل بس
 زمک بونے بنا مند اہل محشر
 سر بالا و پستی نیست در من
 دلش باوانی خواہش ہم نشین سنت
 بخود قطعاً سرانجے ندارد
 پلے آں راہ گیرم اندریں باب
 گنہم پنبد تعلق از ہمہ سنت
 تمارع فتھ را گردم خردیار
 قفسن در دار آہنگے بد گارم
 ازیں بازار پر دارم سروکار
 زلوج دل تراشم نقش سستی

زلمنے والہ ہم زبیں خود پستی پسند
 علیہما اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم

در نعمت حضرت رسالت پیغمبر

کو در ہم رینم ایں تجھائے هست
 کنم خاصان حسین در اسلامے
 بسلطان رسالت آدم رُم رو

گرم فیض اذل بخشید دل دست
 ازیں اقبال یا ہم جست دلے
 سب شک افشاں زبیں بوس شناگو

در پیش از این کنم را
تمنا برآورده بگیرم که خاموش
نمایم "تاب قویین" تو این است
قول مُرّة استارج وجود است
ذمین خدمتش عرش برپیش است
بهشت و حور و قصر انجا که افمت
آن توانادی زبان خود نگه دار
که بله هم است هر دل را پیش
ستون بارگاه بگیر یا بیست
ازین فانوس شمع آشنا نیش
که روح القدس از بره بگیرد
که در انفاس او چند بیان اثر بود
نهاده گوش در سماون این درس
صلادر داده بینایی جهان را
خدا بین آمدی در پرده غیب
ملک راشد بسیجودی مکرم
که عالم را چنان زیروز براشت ۱۴۰
که از تیر عجب دارم نشانه
نهاد عشق را جزو من بپنیست
خودش می داند و سلام الٰی
که فورتند من پژوهشین است
زمیں جو بیشد ره من راه عشق
منم کیک شکه و کیک شکه تنزیل

چود نظر ناره روشن کنم را
تماشار حبگرد بخشش که می چوش
بدل گویم سعادت هم نشین است
جمال خواجه معراج وجود است
نشیم را عشق پیک این است
چود را بپان ما زاغم مقام است
شناش باشنا خواشیش مگذار ۱۵۰
قدش می گوید ای من خاک پایش
سمی سرد نزبستان خدا بیست
سرائے کوئ دارد فور عینیش
کلام زندگی بخشش مشیر است
همان علیسی ازین دم ببرد ر بود
سرفیل است، اب جد خان این درس
خرش مرگت، فور لامکان را
که بای در من چود بیدی بشه کفت زبا
در دن پرده من بودم که آدم
جمال بوسفت از من آن بخورد اشت
دلش هسته با خود در تز اند
حریف راز دارم دیگری بقیت
چنین دارم که اسد ارش کماهی
عروس خلقش اند رش رح اینیست
سرائے حسن و خلوت گاه عشق
صفات دوست را بنقیل و تحریل

بوقی بکشم گیرد و تکاپے
منش در گوش حبال گویم حکایت
من از شے کیشم چول رو غون از شبیر
 بچردو ح محفوظ معانی ۱۸۰
سخن گویند جانکاه است در خود
زیجسو پار استغنا کشیدن
طلب را در عمال ارشاد کردن
خبر گو پید که دارد بندگی کار
حساب بندگی گرد و فراموش
هم از مستقر قبیں شوکار اینست
حدیث عشق بازی کرده تکرار
شده سرگرم ایں گو هر فشافی
در خست عشقی را بجز فقر بر نیست
 بر و بندی ره نایاب گیرد ۱۸۰
فرو داشت مرکبین نزل را زست
که کارم گیرد از دلے انتظامے
روانش راز خود خوشنود بازم

یعنی کرمت نعمتہ با ذا المکارم
علی خیسرا لوری حصل وسلم

مخاطبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

مرا ز من بچ لالکی بر فشان
که می مرغ خواهد داشت ماقم

بیا اے آرزدی سیدنا چاکاں
درین بستان اگر خاکے شود کم

کہ خواہد خاک پر سکر دا زین درد
 نظایلے پر سیر کیپ قدرہ پوشنہ
 کہ زین غفل غبارے را برآرد
 بایں خاک ہوس آکودہ بستیز ۱۹۰
 غبارے شرک اور شے زمین گم
 تختیلی کُن بایں شر عوں اندو
 نمود چند رانابود گردان
 شب خوں پر سر شور پیدہ حالی
 غبار ہوش از منظم برافشاں
 جگا پ ماه و رشک روز بنا
 خلیل در طاق ایں کسری بیگن
 بھم بر زن بساط آب و آتش
 اچبیل ضلالت را بنن سد
 محمد مُتَّد را رسول اللہ دام
 مراد ہم من درج در امتی دار
 دلِ حسین دین صنم خواهان بخستی
 ہدایت را سپندرے دود کردی
 صنم خواہ دگر را ول بر بجاں
 دریں دکان سپندرے احتیاج است
 نمایک شعلہ در ابستیا غضم
 زنگرمی دازمن دو دگشتن
 ہاندک جلوہ کارش تمام است
 کنغم بیچارگی خود را مندا موش

دریں گاشن اگر برگے شود زرد
 چڑھاہد شد اگر در بیا بحشہ
 فلک گرد تند باشے را گرد
 بیا اے نوح طوفانے بر ذیجیز
 اشارت کن موج پر تلاطم
 فروڈ آئے کلیم اللہ ازین کوہ
 عصاۓ اژد ہا صورت بجان
 نملے خواجہ ابردئے بلالی
 بخنت اور زبان گوہرا فشاں
 یکے روئے جسان ا فروذ بنا
 بستے را گرٹی بازار بشکن
 بجن دکان ایں شیطان مشوش
 سرگردان کشی در حبہ آور
 گرفتہ ناکس کڑ مرد ز بانم ۲۰۰
 نظاہ کبریا از پیش بردار
 دریں پیر کمیں تہشیکتی
 فسون ہمد من نابود کردی
 بستے دیگر دریں رہ خورد گردان
 بیسے رختہ ہدایت بے روائج ا
 من اکنون خود سپندرے ایس تاعم
 بیسے جسم دریں نابود گشتی
 دوئے دارم کہ خوبے را غلام است
 پچور بیا اے ملاحیت بر زند چوش

چو در عشق تو حب ۲۱۰ نفر یا یئے باشم
کلام میں کہ پا بر حب یئے باشم
حکایت

تمائے در آن دیوار اسکردو
پچ سینه هوندی خوبیوں اثر کرد
که ول از بند خود یکبار برداشت
نه از راحت نه از کامش خبرداشت
وش از زندگی شرسته می بود
خشش سرگرم خواهش زندگی بود
علم پیروں ز داز سیما پیش آس ورد
فغان برداشت بسیداد فنظم
همه یک دل بتد پیرش دو یه ند
نخست از مردی و جوش زبلانے
ترجم راشیفع خوبیش کردند
شب مجنوں و بسیدا رسیش گفتند
همان کا بسیدان و خواری نمودن ۲۲۰
از آن سربسته ختم تبعید کردند
ولی مجنوں در آن جمیع گزردانشت
و گزند از عشم خورم نداند
سخن القصه در گرمی در آمد
بمیران مررت خش راندند
که مارا نیست تقصیر بیهودی بیان با
کنم ہینک درخیلی میتیا

خود آسی بے چاره سر پا ب خوش است
خود افسون خود و خود خرابی خوش است

حکایت

برآمد پیش از باد دل تنگ
بدامان سلیمان نے بزوچنگ
بازار ارا، امیرن، ار فرمود ۲۳۰. حضور با وجود پیشنه برآورد
وزال پیشنه اگرچه ظلم ره داشت
دلے ز از بیغرا از تخته دی پیدا و داشت
دو قسمی پیو قوب تا خردمند
فروگفتند زین سان فقصه پنده
بهم در ساخته از فطرت خام
نمکنند مجنون را که است است
فرمودند عشق بیه سرانجام
در سرتی ہلاک آئی بگشت است
در سرتی پادخودش صید عشق است
دل و بیواند اش وقتی بد عشق است
خود عشق هستی برستا بد
جنگت خود پستی برستا بد

رجوع به محض اطعه

زین بوس حضرت سید المرسلین صلی الله علیہ و آله و سلم

من از خود سیرم ای مقصود جانم
برهم سرایه از حشیش غلطیست
بیکریم قوت جادید از فیمت
شکست افتد درین مشت خیل
ازین مهره که برپروردید باشد ۲۳۰. چه ظلماتها که برجانم روانسته
بهرجا عشوہ انجیزیے گزر کرو
زمان منکر تم آرد و منه اچنگ
بنوچیدم دراندازد که بخوبیست
دران خرسه آشیوی اثر کرد
بهدستی در بونا خوش آهنگ
درین صورت مقصودی دیگر ایز
نمودی چند پندرام نبود است
بهر سو جلوه اصل است پیدا
چپ میلی و چپ شمیں و چپ عذر را
سخن گوئے زبان بسته دل آویز
هیا نه است بیه تاویل و بینیز

لے مصروع وزن سے خارج ہے۔

در خیم پر و پو شیده دارند
مفت ام و هم خود را عین گیرم
بسناد فی و کردی در چه افتم
فنظر ناکرده و عوامل کے ابشارت
در ای کشتو بیسے و دشمن ضمیرم
باندک نشانه باکی نشاید
از آن جوش است چنین قل و قلم
کچا تفصیل اسم را گزارد
دل از علم صفت اتش کام گیرد
سر را مانی و نیاد امال
گمان بعد از شیوه سبب نیست
که باشد گرد و مراز جام صفت است
که وقتی عاشق شویده خوش باد
بروی از شرع حبند فرزانگی نیست
بروی از شرع دنیسکی عاشقا اللہ
در و نصرت بیسے قریحه میل است
اوی ایشسته هاتی مکروه تر و پر
په مطلق رو منعی دنیا هم است
بچولانگاه و رانش را سخن آئی
دری مقصودست از پرورد کشاید
هم و پیدا اگر دی بکم و کاست
ازین آیه نه زنگ خود بانداز
حال دوست را آنجا خور است

سعاد اللہ چنینم گرگز از مرند
فسون اهر من از جاں پن پرم
بجت بگرفته شش از ره رقت
بیار و شرود بیت بُر تک است ۲۵
بر سریم علم توحید از خبرم
دلی رسمش بتراپیکے نشاید
گرفتم عین توحید است حالم
چون بر ذات بر دل حمله آرد
در آن خوشی که ذات آراء گیرد
دلی علیست در دل مندی عالی
چنین دل گردو هم که عجب نیست
ازین معنی بحر صورت نمود است
کشد بار از درون پرده فریاد
هشوزم رخست و بیانگی نیست ۲۴۰
نمید ایم چنیز که اندیزیم بردا
به نام شرع اگر اندک جمال است
چو قرقی به بینی گوشته گیر
نزاده تبیض صورت کاخ تمام است
چو در حبند وجود از خود در آی
چو فرد ابا طعن از ظاهر برآید
بر آید آفتاب است از چسب در است
تو اکنون خاطر از هستی به پرداز
عدم شوکند ای مراد است فر است

امانت دار بجاناں جزو عدم نیست ۴۰۰ عدم در عرصه لوح و تسلیم نیست
ہیچیشہ خلوت اذ کو نین دارد
از ان سند ما یہ نور عین دارد

شیخ بدل

از حسرت و بازماندگی از مظلوب

ز خود گنج دو عالم را نہ سفت
دلا تا چند از زیں افسانه گفتن
چو بلبل در قفس رفت اص بودن
دوئے تقاضش لوح بادگشتن
گھے در خود فشنروشی را سپردن
گھے چنگی حقیقت ساز کردن
خود اندر کثرت از سب سسته ای
بیکے زیں باد سپیاقی فرد د آ
فرود گرت از فتن مراد است
جهان فانی است بر فانی منه دل
چو بگستی ز خود بند جهان را
شندی در پرده تضییق و تسلیم
سبق از عسلم از حملن گرفتی
چو در بحیرہ یقین خود را سپردي
ولدت زال بے نشان آگاه گرد و
ند را ہے گر نظر افتاد گز ندست
گھے ماند نجومت دانع بر دل
گھے فکر ت پتعییل انگمند گوی

۲۸۰ از زیں مشتب تندب بند ب محفل
گرفتی پرده نور لا مکاں را
بروں از فکر و استبدال و تعلیم
ز دست موهبت ایماں گرفتی
ز هر صنع ب صانع راه ب روی
محبت مقتد ائے راه گرد و
شود در تسلیل پائے ہندست
شوی گاہ از طبائع پائے در گل
چو جسمانیہ در وہم آوردی روئی

زہسے ذریقیں دانتے کارش
 ہمال بسادہ لوجھا مارش
 دل اندر خبر صادق نہادن ۲۹۰
 زماں صدقی محبد وایس مادن
 ز طور عقل خود بیں درگز شتن
 اپیں صدقی و محبت تیز رستن
 پسان قظره در دریا شکستن
 دگرہ سر برآ در دن ن دریا
 با حکام شرعیت سر نہادن
 بکلی از مراد خود بر پدن
 بطور عقل دایسان راه بردن
 عجز آساز ہر چوں و چرا در
 جمال قرود سوا س دیدن
 عدم خواہی ذہستی سرد بودن
 رہے بے راه روایجا ہوید است ۳۰۰
 پیادل رخت از بیں تجاذہ بردار
 نامی و تجیہت لال بنیشیں
 که از قلب سلیم آمد سعادت
 ذلکی اثبات الا اللہ یا بی
 دم آحسن نہ مجده بگز رفیت
 بو تجیہت پیدا یمان انحصار بے
 چوہردم می تو اند بو دت آخر
 بشو مستعمری اندر فی و اثبات
 کمن تا نجفی است نجیرا فات

داستان

سرم در خواب و دل در کامرانی
بیشے خوش دل تراز روز جوانی

در آمد پیکار سیدم دلادور ۳۱۰ نیستے یا قسم مقصود پرور
 بیکار سعادت دید و پشاخت نظر چوپ از چیز باز پر داخت
 چه خواجه خزان اسرار را دید گرامی خواجه بله احرار را دید
 سخن از بے نشانه هاشم اشت سب اندر صرفت گوهر فشار اشت
 که دلها در ریش آمد سر انداز بگفت آن شاهد خلوت گه راز
 بجان عشقی باز حسنه آرد گهے از حسن صورت سر برآرد
 مغضی گرد داده دے گرم بازار گه از صورت پیغام آمد شودار
 بروی از جان و تی ور خود شعر کرد هله آن را که در جانش اثر کرد
 پر مقصود خود از خود پداخت شعایر جان دثار تن پینداخت
 ز خشم غیر نپهان است ایست پیش ببر چون دسرش پده برد اشت
 ظلمی لازم آن نامور ساخت چودرانوار کل شد مخوناچیز
 بهم پر زد دکان و هم تمیز نه ز خود بگزشت و گوئے مردمی برد
 اانت با اانت خواه بسپرد که این طلم اذین بسیار باشد
 که بند بے صفت بیکار باشد تکبر تیز و صفت ناگزیر است
 مقید خود بنا چیز کے ایست شهابت رفت و آمد بے نهایت
 پوکبر است ایں همتر از خیانت در آن شب که نیم بخت بیدار
 ز بی ت معرفت گشتم خبردار پر صورت پستی حنفی ایاص بودم
 باندک زنگ و بورت اص بودم براهمی ایکیں خواب دیدم
 بارشاد بیکم باید سیدم دے بے زال با وہ خالی هست جام
 هنوزم اندراں بازار راه است هنوزم اندراں بازار راه است
 مگر ره بایم از احسان خواجه کنون دست من و دامن خواجه
 نهایت در براست از تو دیدم چودراقل هدایت از تو دیدم

قویی دل بودم از خلق کریست
 در آن در بیان کشید و داد
 وجود خواجه ماند تا قیامت
 بردن ماند همیشہ ز خاشاک
 غایبت ایشان در راه دیر است
 بایس خواری که می عینی نشاند می
 تو خوش بشیش در ایوان کرامت
 من اینک در طلبنا سعد نهادم ۳۴۰ باستغفار و بارب ایستادم
 پسند آردی باندک خذر خواهی
 کیم سامان امید و طلب بود
 بنور غیب دیدی اینچه دیدی
 نشاندی در دلم نخنله و نجیبد
 فرو ناید سرم بجهد دکانے
 کزان مخفی بیا بهم و لغواری
 گره هابسته دارم حمله بکشانے
 بسے محتاج و بسیارم طلیگوار
 شکستم از خوار بی نصیبی است
 نمی دانم که ایشان سو بر آیم ۳۵۰
 از این عنتی از شیش از که پرسم
 سیماں زبان دان از که پرسم

حکایت

زیست را پس در خواب بسید روز
 جمال بوسنی آمد چگر سوز
 نمی دانست کان مر را چه نامست
 مقام خاطرا فشد زش کلام است

دمانخے در ہوا شور بیده می اشست
 نہ از معشو قس آگاہی نہ از خوبیش
 بروں از شش جہت دل در تکاشا
 فروافتاده و چوں مردہ می بود
 دل از حیرانی و جمال از جنون رست
 نہ پیسف می شناسم نے مقامش
 نہ کان خلا ہم کہ بیسفت رانشاید ۳۶۰
 مگر در خواب بینم روئے بیسفت
 قبول چوں منے بسیار در است
 شوم در بست شکستن چیت چالاک
 بہر خواری کہ باشد در خور آیم
 گدا کے رہشیں گردم دریں راه
 کہ یا یم بیسفے را گاہ بیگاہ

مناجات

در آں ف Horm کہ می دانی فزوں بر
 خداوند امرا از من بروں بر
 نمود من که روپوش وجود است
 زیان بند و وحد گفت و شفوت
 نجست از اسم الموصن اثرا فت
 بخلوت گاہ امیان وارد است
 از پیش مهان غیبی نور ایم ای ۳۶۰
 شهود از اورج عزت پست ترشد
 بسلطان ارادت تاج سر شد
 طسم مکن از انوار و اجب
 بیک بار از خود افتادیں غارت

پلے در بند غم کا پیشہ می داشت
 پیس در د پیس سوز د پیس ریش
 خبر نایا فتہ جاں در تفتاضا
 ازان جبرت بسے افسر دہ می بود
 چوں در صرش نشان دادند بر جہت
 دریں سودا کہ افتاد مہد اش
 نہ کان خلا ہم کہ بیسفت رانشاید ۳۶۰
 زلینجا دار سوزم در تماست
 ولیکن بیسفت من میں بغور است
 پر بزم نعت بینائی دریں خاک
 نزاعنا فی و خود بینی بر آیم
 گدا کے رہشیں گردم دریں راه

بِقَصْدِ لامکان کردند پر داڑ
نہ موسیٰ من نے مریدم نے شہیدم
بکن فتوح کرد دافی حبلوہ درکار
پریشان بر قعی یا صدھہ جبارت
پرست ذفس و شبیطان کھگفت ر
پردوں آہینه دند جولا نگہ ناز
عروسان جہاں را پر دہ بکشائے
دریں معنی دلبسری ہا نہ دم
خاطر بروئے ایں چون و چراکش

رہیں نہ دیاں دو سہ مُرغ نوش آواز
کنوں در خود کر میں بینم وحید
چوکار اینجا رہیں لے اہل پر کار
کنوں دارم بجائے آں عمارت
اڑیں برقع کہ مرگش باو در کار
عروسیاں گاؤں گاہے سے برقع اندا
برانگن برقع دو رہ جلوہ در کئے
در خواہش زبیب کی کشیدم
تفابے برقع اپنے احمد اکش

نہ ادم دل بھرنے کے کہ باش
پت پیغم کارم دا بند اعس

در پیان نسبت خضرش خواهی ایشان خواهان

فهرست میراث العزیز

بینخته از خود و با بیست خود دور
از بس کامار چند پی و سست بیند
از حنادق نیوت نز جانے
شود فرزانه دستور رسالت
از زدن در کشوده دار استگاه تیخت
های بیست، بخشش رو آ و رده او
و ملے طیفور زیں صدر و شی پاخت
دو اس پیه خرقانی از پیش راند
بیم تربیت از رفتگان خواسته

دلے کر جپشم کے بینہ نہ مسکو
بروں از خود مفت نہیے برگزینید
کند در سینه گوھر نشانے
پلش آئیسته تھر رسالت
چون زیں دیر فنا پیروں کشد رخت
شوو سلطان خاں در پپو وہ او
چو صادق رہا زیں دیرانہ پنافت .
چو طیغور اندر ای منڈل پرانشاند
ہماں در لقش بند سے بے کم و کامت

بر پیر غجر دانش انسال است
علی الحق مرشد مطلق الا است
حت را آباد می دان آدم آباد
که علک قی کنند این پرده داری

بنظا پر پیش از ببر کلال است
علی الاظهاری رشد از پیش گاه است
منوداریست فتش آدمی زاد
و لیکن سنت است گشت جاری

حکایت

خست از بی قراری پرده پاشت
گنگه جزا این درست نبودش
زند و خوبی بش دست و پائے
چون خشنل بیقراری بار و در شد ۲۰۰۰م تصر عما پنهان کارگردان
مرید پیر مرود راه کرد و نماد
مرا دش را بصد حبان مادر آمد
هوا می وصل و هم خواب و هم آن خوش
بله از یک طرف چند ای پول شد
سلوکش از محبت منفعل ساخت
زیارت آزاد نگذاشت برگ
نشان خیرت از عالم بپانداخت
بخر من گاه شادی دست بکشاد
خس افتاد در چشم آفت انگز
۲۱۰ بسیاری کی در آمد پیش جاده شد
لطف را فتا و بر خود ناگهنه نش
دلش شد تیرخست را نشانه
پئے لطف راه پیش دیگر آور د
ز افیم شهادت چیست گزشت

زیخار چون دو ائمہ پیغمبر افراشت
ز خواب و خورد فارغ شد وجودش
که از این شیوه نکم دو جائے
چون خشنل بیقراری بار و در شد
ذمام و منزش آگاه کرد و نماد
پدر رکارش از هستی برآمد
بهر آمد و لش از شوق پر جوش
نشر چون عرس زیپش رهیم شد
فریب رو زگارش نگفتم لستخت
فرد بار بی بے پان نگر گے
ز کو در نج سیل قد برافراخت
برآمد تیغ برکفت بر ق بیداد
زیخار اد را صحراء که خون ریز
جهان تاریک شد چو تار گیوش
چو ظلمت بست پیش از این آتش
زنایش نگاه جاده
دلش کز تیز تر کان پر آورد
به پرداز آمد آن مرغ ہوس گشت

سروش غیب کرد امید دارش
 آن چو گه به گه خود سند می بود
 در آن در دیده نہ ساده بودند
 فردوں می کرد ہر ساعت ایوبیش
 پر یوسف دست در آن خوش می گشت
 ۳۴۰ چد حاصل شد ازین همیر تهدید است
 بتور ہر لحظه خود را می نمودم
 تھی از داشش و از من کرانه
 در آن در دیده امید می دخت
 پردوں از پرده بیند و ببر خوبیش
 بہر سر آرد می اتصال است
 زکنخان ماہ کنعنی بدرشد
 زیجا گشت ازین معنی خبردار
 بلارا در طلب گاری در آمد
 بمقصود و گرشد رہنمایش
 ۳۴۰ نظر با جمله در پنیک و پدش بود
 بدست آرد ده حقیقی تو کل
 تمنا گیر شد دست گردانے
 بناز و عشوہ می بود اختیارش
 خود آرائی درسم ناز نینی
 زیماں می کرد عشقی بوالعجب را
 سروپاٹے نجبل حبیله از اخوت
 حجاب جان یوسف خواه او بود
 بغیب افتاد با یوسف دوچارش
 در آن امید روذے چند می بود
 سوئے غیبیش دے کشاده بودند
 خبر می داد چشم غیب سبیش
 چواز نور یقین بے ہوش می گشت
 هر دس غیب می گفتیش کاریست
 همان درگام اول با تو بودم
 تو باعزم می شستی غافلانه
 چواز از خود خبر می یافت می سو
 ہوس می داشت کیم چشم فنا کیش
 بلے ہر ذرہ مشتاق جمال است
 بنگ که چند ب عشقیش کارگر شد
 چو علک هصار از وشد گرم بازا
 بقصد جا در حسره بیار می درآمد
 شد از سرمازه آثار جتوش
 چباب چند بیش مقصد کشش بود
 چکشت آموز گارش مرشد چکل
 زوائے بافت جنس ناروائے
 سبب می دید چشم خام کارش
 خرام گیو می داشتیش بیینی
 خدل می داد آئین طلب را
 جوانی و جمال و بیش اند اخوت
 ہے زال حجله سنگ را واد بود

نظر بند دل آگاہست ایشیت
نودنگ کر سنگ انہد اینست
تو بند بیرون یوسف بند سیار
ازین ناجیت سرو است باز
غرض تعلیم غیبیش کرد ناشیه
پس پایہ پایہ تا ایوان تو حسید
پایہ پایہ تا ایوان تو حسید

اچھا و نیازمندی احضرت خواہما الہین محظوظ نقشبند و خواہا حرا

گرفکر رسپیدن ناپسند است
ہنوز ایوان استغنا بلند است
گرائے خواجه اندازی کمندے
بے ای بدیے بنیاد دارم
شکار لاعشرم بے عست علام
کساد بھائے بازارم لقیشیت
ذمئے حبیۃ اللہ برخیشہ
قبول کن کہ اقبالت تمام است
قبول تو قبول نقشبند است
دو پیش و نور بیانی نگانہ
و گر باشد تفاوت بیشیہ است . ۲۵ کہ دام الولی بہرا بیہ است
پدر و شن چراغ از سینہ تیت
درآں پر شود پیش حبادوانہ
ہمال یک خواجه در گفتگو تمام است
پہما الہین زیل نقشی بلند است
ذبانہ پر شکر زین نام بادا
مرا در بندگی چوپائے بند است
پہ بین در بندگی اے خواجه کیرہ

گرفکر رسپیدن ناپسند است
شکار لاعشرم بے عست علام
کساد بھائے بازارم لقیشیت
ذمئے حبیۃ اللہ برخیشہ
قبول تو قبول نقشبند است
دو پیش و نور بیانی نگانہ
و گر باشد تفاوت بیشیہ است . ۲۵ کہ دام الولی بہرا بیہ است
پدر و شن چراغ از سینہ تیت
درآں پر شود پیش حبادوانہ
ہمال یک خواجه در گفتگو تمام است
پہما الہین زیل نقشی بلند است
ذبانہ پر شکر زین نام بادا
مرا در بندگی چوپائے بند است
پہ بین در بندگی اے خواجه کیرہ

گرفکر رسپیدن ناپسند است
شکار لاعشرم بے عست علام
کساد بھائے بازارم لقیشیت
ذمئے حبیۃ اللہ برخیشہ
قبول تو قبول نقشبند است
دو پیش و نور بیانی نگانہ
و گر باشد تفاوت بیشیہ است . ۲۵ کہ دام الولی بہرا بیہ است
پدر و شن چراغ از سینہ تیت
درآں پر شود پیش حبادوانہ
ہمال یک خواجه در گفتگو تمام است
پہما الہین زیل نقشی بلند است
ذبانہ پر شکر زین نام بادا
مرا در بندگی چوپائے بند است
پہ بین در بندگی اے خواجه کیرہ

دریں دونخواجہ دلپنڈم بیکھے شد
سرقتندم بہاالدین نشیبین است
تو می دانی کہ عذرست بہترم نبیت ۳۶۰ دریں رہ عذرخواہی پر ترم نیست
معاذ افند کہ استغنا بجیم
ولیکین فڑہ در خلدت آباد
محن کو فڑ کرم خود عذرخواہ است
وگر صحبت دریں رہ یار گرد و
زبان در گوھر افشا فی در آرد
بردن از خجلت آنجاراہ یا بم
ابوالوفت دو عالم قطب ارشاد
زمتنی در جنیپ افکنند اشوب
پری تیکین مشتا تان دیدار
در آن آئینہ می یا بم محقق ۳۷۰ سوادمن رائی فتور آلمت
فتانی اللہ خواجہ بسین بلند است
خیلی خود حق را در زمانه
نمودش بر نخے دان در بیانه

در جھوٹ و پیان هر انس سلوک

چنیں گوئیند دانایاں اسرار
کو مشتوق ازل در ہر شورے
سر ہر فڑہ بینائے جسد است
ہمار بودش از فور شور است
شہود دوست پہاں ہر لے راست

زاصل دشروع ہر معنی خبردار
ز غمازان نہاں دار ذلبوئے
دل ہر قظرہ در پلے بحالت
شہودش ما یہ چپن دین نمود است
ہوائے دصل ہر بجا صلے راست

دے انگنده بر جانش جا بے
 شدہ بنیاد ایں دبیانہ گشتی
 نہادہ حصل کیں بازار دنیز دیر ۸۰ م
 سراپا کشور آفات علم است
 زکریب بخیال فکر و دسواں
 شود در خود رازی لی مع الحمد
 بیانین پر انداش خواہ پر باید
 طلبگاران چنیں افسرده گردند
 یہیں خود ماندہ افسرده چند
 بر افراد ذریح علم یقینیش
 فراموشی بر افتاد در دخودش
 نیم شاهزاد لاریب یا بد
 ارادت سرزندی خواست انور ۳۹۰
 که تنگ آرد بہ بعثو ق غیب
 شهد دوست گیرد در کنارش
 سعادت را ورنے دیگر کشاپد
 بیار و آں اماشت بے خیانت
 ز جلاب قناعت کام یا بد
 بیگرد شورش بے حد و غایبت
 در آں آرام بنشیند غبارے
 یقین آں دید و آں شورش ازان بست
 درین مکن نمودے اذنگاپا است

در پیان عقائد دین و سر از طسلوک راه چهیں

هدایخدا هست ده حذب الائی
نمی تواند از فضل باود شایی
نخستین شرط این سودا یقین است .. دوم سرمایه ایں سود و بین است
ریفیق سنت و راه جماعت
بروی زاید ب محضت کارگردان
قبول حنا طرسند نشیمنی
قدم از حباده بد علت کشیدن
بنزیر سایه اش از خود ره بیدن
مرادش و اشمن از جان پستان
بغیر روح ربی متناسب
بقعده ش شریعت خرمی نیست
اویسی مشرب و عیسی زباند
و حین طبع داشت گھر را از اصل معادن
روه سنت په چپ لالک شتابند
نصیب از خواجه کوئین بایست

در پیان استفاده و تربیت مهنوی از روح پر فتوح نبوی

طلبگاران ستری نسخ الله
شنبیدستم که مشتافتان در گاه
خصوصا کاشفت راز مهندانی
بنخادست در بدایت کارش این بود
که بودش و او جان نام اویس
اویس آسا ازان گزیر غذا بست

کیم من کیم ہو سگ بسرو دماغم
 دل از ذکر او اسم شاد گزد و
 دریں ره قدر خود حبندان نداش
 زیانم زیں تلفظ گر حبید نبادست ۵۲۰
 که جان ارجمند للعسا لمین است
 دل اندکشم دجال سرگرم ایں کنست
 قبولش گر پیا بد در افتادت
 دریں سودا دے دیگر کشت یم
 شیفع آرم روای دوستاش
 پهلو بکرد خمر عثمان و حبید
 په صدق و سوز پور بونجت فافه
 په شامم تجریت د تار بیکی غار
 بخوارے کز فشنیش وا قربادید
 په دار و گیر بزر و حرب خندق
 په آن شب کز سرے ام مانی ۵۳۰
 په بیرون رفتی آزاده ازا ده
 په بیده آنکه می با بیت دیدن
 بفقرے کز خودش در پیش می اشت
 باں دم کاو د دروز شفاقت
 که ایں غافل کشا بد چشم ازیں خواب
 نه در قرن اول آشیانه
 ز آسبیب زمانه فارغ الیال
 من ارجید درم از بخت بیه دل
 کنارے غیبت در بای کے قدم را

پیا بد لند ایں سودا چشداغم
 دماغم زیں ہوا آباد گردو
 که در دل خشنل ایں سودا نشام
 سرم بخواست صبید ایں کنست
 هم استعداد بخشید هم سعادت
 درم از جانب و گیر در آیم
 مد خواهم زر روح پر روانش
 به ایل بیت و اصحاب پمیر
 په علم و داشت ختم الحنفاء
 په آن خوش عنکبوتے خبریں تار
 په آشوبے که دشت کھر بلادید
 په روز فتح د نور شخصی حق
 په آن شب کز سرے ام مانی ۵۳۰
 په بیجان اللذی اسری بعده
 در ایل خنایت پر و دش باب
 او بیش ثانیش خواند زمانه
 په بیشم ما ضی و مستقبل و حال
 تو حال سر مری داری چمشکل
 په طولی است باز و کے کرم را

۵۲۰
مرا گرچه سراسر کار خنام است
تامام دان که این سودا تمام است

مناجات

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| بخدم درمانده ناکارشناس را | خندیدایا ایں غریب بیلے فوارا |
| بیک رودی رو در جت چویت | پدایت کن رهیے لا بد بسویت |
| ذلک از هوس فنا رغ نشیند | و می از نیک و بد آسوده بیند |
| مکن یک لحظه زال فهمت بر فرم | اگر در نعمت عینی سکن نم |
| نهادم ول بلا کو پرده بردار | بل اگر حساز کار کا بد درین کار |
| بحمد اللہ که میں عالی جنم | و گزدیں هر دو پیروں شد خایم |
| روم بحدست ستار طریقت | بده پیشکده در راه حقیقت |
| ز نور قوبه رو فتن ده بکارم | خشنت از محصیت آسوده دارم |
| به آسانی ن کارم عقده بکش | چو دل در رغبت و نیازند رائے |
| مرا گزار کایم کار زد خواه ۵۵۰ | بحن از زشتی ایں کارم آگاه |
| سرم روشن ز نور صس آگهی دار | سبب پیش پیش از بیش تهی دار |
| پر مالا بید خود فتن نشینم | برای دارم که آزادی گزینم |
| روم در این عزمت ز نم چنگ | شوم از خست لاط خلق دل تنگ |
| و هم بر باد نیماں این داں را | بیادست نازگی خشم ز دان را |
| شود موجود بله من آشکارم | چو در نفی وجود افتخار گزارم |
| بدر گاهیت بر مرم روئے مناجات | دلے قادر رغ ز احوال و مقامات |
| ز بالیست خود از خود بر آمیم | پیش و چشت و چی بکشایم |
| بر آرم در جهاد شیخ بله داد | دگر نفسم مرادی را کنند بیاد |
| شوم در انتظار دولت خویش | و می بُردن ذ حل قوه خویش |

سرمه مستقرق بحسبه بابت ۵۶۰ دلمنشاق انوار تقایق
 پتقدری الی شاد باشم
 سرمه بیم نهم نیک و بد را
 چو بپرول شده ازین شنید وجودم
 بگر خسته باری راه بودم
 می در باد گرد ارم زبان را
 پسرگرمی آن شیوه بی تراهم
 داغم پرورد جیب تجیل
 شوم داقف ز اطوار نگهداشت
 پنهان چنیده و تندیده حنا طار
 و لئے از حضور غمیده آزاد ۷۰ ه شهدارندۀ خود را کنم یاد
 پس آنکه در پله تحقیق چندلاص
 و فلم گوید که سودا کے ندارم
 پرول از خواب رفتار پیست هارا
 گهرزین کار پنجزد غب رم
 هجوم بازگشت از من بردنگ
 درین جبریت که فخرش تو امان است
 نموده آسب جیوان در سیماهی
 سواد الوجہ فتحدم ناگزیر پیست
 مردانی فقر بپرول کار خمام است
 پیکن فقر است نقمه بیان آگاه ۵۸۰ ه
 اگر در یاد که در بازگشتی
 ز چندین نفی واشباهت ذهنگداشت

دنبیں خرسندگی آزاد باشم
 براند ازم ز خود بپیاد خود را
 همان انکار من هرگز نه بودم
 ز مردن پیشتر خود را سپردم
 رسالم اللہ اللہ گوشن جبال را
 بیباشم در سماع عاشقانه
 فت در درکشود و انشی تزلزل
 برآرم وست در کار نگهداشت
 براند ازم نمود است همنا هر
 بیخس نام ادی گشته خواص
 بیخس خشقش تملک ندارم
 په سودابیش سروکار پیست هارا
 پتحقیق افتد از تعقیب کار
 عروس حمید نم در بر کشتنگ
 ز گنج بے نشافی صد نشان است
 دل آشکسته را نور الی
 آشکسته دل درستی قیصر است
 دنبیں فقر اشوم راسخ تمام است
 چزواییں پنداشت همیدان اندیشی اه
 په پادش داستی هرگز گشته
 غرض فقر است و یاتی جلد پنداشت

ز آسیب نشان منندی رمیدن
 همان در کار فنی غبیض بودن
 نفس را در دم آگاهی نهادن
 پیشان بودن از چشم پر اگسد
 مناجاتی در ای نفی و آشاست
 نه دیده مسدم دنے دل خبردار
 جهت را بامشاهد کرد نابود
 بجند نظاره بجانان ^{۶۹۰}
 خود از لطف ارگی نام و نشان نه
 فیات المیات مهمنوع المفکر
 دل آگاه دجسمان آرز و مند
 گلے چرخار حسرت و نظر نیست
 پرام عاشقی فتاویگان را
 پر استغلائے مطلب راه بروان
 کسے رانشر کرت اند رویش و کنم نیست
 سخن کوتاه که جای گفتگو نیست
 نه آں را شپه دنے این رانحو
 مجتت حنا ^{۷۰۰} فارغ زنحوغا

ز کثرت دود و از نسبت ترا
 پیان نسبت فتح راهیں پر طلب بجهش پیش
 طلب تشرییع طلب حقیقی
 پیانم را چو تو فیض رفیق است
 گزشنخ از خود اول شرط کار است

خطوط نفس طلسمی کدام است
 چه ذوق علم و چه حفظ مقامات
 دل خود بین که خود چوپ بست پرست آ
 مراد دوست را آمده باشی
 به کلی میل ازین تجناه بردار
 و مشوقت هم استفاده رو
 نه صورت، ماند اندر دل نه معنی
 بیند از خرابی در عمارات
 که از سیل فراخفت، اشت بجنوں
 کند بکاره عاشق را سرماوش
 دور وزیرے در امانت فاریش بود
 که در عالم نیا بد کس نشانش
 مبارک حنوت غیرے دران نه
 زمانی و توئی نام دنشان ن

در حقیقت شاهزاده رویت سخن گفت

پیشتم و دل گرفتار حقیقت
 و صحیح کشف تا شام تندی
 به قسمش جبان نور مصادر
 ز فوق عمدش تا حد علام
 نه در صحراء غیرب شنیده
 علی الحقیقت زین قسم اتصال است
 در نگ و جیز و اشکال خالی
 خبرداران اسد از حقیقت
 چنین گویند کا نوار تختی
 به و بجهه در سه قسم آمد مقرر
 بیکه در صورت محض لوق ظاهر
 متعبد نیست این قسم از سعادت
 چو در صورت بودگر در شناس است
 همان در کنوت نور پر شانی

تعالی اللہ ذہبے نور عسلی نور
 چچی حسی چچی مٹالی جملہ صوریت
 بروں زین اسم پشم سر نہ پنید
 خلاف آمد کہ دیدہ بایند دیدہ
 پہنا دیدن کند قافون خود ساز
 بجز پشم نیقیں اور اکہ دید است
 ۷۳۰ پوچوں جرم خور در حشیشہ خور
 وجودش لیک پو شیدن نیاری
 شہودش دا پیں نور صفات است
 شاہد نیست جز قلب شناسا
 بچشم سرد ہر دھنلے دریں کار
 بردنے روز انوارِ صنمہ ٹر
 بجز رخسارہ حبائ آگاہ بنود
 کہ دیدار خواص آن جہان است
 پہ دیدار و به دیدن کہ داشارت
 عبارت از شہود صوری است آں
 پئیت یکم در د دوری است آں

تجلی صورت است از زیری و شکنے در
 بلے مری چیز ظلمانی د لوریست
 کسے زین حبلوہ بالا تر نہ بلیند
 شبہ معراج چوں سلطان گزیدہ
 حقیقت اپیں کہ در حقیقت ایں راز
 کہ ذات حق بغایت نا پیدیست
 ظهور ذات حق در تکب النور
 اگر چچیم خور دیدن نیاری
 تجلی بلے گماں نسبت بذات است
 ہمه در پرده انوار اسما
 ولے در آخرت سلطان غفار
 فتد در موطن تبلی الشراڑ
 بخشش آفت اباب د ماہ بنود
 مرا با جملہ تحقیق آنچنان است
 اگر عارف بہنگام عبادت
 عبارت از شہود صوری است آں

دریان تجلی معنوی و فنادر وحدت صرف

چواز صورت بر آید ساک راه ۷۳۰ بجان مشتاق قربی سع اللہ
 خشتش حبلوہ معنی رہ باید
 بیشند و دست را در کوت علم
 فنادر وحدت صرفش دہدست

دریان تجلی معنوی و فنادر وحدت صرف
 چواز صورت بر آید ساک راه ۷۳۰ بجان مشتاق قربی سع اللہ
 خشتش حبلوہ معنی رہ باید
 بیشند و دست را در کوت علم
 فنادر وحدت صرفش دہدست

قادر وحدت صرفش وهد وشت کشیده جام و از ساقی شده است
 خوش آس می کافگند پرده نکارم بروی از پرده بخاید نگارم
 دل از جام و صراحی سرد گشته دخود دز گرمی شبیس گز شسته
 بلانگه ز سر و می مجلس آرایے پیخته ای و خبیری زده ای
 زنگ خود پرستی چند رسته قاب فگنه نده و تنهان شسته

دریان مجتبی ذاتی و فنا و پیقا

روزه چوں از بیکشود بپاید دش در کسوت و بیکر دد آید
 فلکے لم بیل داده شکستیں ۹۵۰ بغلے لم بیل بیگر فتنه دستش
 پداست آیند افتد مقابل تجلی خواه سرست و قوی دل
 به پندار نفت بلگ شته بیکتا مقابل بیکن از نسبت هست
 دل و حشم و خیال افتد کناره شود نور یقین سست نظر
 یقینه مقصد و معراج و نیش یقینه تاحد حق یقینیش
 ذہرو هم و گماں بیرون حسابش یقینه اسم المؤمن نفت بش
 یقینه تیزه گرد لامکانه یقینه حمل دید آن هب نے
 مشاعر را درین خلوت بیست درین موطن عبال آگهی نیست
 که بُر حان وجودش هم وجودش شهودش را بیسے هم شهودش

دریان مجتبی ذاتی و بخلی معنوی و مجتبی صور می علم حضوی

حضور ذات اگر در خلوت جان بود بله پرده کشف فاتی است
 و گر علمی حصو علم حضور بیست ۹۴۰ فله در پرده کان امر ضرور بیست

تجھی معنی دانند نامش
تجھے صوریش خاند سخن گئے
یکے در حسن و دیگر در مشاست

مے علمی حصہ لے شدعت مش
اگر در صورتے مرگی کشد رہئے
دو بھائیکن خمور ایں جماست

دریان بیچی عالم البقین و عین البقین و حق العقین و هراتب آن

در اطوار ظهور شش تیز بیں بود
در ایں عین البقین مقصود بیں کیست
که دار ذ دولت حق البقین شش
صفات و ویست را آئینہ گفت
و گر علم است - عین حق چنام است
دهند اول مراد بآنگه ارادت
یقین گر نفس اذ خان و قبول است ۶۷۰
که ایں نور - نور عسر شش پر واز
ز اصل خود حب را ائی بود اور ا
اما نت دار آن نور ویت دلیست
ظهورے دار و آن عین سعادت
بنام حق چہ زیبا حکمت است ایں
 جدا از اصل خود گیرد نہورے
شود علم البقین نامش خرد را
به ادر اک بسیط اشت د سروکار
کمال است احتراف عرفناک
از بخبا اعرفنا هم عرفنا است ۶۷۱

دلم دو شینه در فنکر یقین بود
که پا رب شاهد عین البقین خپیت
چور فست از خود دل خلوت شینش
چه معنی دارد از خود در گز شتن
بر دل هاز علم بسیما فی کدام است
صیح امرت آنکه از خوان سعادت
یقین گر نفس اذ خان و قبول است
شد از نور یقین تحقیق ایں راز
چو آن نور است نور حق نفس ای
خشست آن دل که فدا مخلق عظیم است
به هر دل در خود خس ارادت
تعالی اند چه حالی قدرت است ایں
چو آن نور از کثا فته اے دوے
نظر بر عالمش فہت دیکھے بد را
چو ادر اک مرکب بگشله تار
چو مجرزا ذ درک اک است ادر اک
از بخبا اعرفنا هم عرفنا است

ازیں روئے غیر ملوق است ایکاں
 فلمند گشتن از ایکاں بہ پدن
 ملکے نیست چند ای پژوهش
 کتاب لا احبت الافین خواند
 دش با پر دگی دارد نیازے
 ولیکن جلوه خلوت نشین است
 برہنہ از نیاس سیم دامبید
 ازان عین ایقین عین حضور است
 و نسبتہ گوناگو زبیں بود
 یقین فارست ز آبہب کثافت
 مجر حق واقع هلم ایقین کیست
 ایقین را تبیه زیں پیشتر نیست
 شور وشن که مطلق نور عین است
 که وجہ ای پر طلب کام عتم
 تعالیے اللہ نہ سے نور ہدایت
 چو سائل بایقین گفتہ ہوا اللہ
 ہماں ذاتش ز نسبتہ اصوات است
 ہماں سرایہ تصدیق گفتہ
 ۷۰۰ مداب اقیاد و منہ ایکاں
 ز ایکاں کرد ناہیتا کنا رہ
 مشاهدہ را ایکاں نیست چارہ

ازیں تحرید ایکاں است عربیاں
 ازیں مسی ایست باخی از مسیدان
 چواز دجھے شک آمد در وجودش
 نجیل از سیر صوری چوں بر افشارند
 محقق راست اندر پرده را زے
 دریں دم جلوه عین ایقین است
 باصل خود سید آن فور جا دید
 حضور ذات در مرأت نور است
 چو در علم از مفت م خود بروی بود
 بے ناخن شناسی می شد آنچا ۶۹۰
 چو توجید آمد اس مقاط اضافت
 دریں مسعودہ جزوی ایقین چیست
 کہ در حق ایقین از غیر نیست
 دریں موطن کہ مطلق کشف ایست
 محقق شد ازیں علم مستم
 نہایت درج بودہ در مدایت
 چہ خوش گفتہ آن حکم کار آگاہ
 صفاتش در تحقیق عین فات است
 یقین کاند دریں تحقیق گفته
 حضور سادہ اما حسل ایقان
 ز ایکاں کرد ناہیتا کنا رہ

در تحقیق متن جلیا و در کشف هر اتفاق آن بیان و حثت در صوف

چراغ از ثور تحقیقت شد و زان
چشدرا اذار معنی در خیال است
بجوش آیده چو در پیک گردیده بار
ز اطوار یقین هر سو ظهوری است
از این علیم یقین آنچه بگویند
یقین مطلق اندیشه د محال است
درین ره کشف این معنی حضوری است
چهاب هستی از جاشت بر انداز
۱۰ بودی از پرده شود الله اعلم
بجشن حسل حضوری هشتم جان را
کند گرد خاطر از نظر شد در
په و حبدان مجرد حب گزار
توجه علیم و حبدان است اینجا
شود چو ذکر ناپسیدا توجه
وجودش حبسگی مذکور گبرد
چه گوییم الله الله کان چه فیکو است
پ تحقیق انتها در ابتدای ایافت
مجرد از تماشا انتظاره بیست
۲۰ بیاب ایس انتظار آدمی سوز
اگر علمست در علیم است و حق
زهی بگشته نجت آنکس که نشید

دگر ره در ره دل ای سخن ده ای
یقین کشف صوری از چه باشد
فردا خاطر خشنده دیدار
که در هر جا جداگانه حضوری است
حضور ذاتی از صورت بجه بیند
میقد چوی همه و هم و خیال است
یقین معنوی هم مثل صوری است
اگر خواهی شود مکشوف ایس راز
دگر خواهی بگیرد در تو ایں دم
بند کرد وست گویا کن ذیان را
فیم ذکر با و حبدان مذکور
حلا وست ذکر را از پا در آرد
حضور ساده رخشان است اینجا
در آیده چو باستیلا توجه
دل از خود شید و خدست نو گبرد
و دش از نو خود علیه و هدو وست
درین ره هر که انوار خدا ایافت
بودی از صورت و معنی نگاریست
تماشا کن نگار عالم نمروز ۲۰
سعادت نجش ایمان حق
آسانی درین ره میتوان دید

طريقه مستندير است اينکه گفتم پيکتائی مثير است اينکه گفتم
 ز خود بپرسی مرد کن تو جدا نیست خودی گزار کلیں خود آشنا نیست
 شرود هم آنچه می باشد شرود تو دافی و قبول راه بروان

شام شد شنوی گنج فسته تقداد اشعار

(۵۴)

متفرق اشعار

از شنوی گنج فخر کواز د عجہ محصوری در مسویه داخل کرد نه شد بلکه نقل آن نسخه دیگر کرد
 بشام بحرت و تاریخی عندار ۵۲۷ باش خوش عنکبوته غیری کار
 بمحور کن فریش داشتربا دید ۵۲۸ باشوبی که دشت کر بلا دید
 بدار و گیر پدر حسب و خدق ۵۲۹ بروز فتح و نور حصص الحق
 آن شب کن سرائے ام قهانی ۵۳۰ رسیده در هفتام لامکانی
 په بیرون رفتن اذ آدازه این ده ۵۳۱ به سجان الذی اسرعی بعید
مراجع
 پیدید آنکه می باشد دیدن ۵۳۲ په بیخود گفتن و بله خود شنیدن
 در ای خلوت که چشم چاں نگخورد ۵۳۳ بجهش نظاره جانان ره گخورد
 بجهش نظاره چیزی در میان نه ۵۳۴ خود از لطف رگنام و شان نه
 لظر هم نیست اینجا جو تجربه شد ۵۳۵ فان النات ممنوع لحقنگر
 درین بستان پودخشنل بر و مند ۵۳۶ مل آگاه و جبان آرز و مند
 ولیکین بر چشیدن خون چگر نیست ۵۳۷ گلی جزو خار حسرت و لظر نیست
 دو معنی حاصل است آزادگان را ۵۳۸ بدایم عاشقی افتادگان را
 یکی در طلب دیگر فرودن ۵۳۹ باستغایه طلب راه بروان

در بیان تحقیق علم امین و عین لیقین و حق لیقین مرانیب سه

علم دو شیخه درست کر لیقین بود ۴۹۳ در اطوار خاورش تبیین بیس بود
 که یارب شاهد عین لیقین حضیت ۶۴۵ در آن عین لیقین مخصوصاً بایز حضیت
 چواز و بجه شک آمد در وجودش ۶۸۳ مدارے نیست چندان پژوهش
 حضوری ساده رخشناسی است اینجا ۱۳، توجہ عین و بعد ای ایست ایس جا
 در آید چون در استیلا توجه ۱۵، شود چون ذکر ناپیدا توجه
 ول از خود شید وحدت نوزگیرد ۷۱۹ وجودش جملی ذکر گردید
 درش از نوز خود علمی و هر دوست ۷۱۰ پیکیم افتد اشد اثر دوستی بگوست
 دریں ره پر که انوار خدا یافت ۷۱۸ به تحقیق انتہا در ابتدای افت
 پر دل از صورت معنی تکاریست ۷۱۹ مجرد از نشان انتظار است

ساقی نامه

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| طبعی که سخنوری گزینند | ۱ در پرده صبه که نشینند |
| در گوشش دلم فسانه گفت | عنون فسرده را برآشافت |
| یعنی چه مقام حیرت است ایں | ہنگام طلب خوش بشیش |
| چون قصه حبام و باده آمد | میدان جنوں کشاده آمد |
| در دامن ساقی خود آوریز | دیوانی خوش بشیش |
| ساقی قدح که ہوش شیارم | زین ہشیاری بے فکارم |
| ایں کا سہ که پرس فیگون است | جایست اگرچہ غرق خون است |
| در حشتم بیش بیگن از دست | تا خود برادر دل شود است |
| محفوں تو یک سپاله خواهد | زان باده دیر ساله خواهد |
| من پیر کمن گداب شه ده بکام | زان جسم عده که شه ده بکام |

دنیا کے کہن شود مندا موش
 در جر عد ردم چوبے دستے
 گرد حشم مے رد تو اند
 نہ جر عد نہ بپے جر عد یا بیا
 دیں باده خم نہ ز آپ خاک است
 آں جاں کہ شنودہ بود مردہ است
 امر دز فیت متنے بر نگیز
 نہ حشر شنا سد و نہ گاوم
 اسرار عجیب در او نہان است
 نہ پار کفن نہ قیسہ رفتار ۲۰
 فند دوس - دل کشادہ تو
 بسحان اللہ عجیب صور است
 از نجحت تو شگفتہ با غم
 خود را گرد و دو جر عد سیدار

آں جب عد چو در سرم زند جوش
 عقدهم چو صحیفہ اش کسند طے
 چوں جر عد نہ مے بر بہنہ ماند
 اکنون پئے هبہ عد گر شتابی
 این سیکدہ جملہ جاں پاک است
 ساقی ہمہ خون میں فشردہ است
 بر میں دو رہ قدرہ می فرد ریز
 رو ھک کہ شود در اُد فراہم
 این صورت تو عرش آشیان است
 نہ پار کفن نہ قیسہ رفتار
 ایساں بر بہنہ بادہ تو
 دوزخ صفتے کہ از تو در است
 من گرچہ آتشیں دماغم
 اے زادہ خام طبع - بے کار

در پاے طبیعت خرامت
 یک قطرہ ز در نہ مے تماست
 سو گند بچ بام و بادہ تو
 کاندرہ بادہ جباں پارام
 در خاک - سیپی چرانہ باشد
 بیلے گفتے در فتے از دست
 زان شیفقت کم نیم در بیں درد
 ساقی و شراب و جام گویم
 عمریت ز دست فشندر کارم

ساقی بہ دل کشادہ تو
 کامرز جزا بیں ہوس ندارم
 دستے کہ ز بادہ دور باشد
 بینوں کہ ز بھر بود سرست
 من نیز دے بہ آور مسد ۳۰
 معشوقد بہ چیند نام گویم
 در ذکر ش اگرچہ پرستدارم

آں کا بس دم کہ جاں ندارم
 می گویم دبے خبر زگفتار
 از گفت من است واڑ خیال
 بالپش وصال او شود چفت
 برخیزندم و گوششہ نشینم
 از مست چنیں خبر نہ گیرد
 بنہماں کر شدہ تا بیسم
 دانم کر لی چبیل و است مقصود
 جس ز خواری مرگ بندگی نیست
 زاہد شدہ مست چنہ بشست
 من جملہ شہم تو آفتابے
 آں پر تو دل فند ز خواہم
 کز رو نہیے چہ بسہ گیرد
 از عقل کنوں فساد غ دارم
 آمد چو صباح رفت مصباح
 گر شب برد - برد - چہ در کار
 ایں بار ز سرفتاوہ اولی
 چوں دوست رسد چہ جائے دشمن
 دیگر بہہ گو کہ خود پرستی
 اے آئیں فتنہ تو گشتم
 تایشیں تو لعنة نشینم
 خدمانی و آں تموّج نور
 بودی چو حباب آشکارا

من ذوق سخن چپنا ندارم
 دارم بخیال می سروکار
 من بیده در که ام حالم
 وقت است کہ ایں جاں ویں گفت
 تو سیں کماں چوں نہ بینم
 پاں شحذہ مختسب مسیده
 ساقی من ازیں حیات سیرم
 از خلقت ایں دوست نابود ۲۰
 در زندہ سری فنگندگی بیست
 منته کہ ز پارے خم شده است
 ساقی بس اشراب نابے
 در کسوت باده روز خواہم
 عقل ایں سخنم نہ می پنڈیرد
 من پوے تو در دماغ دارم
 رو جم بچنیل نجعت راح
 روز است مرا دنجدت بیدار
 ایں نفت دز دست داده اولی
 چوں ادا آید چپد طافت من ۵۰
 اور ونی دین و حبان هستی
 اینکہ من ازیں نسد گز شتم
 بیکن نہ چپنا پنجره روئے بینم
 چشم بد و بیک از بیان دور
 زین پیشیں په خیله بجن را

نه نقش دند نقشبندی بود
 آنچه نهاده از جمیع بود
 این مشت خیال را فروپیں
 امروز درین حسنه اب بشییں
 جانم به همان زمین فتاوی است
 اینجا تنم از چهار و قضا داشت
 من نیز بجنایم به رفتار
 ساقی می نقشبند پیش آر
 دارم به همان زمین سروکار
 من صید توام کمند پیش آر ۶۰
 آن نیست که آورده باش او
 هر چند کمند عذری بود
 بر لاشد خرے چه کار دارد
 آن ہوئے ختن شکار دارد
 در حلقة آن کمند فانی است
 عطاء که نقشبند ثانی است
 در چشم آن کمند آسود
 آن رشته که پارسا قلب بود
 در چشم آن کمند بیان آزاد
 در چشم آن کمند سیار خارم
 آن خود گل ایں سیار خارم
 در چشم آن کمند بینید
 خود را بجند از نمک نه بینید
 قصر ادب استوار گرداد
 خوش آنکه سه یار حپار گرداد
 آید به کمال خود درین حصہ
 خشته شده ام که این نحو قصر
 از من پر تمام سر برآرد
 یک حمام از بیشتر که دارد
 خواستدم ختم می فروشان
 در کان نمک گل از شبند
 خود را بجند از نمک سه یار حپار گرداد
 خشته شده ام که این نحو قصر
 از من پر تمام سر برآرد
 بزرگی که در این زلال نوشتار
 شرط طلب است امید بست
 امید سرے به کار دارد
 امروز درین رباط فانی
 شمع که درین سیاه خانه است
 روزم به امید او سفید است
 باشد که بر دل ز جست بحیم

له اشاره بحضرت مولانا یعقوب چرخی و متدس اللہ سرہ

اے ارجمند حسین تو دافی
خاک و شدم رسول خود را
در دیده من حبیدا نیافی
وے پشم و چراغ نور بیان
بنواند سیاه خانہ دارو
ایں چتر سیاه را شرف دد
اے خوش خش دروں تپه در
سر حبیده مرغزار بیش
نعم السبدل نہ میں لطیف
فردوس پہ درگفت جیں سود
دیده شرف ابو تراجمی
حاصل شدہ سیر لامکان
با سیر لما خلق ت الافتلاک
با ایں گرد نسبتیں کجا بود
مضون ابو تراب گویم
ہستی پہ خدا کے خود پیروز
و ز آب بغا فرد شستہ
ور دکھن پائے خود چہ امکان
سر سلسلہ چہار علی بود
کچ سو حسن و حبیب داد
کزوں کے حکم فی کثیرہ بکشاد
ستور پہ زیر پرده خاک
پس باشتہ د صادق نکوزاد

گفتہم سُخنے ز کام سرای
در دیده کشم قبول خود ز را
اے حناک مدینہ در کجیانی
اے مردم پشم و در پیانی
در پاب غم آشیانہ دارد
سو زندہ عندهم کمن تلفت به
اے نور دل چپار عنصر
اے در تو تاج آفندہ بیش
اے نور تو چوں فلک ہویدا
اے چجلہ خواب گاد مقصود
اے از تو زمیں بد بین حسندای
اے آمدہ نور آسمانی
سبحان اللہ چہ نسبت حناک
او سر بر کمال مصطفی بود
من حصل این خطاب گویم
خاک اندر جما عستے که مردند
از سطوت نور در شکسته
کردی نہ بہ پیشته پیسے ز بیشان
سر حلقة خش کیاں علی بود
زان گندروں نہ سبند کشود
معروف دسری جنیبد بعد از
یک سوئے دگر طبیفہ پاک
سبطیعن رسول وزین چشتاد

این سلسله از طلاقے ناب است
 القصه ابو تراپ این است
 هر چند غرض در بین کرام است
 یکیں سرمشته بجبا بود
 گر خاک مدینه می شنودم
 در دست حس ملان را ازش
 اے خواجہ پارگاه سرد
 وه وہ چه زبان پاک دارم
 این تنهک بساط در نور دم
 گویم سرد سرد رسن است این ۱۱۰ مذاخ پیغمبر من است این
 سبحان اللہ بلند ذات است
 تحال حروف عالمیات است

سلسله پیران طریقت رحمت اللہ علیهم اجمعین

پو صادق یافت ملک سیدنا محمد
 ز صدیق و سلام دزفت احمد
 ذ خبره و اشت شد فور علی نور
 بران معنی که آبایے کرامش
 دو ر پیر راند صادق سعی سبطام
 ہماں عنشوہ په ملک خر قان بود
 پو شاه خر قان مند نشیں شد
 کیمے طوسی نثار انشان برآمد
 ذ گنجوری په سلطانی در آمد
 ولیمهد فندریدول بود و جمشید
 ز فرزندان آں هصر دلاست

چهارم آفتاب دیگر بیت حور
که خضرش در صدوف بود است متوجه
عمر سے را کہ در پرده آستمن صفو
زمین بخند وائی آس منبع نور
نگنند از کفت قلم مانی دشای پور
خبار حشیم بد افشار زده از سور
په نبیت جند پر را بنشاده از سور
زبان بجسام موسی دار ببر طور
که کم بودیش نقش غیر مخلوط
فراعین هوا مکنون و مقدور

گرامی خواجه احمد را از فرے ۲۰ خرابات جهان شد بیت معمور
و جود خواجه و انفاس پاکش

چو شدش فیض و فردوس تقاپو

بهم آجنب ختم شد ایں سعی مشکور

تاریخ تولد برخورد دار خواجه عباد اللہ و برخورد دار خواجه محمد عبداللہ

که در یکی سال زاده هست تولد شد نسلیم اشرف ایله

بے برگ گزشت زندگانی

پو درم سر دیکے به سایه خود سند

افتاد شگونه بد ستم

دیدم ناگه بس ارب شگفت

پشکفت بپار - در خطے آورد

بنود دو دیشنا هوارم

اما م وقت ابوالیعقوب بیمهت
عزیز مصر را در خلف شد
نقاب نیستی افکت در درسر
کنوی خلوت کرد سلطان دین آت
چوشاه نقشبند افراشته رایت
پهیے نقشی نشان خوبیش گم کرد
جنید و بازیز پر آورده بکب جا
برآمد ساقی ناگاه سرست
اما نسته دار ابوالیعقوب چرخی
فر و نشند در بنیل جلا بش

گرامی خواجه احمد را از فرے ۲۰ خرابات جهان شد بیت معمور
و جود خواجه و انفاس پاکش

چو شدش فیض و فردوس تقاپو

بهم آجنب ختم شد ایں سعی مشکور

در باغ طرادوت جوانی

هر گزند شمیزده بیئے فرزند

آخربه بیئے اسید بیشم

طبع غزل نشاط می گفت

تاریخ شناس تیزیز بیں مرد

زاں ہائے دو چشمہ بس ارم

در بیک تاریخ گشته ظاہر
 در بار در خست شد دو بادام
 بگوشتند چهار ماه و اکثر
 ۱۰ روز بیم از ریح اذل
 هفتاد درین سیاه خانه
 کاینک شب در دشمنی ماش
 کیم شعله غریب خود شکن بود
 نظر گیا در ایستادند
 کاپد به پناه صبح خبیث آن
 شد دامن شب چه بره اندوز
 کاینک به تویی سپارم ایں بود
 کاشلام پوشکل آدمی زاد
 ایمان محمدیش خواهیم
 ۲۰ شد بند ویکے بزرگ نامے
 ان شا ایش شفیع من باو
 گوید ز من آن سخن که داند
 او مفاس و من حنده بینه شاه
 هنیش بخیا لم کارسیدن
 سرگرمی آستانه او
 می بود حنده بینه دار پیوست
 در بیوه حبیال من اثر کرد
 زاده کے مین لقب نهادش
 آمد بز میں چو باو فور و ز

یعنی که همان دو نور باشد
 بالبید پس از مرد بر ایام
 با پیش خلور آس دو گوشه
 آن گشته درین خرابه نزل
 بود آخر چشم کان بیگانه
 خود شید گز بید خوابگاهش
 انگشت پلاں در دهن بود
 زین سقفت در پیچه پاک شدند
 خود نیز به شرق شند گردید
 زین طرفه نشاط خاطر افزود
 قطب از طرفه نفس بر آورد
 اندر مکوت خلخل افتاد
 گفتند که تهیت رسانیم
 در حنانه کتری عسلانه
 این نام نجسته دلک زاد
 بر درگه خواجه ام رساند
 گوید که ز سیر کارم آگاه
 کارش همه گردی من قبیل
 من بودم و لفشد خانه او
 پیچاره فلت دریه تهید است
 چوں با نع طبیعتش بر آ درو
 چشم ملکی شناخت زادش
 الیقته دران گز مشتنی روز

کردند موذنان اسلام ۳۰ مجلیب را ذال بگو ششش اعلام
 تا فطرت او ثبات یا پد
 بخیزد هلا موذن غیر
 این خسته بسے نیاز مند است
 گریکدم الہ از تو گیسم
 یک شعله نور ده به روزم
 خود را به تو باز می سپارم
 در خود نیم از من سپیر روز
 این عمر کده باد بوده بسته
 بے دوست بحق دوستداری
 پاں از توفیتم نیاز ناند ۳۰ اذ من بحق منداق خواندن
 بحران تو حصل جاده دلی است
 افتاد که چنین نه نی هر کس
 گرجی علی الصلاة گوئی
 دزیر گفتن شوم منه ایم
 من مرده دوست در نازم
 افتاد به صفحه تحبلی
 گردند و کون مدح خواهم
 این نقش وجود بر تراشم
 پاں اللہ گوئے تابعو شم
 در راه الله ارشوم نیست ۵۰ حاجت بساع اکبرم نیست
 در پشم من آن الک عظیم است
 من بیکدم سرد تمام دارم

ملکیب را ذال بگو ششش اعلام
 دین ابویں بر شیا بد
 در گوش من آر باگ لاریب
 یک شحمد از بست پند است
 واللہ که همان زمان بسیدم
 تاحث ما سوا بوزم
 می بسیدم و شعله می گزارم
 خود شعله خوبیشتن بر افراد
 این مرگ حبلی شنوده بتر
 خواپان تو ام محباں سپاری
 از من بحق منداق خواندن
 در پیش تو مرگ زندگانی است
 کوچی علی الصلاه نه می هر کس
 هم خود به صلاة من بپوئی
 رشک همه زندگان عالم
 سبحان اللہ بخود بمنازم
 گویم و هوالذکر یعنی
 فَذَ أَفْلَحَ أَبْغَیْ تُشَانِم
 بیکرم از اذال شنوده باشم
 اینک چو صدوف تمام گوشم
 ۵۰ حاجت بساع اکبرم نیست
 دانم که صراط مستقیم است
 یک رشحه حیات کام دارم

چوں من بروم چچ کم چچ بیمار
 سر رشته ر شخه هم بجسام است
 بسرا بی اوست هم ز جایے
 عالی است ذ حرف اندک دیش
 سچانک تبیت این چچ حرف است
 سر رشته ععتل سود بابت
 ایمان محمدی گز یه م
 آن خواجه بیست عفنی کامل
 تحقیقی رو چنین که دانم
 گویند که عاقبت و دانا است
 دافی که من از کدام باشم
 افتاده همان بخار و خون در
 دارم دلکه تمام افعال
 بسم الله نام من کدام است
 نام که مرا ز من رهاند
 پاں خامد به صهل قصه زن چنگ
 چوں تولد و گر آور
 هنگام ماه رب و پگاه ششم
 چوں روز ز روشنی الباب
 در ظلمت شب چو ساعت قدر
 در آخر فتد و بله نوافی
 خوشید پیش تجتند آمد
 تاصیح پیش شتاب برخاست

از رشته کفا بیست این کار
 چوں در بگردی غرض نام است
 گز حسر رسید به تشه کارے
 نز غلط مفت ام در دیش
 در بایے ازل بیش شنگون است
 امی بیس حکیم شله نفابت
 من حسن قه عاتقے در بیدم
 از قید تفسنگ م چه حاصل
 من بیس محمدی همه گمانم
 هر چند که خلق ناشناست
 استادم و داشتم کست برم
 طفل که خوردہ شیر نادر
 بگز شته هنوز پیش سلطان
 گمانم و کار حبشه خام است
 نام که کزو مرا بخواست
 اینجا سر عقل می خورد سنج
 تاریخی که چو شد نمودار
 افتاده به بحر و بر طلاق
 چوں صبح رسید هندر شب
 چوں ماه تمام مشرح صدر
 بازور مجتبت حبده ای
 با خود جست کمال رسید
 در عین شب آفتاب برخاست

نشان طلسم خود نمودند
 آن شب در معرفت کشودند
 کردند ستارگان بدو سر
 خوشید به اخواب خود در
 ای عرصه تیره شد نمودار
 در پیده شپرای چو کم زاد ۶۰ در حضرت پس ایں دوکثرت افتاد
 افتاده نه تیره و نه روشن
 چون سر کشد آفتاب بر من
 روشن به جایب اجنبیا کم
 گل تیره پر متذم فتن گم
 در پرده چینیں ظهور داد
 خود نیز حباب نور دارد
 چون نیز باجست بجا در آید
 گر پرده ز روئی خود کشید
 ایں طفلا را با د نما فی
 یارب که طلسم خود کشت فی
 چون خسل ز دانه سر برآرد
 خود را بطنام خود گزارد
 در بحر تو چون جایب رفتند
 چندیں همه آفتاب رفتهند
 در مون خودش نکن پریشان
 ایں قطوه هم از شمار ایشان
 باشد کامم از د بر آید
 بس شنید و بس خرابه ای دست ۹۰ در حضرت یکدم آبم ای دست
 هر جایب که ترشح تو بینم
 اے بحر طلب بکام من شو
 در العشق آیم و نشیشم
 من جایم چه عی کنم گرد ایم
 امر و نیزیکے جایم من شو
 مشتاق تو ام و هن کشایم
 بحر سخن ایستاده بسته
 اکنون دهنم کشاده بهتر
 زین گفت دشنه د حاصله غیبت

جران و خوشش باید مزیست

قطعه اول

از سال نامه دوم از تاریخ است

این صوت تو عرض هشیانست ۱۹ اسرار عجیب در دنیان است

نہ بار کشن نہ قید رفتار ۲۰ اول فتد مش مقام دپدار
ایماں برہنسہ بادہ تو ۲۱ فندوس دل کشادہ تو
دوزخ صفتے کر از تو دو راست ۲۲ سیحان اللہ عجیب صور است
من گرچہ کہ آتشیں داعشم ۲۳ از نجات تو شگفتہ یعنی
اے زاہد حنام طبع بیکار ۲۴ خود را گرد و جر عد می دار
و رپائے طبیعت خرامت ۲۵ یک قطرہ نہ درد می تماست

تاریخ تولد پر خوردار خواجہ عبید اللہ و خواجه محمد عبید اللہ کہ در بیکسال ہنولہ خند
در پانع طراویت جوانی ۱ بے برگ گزشت زندگانی
ہر گز نشیریدہ بونے فند زند ۲ بودم سرہ بے بیباہ پر خود سند
در خاڑ کھتریں عشا لامے ۳ شد بندہ بیکے بزرگ نامے
ویں نام خستہ و ملک زاد ۴ انتہا اللہ شیفع من با و
بر درگہ خواجه ام رساند ۵ گوید ز من آں سخن کہ داند
گوید کہ دستہ کارم آگاہ ۶ او مغلس و من حند بیٹہ شاہ

تاریخ تولد پر خوردار خواجہ خود و اسمہ خواجه محمد عبید اللہ سلسلہ
گل شکرے بو الجھے دست داد ۱ شکر سہندی گل ترک زاد
بلکہ زکشیر گل زعفران ۲ شد شکر آلوہ سہند دست
شاخ گل از پانع ولایت شناخت ۳ از فتد حہنڈ شکر آب یافت
شاخ بنتے شد انیں طرف فن ۴ آنبتہ اللہ نباتات حفظ
بلکہ نہ لے ایست بروں از جهات ۵ آمدہ در عرصہ ایں شاہ مات
گرچہ فرو منتہ درین یک مہ ۶ بار در است از اثر قرب عمد
آمدہ پس در خم ایں تیسہ ختم ۷ ماہ رجب بود صباح ششم

کرو قسم سال و لادت رقصم
باں بشمار انجپر قسم زو قسم

رباعیت

سنته الاحرا

سبحان الله نہ بے خشک امتعال^۱ عالی ذ تقدیر و مبتداء نہ جیاں
از نور لفتش ضمائر مشخون دز سر سرایش جهان مالا مال

۲

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| نور نے بجز از کون نکرداست قبول | گویند وجود کون کو نیت حصول |
| بر طبق فراغ است و بر فوقی احوال | والله کرد درین پرده سان الغیب است |

۳

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| بل در عدم ایجاد ثابت قدم اند | بشناس که کائنات رو در عدم اند |
| باقي همچنان نمود نور قسم اند | و بین کون متعلق از جیاں و وهم است |

۴

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| بغیر کرہ در دل بسیر و نش نور | در دلے ز عجوجی بصد نوع ظهور |
| یا بسته افواح نمود رش باطن | و ای ظاہر در پرده و حدست متنور |

۵

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| دنخوبیں دو کون را حشاد و رداده | دانی که در عدم چسان بخشاده |
| سادت شنیده بسته در دل ابیریں | در بسیر دل عکس آن عکوس افتاده |

۶

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| اوصورت و حق آئینہ بکنل هست | این است بیعت که حق را باما |
| هر صورت در ظهور شرط او گردید | این نسبت اسباب ازیں و پیدایت |

کل کسب کر نزد مانگشتہ عیاں
حق موجود است و قادر مطلق است آوت
در مذہب اهل حق جوزاں ہمچوں اس
ویں مشتت خیال حجۃ و ہم است دکل

حادیث کہنا شد بد و آں پائیدہ
 سبحان اللہ ذہبے خیال با طل
تاثیر کشند پر حادیث آیندہ
این است وجود رے عدش زابنیدہ

آنچا کہ حق است جملگی بے سبب است
کسے کہ وجود او بجز وہ نہیں نیست
از کن فیکون جوزاں روشن بیں عجیب است
نیست بخن اکنڈ کسے بے ادب است

ہر صورت علمیہ کہ مستش گوئی
معلوم کہ صہل است وجود علم است
زار ہست کہ بولے اصل انویں پوئی
جمل است اگر جوزاں روشن بیو پوئی

مکن کہ خرد ذرحدیش بکشاد
او درستی دستی اندر وسے بود
در بد و نظر پر مستش فتوی داد
بے چارہ پر اشتباہ نامے بینا و

از صفائی مے د لطافت جام
ہر جام است غیبت گوئی مے
در ہم آمیخت رنگ جام ددم
بامام است نیست گئی جام

ایں صورت علمیہ کہ در جلوہ گریت
اور اک رکب است و مرآ خدا است
از خال و خلش جمال مقصود بریت
در وسے ہم خپیم بود ان زبے لبریت

در علم دو دجه است بثہب و بیب
کبھی چہ پشاہ است کبھی چو عجیب

در وجد شاهد ہمہ زنگ اسست و تبیز
در وچہ عجیب نہیں نشان اسست و تبیز

۱۵

ایں علم بیسط بیے تبیز اسست و نشان
چوں حاصل نمازہ ندارد نہ تو ان
در ساحت اواره نہ این آؤندہ آں
تحصیل نمود کیس محال اسست عیاں

۱۶

از حضرت ذات بہرہ استہلاک اسست
آں بروفت اسست نامش اور اک بیسط
انہلا کے کہ از تصویر پاک اسست
آنجا چہ فحیل داش و اور اک اسست

۱۷

اور اک بیسط موطن محدود فنا
ایں اسست تفاصیل کہ دریں بیک طقیس
ہر جا ہستی اسست دار د آنجا ماؤ دا
ظاہر شدہ جفت بعریں حد تثنا

۱۸

ہنگام شور از بین هست اہم عالی
در پر دھن لفڑ کیب ظہر کے دار د
پر چند کہ ہست اسست و انش خالی
ایں اسست تیجہ علوم حسالی

۱۹

لیکن باید کہ فرد آں باطن پاک
در دیدہ رسیں کون حصوی ماند
ہر لحظہ نیافتہ ز تمام اور اک
تمایافت شود تیجہ استہلاک

۲۰

یارب چہ کلائیشے بے چارہ
ہستی بہ کمال قرب لز و مستور است
کن کوئے حقیقت نشود آواره
کون اسست حصول در دش بیارہ

۲۱

خواہی کہ جمال غریب عدل یا بی
در ذات حسن دلکھ کرد باطن
ز نہار طلب کمن کہ مشکل یا بی
در نکر چنین مشنو کہ باطل یا بی

۲۲

بنشین که خالی است که دیگر بینی
در منظر موضع مقصود بینی

خواهی حق را به غمیزه منظر بینی
می کوش که بی صورت شخصیت را

۲۳

بیے دائره آں نقطه نیامد به عیان
آں نقطه درود به جلوه گشته عیان

حق نقطه جو الله جهان دائره دار
آن دائره صورت علوم نقطه است

۲۴

وال فکل نسود احتیارات نقطه
خط نقطه داره مرآة نقطه

گر نقطه جو الله بود ذات نقطه
گر در پر جهان که جمله مرآه حق است

۲۵

در نقطه عرض داره شد مشهود
اعیان سه عارض اند عرض وجود

هر چند که دائره ذ وهم است و نسود
گویند که در نظاره کشف و شهود

۲۶

بپول کشد از دائره و از خطسر
در باطن علمش نه بود بیسیع اثر

گر نقطه بجوانگه خود آنے در
در ظاهر حلم گر کج دراست شود

۲۷

این باطن را بپول ز خاکه دانی
هر چند کمی تجربه شن نتوانی

پاں تا نخنی غلط که از کم دافی
ظاهر بدنے که بپول روشن

۲۸

بعنی ز صفاتی خود در حق بنهاد
از هستی چگونه علم و قدرت افتد

هر جا هستی است از بنا است جاد
هستی چ بذ است خود علیم است و قدر

۲۹

رمی است که قادر برید و دانست

در بر شکل که زنگ هستی پیدا است

لیکن ہر کب پسے تردگشتہ در ظاہر علم از بی صفت ہای بحث است

۳۰

چوں نقطہ کہ دائرہ دار و مٹکن
منظر بجز ارجمند نہ ظاہر زن

حق روح جہاں نفس و آفاق بدن
ظاہر در و سے ہم صفا نقطہ است

۳۱

دان لیس کشکہ در دخیلہ زن است
گھر سے فضل است گہا بیس قرن است

ایں ظاہر بے شل بیان بدن است
روح است به اعتبار اخلاقی وجود

۳۲

آں لیس کشکہ سمیع است و بصیر
آں مخلص غنی است و ماسونی مخلص نیز

ہم پیز نگاہ است پار و ہم رنگ پیز
ایں سمیع و بصر خواہ اینہار دگرے

۳۳

از طقی و سمع صاحب پیل عجب است
در باطن خود نام آریات ب است

تنزیہ فقط ذ علم سوئادب است
مد ظاہر کریات بے تنبیہ است

۳۴

در اکثر تنزیلات تو جویش غیبت
سهول است و در اگرچہ جویش غیبت

تبیہے را کر بکر تنسیہت نہیت
ایں نکتہ ز فتوحان شیر باید

۳۵

وین مشت خیال سر برنا بغا است
دانگاہ نظر اره کن کہ حق موجود است

چوں ظاہر علم پرده مقصد است
از نقش و مسبے بیعتش گریز

۳۶

شد ظاہر و باطن تو در کار نقش
کاسان شودت شکست بازار نقش

ہر حس تو نہیت زانہار نقش
برنجیز و جمال نقشبندی اطلب

۳۶

پوں نقش نہاده رُخ نہ بے نقش آری زان لوح وجود سخن برداری
 نور بیرونگ تر جانش گرداد ز منار که دل پر تر جاں نہ سپاری

۳۸

بیس راز منفعت راعیت از شود آن بیس رنگے چوپ پر تو اند از شود
 و امکن بے انتشار ہر راز شود ہر جانور بیست برکشند حیله بخود

۳۹

گرد د د جاں ز تر جاں مالا مال گوبیند که چوں رسید تذلی بے کمال
 گوش از ہمہ جانش بشود بانگ تعالیٰ چشم از ہمہ سو سرمه مازاخ کشد

۴۰

واجنب پر جلوہ گاه حیائی نہاده کام چمکن چنگناے حد مناک شیده کام
 بر لوح صورت آمد شہود خاص و عام در جبر قم که ایں ہمہ نقش غریب چیز

۴۱

ایں است مقام کنست سمعہ شبونو اگر کشته بہر نمود پیو ده گرد
 بنیشیں و بہر طرف مشود تگئے دو در تست نموز که بیس بے طرف است

۴۲

حروف آناؤ گئی رانخطے پر سرکش یک لحظے سے پر جیب سنتی در کش
 یعنی که نگار نیستی در پر کش گر مر در ہی بہ نامزادی خوکن

۴۳

دیں روشنی از نور تمام فقر است ایں سکتے کہ من ذدم بنام فقر است
 کام را از سرحد تمام فقر است بر پیغمبر خواجہ احرار بیگیر

۴۴

خامش شدہ خامہ و فہری بست دست آمد چوڑ باغی پر چهار از هشرات

ماهم سخنی را که پر شرخش گفته‌یم کردیم تمام بر صحنه صدوات

۳۵

اندیشه پوار بعین خود بپرد بسر
در تفرقه اش چو اهل ظاهره منگد
در هر شاهنامه نبای شناس داده خبر
هر چند که هست کل یوم فی شاه

۳۶

نمی خواهد درین نامه بس اسرار است
فهمی ز متقدیر خرد و شوار است
محروم مسلسله الاحرار است
از کون و مکان بقید انش فرزند

۳۷

در راه خدا جمله ادب باید بود
تاجان باقی است رطلب باید بود
در بیاد باید کرد و خشکاب لب باید بود
در بیاد باید اگر بر کامت ریزند

۳۸

بدست من امشب چو مسراستند
غم پیچو پلال لا غر و کاسته است
در شب غمیشیم که فتنه برخاسته
لای صبح بروں بیبا که ترکان مستنه

۳۹

صرخه شیم زیل حذر کن که آهیم
ترمی کنم به گریه و افسرده می ردم
آن گلپنهم به با غ قو کزیک نیم لطف
نشکفتہ ام هنوز که پژ مرده می ردم

فرود

از تو که بیزگ با چندیم صور
بهم شیوه بهم منته خبره سر

من از بیمه بجسته نشان همی دیم
که استخوان عزیزان به ساحل افتاده

می گز ششم زعنفم آسودہ کن گذ کیمی ۳ عالم آشوب نگلے سے سر را ہم گفت

بیغیر آنکہ پر روز سیاہ خود گردید ۱ دگر ز دیدہ باقی چہ کار می آیہ

من در جہ ذیل تین ربا عیاں اور چار فرد کے متعلق صحیح طور پر مہمیں کہا جا سکتا کہ آپ کی ہیں یا کسی اور کی ہیں اس سلسلہ میں تحقیق کرنی ضروری ہے۔

۱

آنجا کہ کمال کبریاے تو بود ۱ عالم نے از بحر عطاءے تو بود
مارا چھدہ حمد و ثنایم نہ سزاے تو بود ۲ ہم حمد و ثنایم نہ سزاے تو بود

۲

من کیستم اندر چہ شمارم چہ کسم ۱
باہر ہئے سکافش باشد ہو سم
ایں میں کہ کسد ز دور بانگ ہرم
در قافله کہ اوست دامن نہ رسم

۳

جانا بقمار خانہ رندے چند اند ۱
بامروم کم عبار کم پیو ندند
رندے چند اند کس نہ داند چند اند
برشیہ و نقہ ہر دو عالم خندند

حکاہ خور شید و گھے در پاشوی ۱ حکاہ کوہ قافت و گه حنقا شوی

تو نہ آں پاشی نہ ایں رذات خوبیش ۲ اے بر دل اذ و ہم ہا در بیش بیش

ما کیتم اندر بھان پیچ پیچ ۳ چول الٹ او خود ندار و بیس بیک

در بیغا کست نہ دامن ہی پنڈ شتم دامن ۴ از بیں پنڈ اگونا گوں پی زین دنیش پیشانیم

$\frac{2}{2}$
 $\frac{4}{96}$

11 12 13

$\frac{2}{25}$
8

31

12 13
14

4 22

33
16

32 -

74
9 11 14 9
15

72
72

7 -
324

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library